

﴿جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں﴾

نام کتاب : تفہیم المسائل (جلد سوم)

مصنف: پروفیسر مفتی نعیم الرحمن

طبع اول: اپریل 2007ء

طبع ثانی: نومبر 2007ء (نظر ثانی شدہ ایڈیشن)

صفحات:

تعداد:

قیمت:

☆.....ناشر.....☆

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

۱۳ انفال پلازہ اردو بازار، کراچی

ملنے کا پتا:

دارالعلوم نعیمیہ بلاک 15 فیڈرل بی ایریا، کراچی

فون: 021-6314508/6324236

مکتبہ اہلسنت جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ، لاہور

فون: 042-7634478

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میں نے ضیاء القرآن پبلی کیشنز

کی شائع کردہ کتاب

تفہیم المسائل جلد سوم

تالیف و تصنیف

پروفیسر علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب

کے پروف پوری توجہ سے پڑھے ہیں، میرے علم کے مطابق

اس کتاب میں درج قرآنی آیات کے الفاظ اور اعراب

غلطیوں سے مبرا ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب

فقط

حافظ محمد ابراہیم فیضی

WWW.NAFSEISLAM.COM

## گزارش احوال واقعی

تفہیم المسائل کے سوالات و جوابات اولاً روزنامہ ایکسپریس کے جمعہ کے ایڈیشن میں شائع ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں بعض ناخوشگوار تجربات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، مثلاً: (1) عربی عبارات حذف کرنی پڑتی ہیں، جبکہ کتاب کی تدوین کے وقت یہ عبارات دوبارہ شامل کرنی ہوتی ہیں، اس طرح دہری مشقت حصے میں آتی ہے اور اس طرح بعض اوقات ترتیب میں رد و بدل ہو جاتا ہے۔ (2) بعض اوقات اخبار والے کوئی عبارت حذف کر دیتے ہیں، چونکہ یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، بس اپنی عقل و دانش کو حرفِ آخر سمجھتے ہیں، اس لئے عبارت کا تسلسل اور ربط مجروح ہو جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ (3) کبھی ان کی پالیسی خارج ہو جاتی ہے، وغیرہ۔ اسی بنا پر ”تفہیم المسائل“ کی جلد سوم کی ”اشاعتِ اول“ کے بعد میں نے اس پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ اس کارِ خیر میں ہمارے دارالعلوم کے استاذِ حدیث اور انتہائی فاضل مدرس علامہ احمد علی سعیدی زید مجدہم نے نہایت محنت اور عرق ریزی سے پوری کتاب کو حرفاً حرفاً پڑھا اور مفید حذف و اضافات کئے، جسے میں نے من و عن قبول کیا۔ اسی طرح ممتاز مصنف اور صاحبِ طرز ادیب و خطیب علامہ محمد اعظم سعیدی زید مجدہم نے بھی ایک نظر اسے تجلّت میں پڑھا اور ان کے مفید مشوروں کے نتیجے میں بعض مقامات پر ابہام و اجمال کو رفع کرنے میں مدد ملی میں ان دونوں حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ جعل اللہ سعیتہم مشکوراً۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب ہماری ناچیز استعداد و استطاعت کے مطابق ممکنہ حد تک اغلاط سے مبرا ہو، سلیس اور عام فہم ہو اور علمی سقم سے پاک ہو۔

اس کے باوجود غلطی کے احتمال کی قطع نفی کا دعویٰ تعلیٰ کے مترادف ہوگا۔ تمام اہل علم سے گزارش ہے کہ کسی لفظی یا معنوی غلطی یا خطا پر مطلع ہوں تو ”نعاونوا علی البر والتقویٰ“ اور ”الدین النصیحہ“ کے جذبے کے تحت ضرور مطلع فرمائیں، میں متشکر و ممنون ہوں گا۔ کتاب کو بار بار کمپوزنگ اور تصحیح کے مراحل سے

گذرنا پڑا، اس سلسلے میں عزیز و محترم یا سر رحمان کی محبتِ شائقہ کی میں دل سے قدر کرنا  
ہوں اور ان کے لئے دعا کہوں۔

بندۂ عاجز

منیب الرحمن



## ☆ انتساب ☆

میں اپنی اس ناچیز علمی کاوش کو اپنے جدا مجد حضرت قبلہ قاضی عبداللہ رحمہ اللہ  
تعالیٰ و نور اللہ مرقدہ کے نام منسوب کرنے کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہوں،  
جو دینی علوم کے عالم کامل ہونے کے ساتھ ساتھ صلاح و ورع و تقویٰ بھی تھے اور اس  
خطے میں اپنے عہد کے امام الصوفی تھے۔

العبد الضعیف

10، جولائی 2006ء

منیب الرحمن

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

14

حدیثِ دل

18

کتاب العقائد

20

اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا

21

عصمتِ آدم علیہ السلام

31

غیر صحابی کو ”رضی اللہ عنہ“ کہنے کا جواز

36

کتاب الطہارت

38

موجودہ زمانے میں ناپاکی کے مسائل میں درہم کی مقدار کتنی ہے ؟

38

ناک میں پانی نہ ڈالنے اور کلی کے بغیر وضو کا حکم

40

کتاب الصلوة

42

دعاء اذان سے پہلے درود شریف

43

اذان سے قبل یا بعد با آواز بلند درود و سلام پڑھنا

46

رسول اللہ ﷺ کے بذات خود اذان دینے کا ثبوت

49

معذور پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے

50

نماز کے دونوں سجدوں کی شرعی حیثیت

52

فاسق امامت کا اہل نہیں

54

نماز کے اندر قراءت میں غلطی پر امام کو لقمہ دینا

59

فرسٹ فلور پر نماز باجماعت کا حکم اور گراؤنڈ فلور پر نمازیوں کا جماعت میں شامل ہونا

60

معذور کیلئے اشارے سے رکوع و سجود کرنا

62

معذور کیلئے اشارے سے رکوع و سجود کرنا

62

نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے کا شرعی حکم

- 66 مسجد میں لڑائی جھگڑے اور شور و شغب کا حکم
- 68 ایک مسجد میں تراویح کی دو جمعائیں
- 69 نماز قصر کی بابت ایک مفتی صاحب کا فتویٰ
- 71 نماز قصر میں سفر کی شرعی مقدار
- 73 سرکاری زمین پر بغیر لیز یا الاٹمنٹ مسجد کی تعمیر اور شرعی حیثیت
- 75 درود و سلام اور اذان کے درمیان اعلان کرنے کا حکم
- 81 قضاء عمری پڑھے جانے کے لیے کونسا وقت موزوں ہے
- 82 مسبوق کی نماز میں سہو
- 83 پہلی صف کے فضائل
- 86 بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء
- 90 کتاب الجنائز
- 92 امامت نماز جنازہ کا سب سے زیادہ حق دار کون؟
- 96 جنازہ اٹھاتے اور لے جاتے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا
- 105 ماں کے انتقال کے بعد بچے کی نگہداشت وتر بیت کا اولین حق کس کو حاصل ہے؟
- 106 نماز جنازہ کی شرعی حیثیت
- 109 میت کی باقیات کو نکلوا کر دوسری زمین میں منتقل کرنے کا حکم
- 112 سانچہ گھونکی میں جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی و اماثنا تدفین
- 116 سانچہ گھونکی میں غیر مسلم کی نماز جنازہ
- 117 دعاء بعد الجنازہ

124 دعا بعد الجنازہ ضرب مومن کے مفتی محمد کا جواب اور ہمارا جواب

الجواب

154

کتاب الزکوٰۃ

156

مسائل زکوٰۃ

157

مسئلہ زکوٰۃ

158

مسئلہ زکوٰۃ

161

زکوٰۃ بظہرہ صدقات واجبہ اور قربانی کی کھال کے مصارف

162

کتاب الصوم

164

اعتکاف رمضان المبارک

164

معتکف کا محراب مسجد میں جانا

165

حالت اعتکاف میں غسل مسنون کا مسئلہ

165

مسجد کے اندر رہتے ہوئے معتکف کا ٹوٹی پر ہاتھ دھونا

166

کتاب الحج

168

حج کا بیان

168

استطاعت

170

عمرہ ادا کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا

171

خواتین کا محرم کے بغیر حج

173

رواگئی حج سے پہلے اگر ماہواری کا خون آجائے تو کیا کرنا

چاہئے؟

173

عمرہ ادا کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، بھائی کو نقلی عمرہ کرانا جائز

ہے۔

بھائی سے قطع تعلق کرنا

176

خواتین کیلئے حج و عمرے کی شرائط



178	والد کا حج بدل پہلے یا اپنا فریضہ حج؟
183	فریضہ حج سے بری الذمہ ہونے کے لئے حج بدل کے شرائط
186	<b>کتاب النکاح</b>
188	حرمت نکاح
188	مہر مؤجل یا معجل کا حکم
189	شوہر کے کلمات کفر کہنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے
196	عقد ثانی کیلئے پہلی بیوی کی اجازت کا مسئلہ
197	نکاح پر نکاح کا شرعی حکم
208	مہر مؤجل یا معجل کی شرعی حیثیت
212	جہیز و بری کے سامان کی ملکیت کا مسئلہ اور ایام عدت کا نفقہ
214	بیوی کا الگ جائے رہائش کا حق
217	مہر کا معاہدہ اور مہر کی رقم میں اختلاف
227	لے پا لک کے نکاح کے وقت ولدیت کا مسئلہ
238	لا وارث بچے کی ولدیت کا مسئلہ
239	عقد نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر و ازدواجی حیثیت
240	زواج صحیح
248	سوتیلی بیٹی سے نکاح
250	<b>کتاب الطلاق</b>
252	تحریری طلاق اور نطقہ
252	طلاق رجعی
254	ایک طلاق تصور ہوگی
258	مسئلہ طلاق
260	مسئلہ طلاق و حقوق ازدواج

- 262 دو طلاق رجعی
- 263 مسئلہ تفویض طلاق
- 268 عدالتیں ”فسخ نکاح“ اور ”مخلع“ میں فرق کریں
- 275 بیوی کو محض اذیت دینے کی خاطر لٹکائے رکھنا
- 277 دو طلاق کے بعد رجوع
- 279 محض ارادہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی
- 279 تین طلاق کا مسئلہ
- 281 تحریری طلاق کا حکم
- 283 طلاق نامہ پر شوہر کے جعلی دستخط
- 285 حالت حمل میں نفاذ طلاق
- 288 جائز شرعی وجوہ کی بنا پر عورت عدالت سے فسخ نکاح کی استدعا کر سکتی ہے
- 291 عدت کے احکام
- 295 طلاق کے کاغذ پر مکان کے کاغذ کہہ کر دھوکے سے دستخط لینا
- 297 ایلاء
- 299 الفاظ صریح یا کنایہ کا تعین
- 300 دو طلاق کا حکم
- 302 تعلیق طلاق
- 304 نکاح سے پہلے طلاق مؤثر نہیں ہوتی
- 310 کتاب العتد
- 312 دوران عدت ملک سے باہر جانے کی اجازت؟
- 315 عدت کے دوران بیوہ کو سسرال والے گھر سے نکالتے ہیں
- 318 کتاب الرضاع

- 320 مسئلہ رضاعت
- 320 شک سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی
- 322 رضاعی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں
- 324 رضاعت کا مرضعہ کے اقرار یا کواہوں سے ہوگا
- 325 مسئلہ رضاعت
- 328 کتاب الفرائض
- 330 والدین کی نافرمانی کا وبال اور اولاد کو عاق کرنے کی شرعی حیثیت
- 338 مسئلہ وراثت و ہبہ
- 339 ہبہ
- 340 مرحومہ بیوی کے ترکے کا مسئلہ
- 342 تقسیم ترکہ (دو بیوی، تین بیٹے، تین بیٹیاں)
- 342 مسئلہ وراثت
- 343 تقسیم وراثت کا مطالبہ کرنا
- 345 بیوہ کی شادی سے اس کا حق وراثت باطل نہیں ہوتا
- 346 دختر کے واجبات میں وراثت کا حق
- 348 تقسیم ترکہ یا ہبہ؟
- 349 اولاد کو ہبہ کرنا
- 353 مسئلہ وراثت
- 354 مناخہ
- 356 غیر مسلم ہونے کے شک کی بناء پر وراثت میں حصے کا حکم
- 357 تقسیم ترکہ
- 357 تقسیم ترکہ

- 358 ترکہ میں نواسے اور نواسیوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟
- 359 تقسیم ترکہ
- 360 تقسیم ترکہ
- 361 لے پا لک بیٹی کا شرعاً کوئی حصہ نہیں
- 361 تقسیم وراثت وحبہ
- 363 تقسیم ترکہ (بیوہ، تین بیٹے، تین بیٹیاں)
- 363 دادی اور پھوپھیوں کو حصہ نہیں ملے گا
- 364 تقسیم وراثت
- 365 تقسیم ترکہ (بیوہ، چار بیٹے، ایک بیٹی)
- 365 وراثت میں حق تلفی کا عذاب
- 366 تقسیم ترکہ وحبہ
- 369 مسئلہ حبہ
- 370 مسئلہ وراثت وحبہ
- 371 مسئلہ وراثت
- 372 زندگی میں والد نے جو کچھ دیا ترکہ سے منہا نہیں ہوگا
- 373 مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وراثت
- 375 مسئلہ وراثت
- 376 مسئلہ وراثت
- 377 وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں
- 379 تقسیم وراثت
- 380 بیٹے کا باپ سے تقسیم وراثت کا مطالبہ
- 381 مسئلہ وراثت
- 382 حلال و حرام ..... جائز و ناجائز

- 384 حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت
- 384 سورۃ الرحمن کی آیت کا جواب دینا
- 386 مسجد میں تلاوت قرآن اور درس و وعظ میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال
- 390 مسجد کے لمبے کا استعمال
- 393 مزارات پر حاضری
- 397 فاتحہ کا مفہوم، طریقہ، مروجہ فاتحہ کی شرعی حیثیت
- 408 شادی کی قسم کھانا
- 409 بلا ضرورت قسم کھانے کا حکم
- 410 عورت کا غیر محرم کے ساتھ مشترکہ خاندان میں رہنا
- 413 ہندوستان سے مسلمانوں کی کمپنی کے درآمد شدہ حلال ذبیحہ کا حکم
- 414 پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ میں حکومت کی طرف سے اضافی رقم
- 415 مسجد کے چندے پر حق الخدمت کی ادائیگی
- 420 متفرق
- 422 کیا عصری علوم کے ماہرین بھی قرآن و حدیث میں بیان کردہ فضیلتِ علم کے حق دار ہیں؟
- 428 مقررہ تعداد میں اوراد و وظائف اور تسبیحات و اذکار کی حکمت
- 435 حفظ کے بچوں کیلئے سجدہ تلاوت کا مسئلہ اور تلاوت کا ایصالِ ثواب
- 439 ہلالِ رمضان، یوم النحر و عاشورہ کی تعیین کیلئے قیاسات و تخمینی ضابطوں کی شرعی حیثیت
- 444 کھانے کے آداب اور مسنون طریقہ
- 454 حدِ قذف
- 458 خود کو غیر مسلم ظاہر کرنے کا حکم

- 461 امانت رکھنے اور واپس کرنے کا حکم
- 463 بوسیدہ اور ناقص قرآنی نسخہ جات اور اوراقِ قرآنی کا مسئلہ
- 468 بیع اور برطانیہ کا قانون
- 470 قرآن و سنت کی روشنی میں ”تحفظِ خواتین بل“ کی شرعی حیثیت
- 486 قتلِ ناحق
- 488 قتلِ ناحق کا شرعی حکم

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على رحمة للعالمين،  
سيدنا ومولانا محمد وعلی اله الطيبين الطاهرين وعلی صحابته  
الصالحين الكاملين، وعلی اولیاء امته وعلماؤه من الفقهاء  
المجتهدين والمحدثين والمفسرين اجمعين

### ﴿كَلِمَةٌ كَلِمَةٌ﴾

الحمد لله علی احسانہ ”تفہیم المسائل“ کے عنوان سے ہم نے روزنامہ ”ایکسپریس“ کی اشاعت جمعہ کے دینی صفحے پر سوال و جواب کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام عطا فرمایا، ملک اور بیرون ملک دینی ذوق رکھنے والے قارئین کرام نے اس کی تحسین فرمائی۔ بعد میں ہم نے اس کی افادیت کے پیش نظر احباب کی خواہش پر کتابی شکل میں تفہیم المسائل جلد اول و دوم کے نام سے شائع کیا اور قلیل مدت میں اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے اس بے پایاں کرم اور اہل علم و قارئین کرام کی حوصلہ افزائی پر تشکر و ممنون ہیں۔

اب تفہیم المسائل جلد سوم پیش خدمت ہے، اس میں بعض نئے مفید اور دلچسپ مسائل ہیں، اس امر کا اندازہ آپ کو فہرست پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ہو جائے گا، ہمیں امید ہے انشاء اللہ العزیز قارئین اسے پسند فرمائیں گے۔

ہم نے سلسلہ تفہیم المسائل کی اشاعت کی ذمہ داری اہلسنت کے انتہائی موقر و ممتاز اشاعتی ادارے ”ضیاء القرآن پبلی کیشنز“ کو تفویض کی ہے۔ یہ ادارہ محسن

اہلسنت منبع کرم حضرت علامہ جسٹس پیر کرم شاہ الازہری قدس سرہم العزیز کی باقیاتِ صالحات میں سے ہے، اور یہ ”وہ شجرہ طیبہ ہے“ جس کی مہک و بہار میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارے کے منتظم اعلیٰ صاحبزادہ حفیظ البرکات شاہ صاحب زید مجدد گفتار و کردار، نفاستِ طبع، متوازن و متواضع مزاج، طبیعت میں ٹھہراؤ اور وقار و تمکنت میں ”الْوَلَدُ سِرًّا لَا يَبِيْهُ“ کے مصداق، اپنے والد گرامی کا عکس ہیں، یہ حضرت قبلہ پیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیضانِ نظر اور حسنِ تربیت ہے، بقول علامہ محمد اقبال ۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی  
سکھائے جس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندِ

اللہ کرے وہ اسی روش پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے رہیں۔ مشاغلِ کثیرہ کے سبب بعض اوقات ہم روزنامہ ایکسپریس میں اپنا ہفتہ وار کالم تسلسل کے ساتھ اور بلا ناغہ جاری نہیں رکھ سکے، قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصروفیتِ کار سے ایسی فراغت عطا فرمائے کہ اس مشن کو تسلسل اور تندہی سے جاری رکھ سکیں۔

ہم پیش آمدہ دینی مسائل کے حل کیلئے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہم کی تفسیر تبیان القرآن اور شرح صحیح مسلم سے بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں اور براہِ راست بھی ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کا وجود اہلسنت و جماعت کیلئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، انہوں نے تحریری میدان میں جو علمی شاہکار تخلیق کیے ہیں، مجھے امید ہے وہ آئندہ صدیوں بلکہ ہزاروں تک مطلعِ علم پر آفتابِ نصف النہار کی



طرح ضوئاًن رہیں گے، جبکہ ان سے محض نفسانیت کی بنا پر بغض و حسد رکھنے والے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے لمبے تلے دن ہو جائیں گے، ارشاد باری تعالیٰ حق اور سچ ہے:

فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُحَاءً ج وَأَمَّا يُنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُوتُ فِي  
الْأَرْضِ، (الرعد: 17)۔

(ترجمہ) ”یعنی جھاگ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز انسانیت کیلئے نفع رساں ہوتی ہے، (اللہ تعالیٰ کی توفیق سے) وہ زمین میں قرار و دوام پاتی ہے۔“ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل علامہ محترم کو اپنی تمام تر جسمانی، فکری، علمی اور عقلی ثنویٰ کی سلامتی کے ساتھ تا دیر اپنے دین متین کی خدمت کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔

میں اہلسنت و جماعت کو یہ خوشخبری سنانا بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ مصنفات میں علامہ سعیدی، شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کو ہمارے عہد کے دو ممتاز اکابر علماء اہلسنت، علامہ عبدالحکیم شرف قادری اور علامہ محمد اشرف سیالوی مد اللہ ظہما العالی نے مسلک اہلسنت و جماعت کے لئے مستند و متفق علیہا قرار دیا ہے، یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ دونوں اکابر ہمارے مسلک کے لئے حجت و استناد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں اکابر نے مذکورہ بالا کتب کی عبارات میں جن مقامات پر حذف، ترمیم و تبدل یا تصحیح و اضافے کا مشورہ دیا، علامہ صاحب نے بہ طیب

خاطر سے قبول فرمایا اور اب ان کتب کے آئندہ ایڈیشن اسی کے مطابق آرہے ہیں۔ اہل علم کے لئے ایک ایسا فروز نوید یہ بھی ہے کہ علامہ صاحب نے ”عمۃ الباری“ کے نام سے شرح صحیح بخاری کی تصنیف کا آغاز کر دیا ہے، امید ہے کہ یہ ایک منفرد و ممتاز شرح حدیث ہوگی اور اس کا انداز شرح صحیح مسلم سے مختلف ہوگا۔

ممکن ہے مجھ سے کسی مسئلے کے تفہیم یا تفہیم میں خطا ہوگئی ہو، اگر کوئی صاحب علم میری کسی خطا پر مطلع ہوں تو ازراہ کرم اصلاح فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، میں ہمیشہ ان کا ممنون رہوں گا۔

مفتی عبدالرزاق نقشبندی دارالافتاء میں میرے معاون ہیں اور اس کتاب میں درج مسائل کی ترتیب و تخریج میں بھی ان کا تعاون شامل رہا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور انہیں اپنی خصوصی توفیق و کرم سے نوازے۔

جلد سوم کی اشاعت سے پہلے میں نے حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی زید مجدہم سے خصوصی گزارش کی کہ وہ اس کتاب کے مسودے کا تفصیلاً اور بنظر عمیق مطالعہ فرمائیں، نفس عبارت اور ترتیب و ترویج میں جہاں اصلاح کی ضرورت محسوس ہو، بلا تردد وہاں اصلاح فرمائیں۔ میں حضرت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول فرمایا اور اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحات مجھے عنایت فرمائے۔ مفتی صاحب کی فقہی جزیات پر اچھی نظر ہے، افتاء کا

ملکہ بھی ہے اور مسائل کا استحضار بھی، اللہ جل شانہ سے دعا ہے ان کے علم، عمر، ورع اور دینی خدمات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔

میں مولانا محمد ابراہیم فیضی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان منتشر و متنوع مسائل کی ترتیب و تدوین اور تبویب میں تعاون فرمایا اور صحیح کی ذمہ داری کو بھی احسن طریقے سے نبھایا۔ اسی طرح ان فتاویٰ کا ریکارڈ محفوظ رکھنے میں مولانا محمد نصیر اللہ نقشبندی کا تعاون بھی شامل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ماجور فرمائے۔

ان شاء اللہ العزیز! ”تفہیم المسائل“ کی آئندہ مجلدات بھی آتی رہیں گی۔ میں بہ صد عجز و نیاز و بہ غلبتِ خلوص اللہ جل شانہ، سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں ملتجی ہوں کہ وہ اپنے حبیبِ کریم علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ الوفاء التَّحِيَّةُ وَالسَّلَامُ کے طفیل اس سعیِ ناتمام کو اپنی بارگاہِ عالی میں مقبول و ماجور فرمائے اور اہل علم، اربابِ فکر و نظر اور دینی مطالعے کا ذوق رکھنے والے قارئین کی نظر میں اسے وقعت و تکریم عطا فرمائے۔ آمین۔

17 اگست 2006ء

بندۂ عاجز  
منیب الرحمن  
مہتمم دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

WWW.NAFSEISLAM.COM

## ﴿کتاب العقائد﴾

### اللہ تعالیٰ پر افتراء باعدہا

#### سوال: 1

زید کا ایک دوست ہے جس کا نام محبوب ہے زید اور محبوب میں اکثر مذاق ہوتا ہے، محبوب کا قد بھی چھوٹا ہے اور کھانا پیتا بھی بہت زیادہ ہے تو زید نے مذاق میں محبوب کو بولا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے محبوب! تو جتنا کھالے تیرا قد نہیں بڑھے گا اتنا ہی رہے گا، تو وہاں ایک اور صاحب تھے تو انہوں نے زید سے کہا: کلمہ پڑھو اور تجدید نکاح بھی کرنا جب گھر جاؤ گے بھی نکاح ٹوٹ گیا ہے، کلمہ تو زید نے اسی وقت پڑھ لیا اب اس مسئلے کا شرعی حل ارشاد فرمائیں تاکہ زید کی پریشانی دور ہو سکے، کہ واقعی ان الفاظ کے کہنے سے نکاح ٹوٹ گیا ہے، کہ نہیں؟ اور ایمان بھی جاتا رہا کہ نہیں؟ وضاحت فرمائیں، (محمد شوکت، ناظم آباد)۔

#### جواب:

سوال میں مذکور یہ جملہ کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے محبوب! تو جتنا کھالے، تیرا قد نہیں بڑھے گا، اتنا ہی رہے گا“ کلمہ کفر ہے، خواہ اس جملے سے اس کی نیت کفر کی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دانستہ ایسا کلام منسوب کیا ہے، جو اس نے ارشاد نہیں فرمایا۔ لہذا ان کلمات کا قائل مستثنیٰ زید ان کفریہ کلمات کے کہنے کی بنا پر کافر ہو گیا۔ علامہ علاؤ الدین حصکھی لکھتے ہیں:

”وفی الفتح من ہزل بلسلف کفر ارتدوان لم یعتقدہ للاستخفاف فہو

ککفر العناد۔“

ترجمہ: ”اور جس شخص نے مذاق میں کفر یہ کلمہ کہا تو وہ مرتد ہو جائے گا، خواہ وہ اس کلمہ کفر کا عقیدہ نہ بھی رکھتا ہو (یعنی اس نے وہ کلمہ کفر قصداً نہیں کہا اور نہ ہی وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ محض بطور مذاق کہا ہے)، کیونکہ اس میں شان الوہیت کا ذکر بہ انداز حقارت ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بر بنائے سرکشی کلمہ کفر کہے۔“

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”قلست و یظہر من ہذا ان ما کان دلیل الاستخفاف یکفر بہ وان لم یقصد الاستخفاف الخ۔“

ترجمہ و مفہوم: میں کہتا ہوں کہ (علامہ کمال الدین ابن ہمام صاحب فتح القدر کی) اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے کلام سے شان الوہیت کی اہانت ہو، اس کی تکفیر کر دی جائے گی، خواہ ایسے کلمات بول کر وہ اہانت کا ارادہ نہ بھی کرے، یعنی ایسے امور میں حکم ظاہر حال پر لگے گا۔ ورنہ لوگ روزمرہ کی گفتگو میں ذات باری تعالیٰ کو اپنی گپ شپ کا موضوع بنانے کی جسارت کرنے لگیں گے، جبکہ یہ مقام ادب ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 310 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔ علامہ ابن عابدین شامی کی اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ازراہ مذاق، بلا نیت اور غیر ارادی طور پر بھی توہین آمیز کلمات استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شان الوہیت کو نشانہ مذاق بنانے کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اور اس کلام میں مزید فساد یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے کلام کی نسبت کی گئی ہے جو اس نے ارشاد نہیں فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کذب و افتراء ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝“

ترجمہ: ”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، جس نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھ لیا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے“، (الانعام: 21)۔  
لہذا صورتِ مسئلہ میں مذکورہ قول کے قائل سے کفر سرزد ہوا اور اس کا ایمان جاتا رہا، لہذا اس پر تجدیدِ ایمان اور تجدیدِ نکاح فرض ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ عصمتِ آدم علیہ السلام

## سوال: 2

کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین و مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اپنی بیان کردہ تفسیر بنام فہم القرآن کیسٹ نمبر ۱ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر ۳۳ تا ۳۸ میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہتی ہیں: اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں سے مانوس کر دیا سب چیزوں کے نام سکھادیئے، پہلا علم دنیا کی چیزوں کا علم تھا۔ ”اس علم کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے“۔ لہذا جب ان کو جنت میں بھیجا گیا تو شیطان ان کو بہکانے لگا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا جب وہ جنت سے نکلے تو اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا، بھیجنا تو پہلے بھی تھا مگر وہ شعر ہے، بڑے بے آبرو ہو کر

تیرے کوچے سے ہم نکلے: تو وہ عزت سے نکلنا تھا لیکن یہاں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نکلے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور ابوالبشر ہیں ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کیا یہ توہینِ رُسل نہیں ہے؟، (اسماء منیر، عالمہ اسلامک یونیورسٹی، گلشن اقبال، کراچی)۔

### جواب:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی برأت کئی مقامات پر فرمائی۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ: ”اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا (کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے) تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہ پایا“۔ (طہ: 115)۔ قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ اس (شیطان) نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر حضرت آدم وحواء علیہما السلام کو اپنے اخلاص کا یقین دلایا، اور انہیں یہ باور کرایا کہ اس سے انہیں حیاتِ ابدی حاصل ہوگی، (ملاحظہ ہو الاعراف: 20,21)۔

جب ابلیس لعین سے حضرت آدم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا اور ان کے دل میں اس کو کھانے کا شوق پیدا ہوا تو وہ رُشوق میں وہ یہ بھول گئے کہ اس سے کھانے کی ممانعت تحریم تھی اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ یہ ممانعت تنزیہاً تھی، اس لئے آپ کا اس درخت سے کھانا اجتہادی خطا اور نسیان پر مبنی تھا، اور اجتہادی خطا اور نسیان گناہ نہیں ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آیا، اور

ان کا توبہ و استغفار کرنا، ان کی تواضع اور انکسار ہے، اور ان کی ندامت اور شرمندگی اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ممانعت کو کیوں بھول گئے، اس کو یاد کیوں نہیں رکھا؟۔

ہر چند کہ بھول چوک سے بچے رہنا انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، لیکن اپنے بلند مقام کے اعتبار سے وہ یہ سمجھے تھے کہ ایک آن کیلئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد نہ رکھنا یا کسی چیز کے شوق سے اس قدر مغلوب ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہے، یہ بھی تفصیر ہے اور وہ اسی بنا پر ندامت اور شرمندگی سے روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے، تاہم آپ کا یہ فعل گناہ نہیں تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا، ان کے حق میں سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے، کیونکہ ان کو زمین پر خلافتِ الہی کیلئے پیدا کیا گیا تھا کہ آپ زمین پر اللہ کے خلیفہ اور نائب بنیں، اور یہ نہ کہا جائے کہ اس معرکے میں ابلیس کامیاب ہو گیا اور آپ ناکام ہو گئے، کیونکہ ابلیس تو جنت میں صرف آپ کا عارضی قیام برداشت نہیں کر رہا تھا اور آپ زمین پر اس لئے آئے کہ زمین پر اپنی اولاد میں سے اپنے پیروکاروں کو قیامت کے دن دائمی طور پر اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں۔ سو آپ اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ دوام اور ہیبتگی کے لئے جنت میں جائیں گے اور ابلیس اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں جائے گا سو اس معرکے میں حضرت آدم علیہ السلام ہی کامیاب رہے، اور ابلیس خائب و خاسر ہوا۔



وَ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝

ترجمہ: ”اور آدم سے اپنے رب کا حکم بجالانے میں (نسیاناً) فروگزاشت ہوئی تو (جنت کی سکونت کی راہ سے) بے راہ ہو گئے ۝ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرمایا تو ان پر رجوع برحمت ہو اور (عزت و عظمت کے بلند درجات کی طرف) انہیں راہ دکھائی“، (طہ: 121-122)۔

امام لغت اسماعیل بن حماد الجوهری ”الصحاح“ میں لفظ غویٰ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کہ غویٰ کا معنی صرف گمراہ ہونا نہیں جس طرح ہم عام طور پر خیال کرتے ہیں، بلکہ اہل زبان اسے دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں (1) گمراہ ہونا، (2) حصول مقصد میں ناکام ہونا، ”الغسی، الضلال والخيبة ایضاً“، (الصحاح)۔ اس تحقیق کی روشنی میں ہم یہاں، یہی دوسرا معنی مراد لیں گے، کیونکہ یہی یہاں مناسب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں عَصَىٰ آدَمُ کے الفاظ کیوں استعمال کئے گئے، اس کا صحیح جواب ”حَسَنَاتُ الْآبَرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ“ (نیک لوگوں کی نیکیاں بسا اوقات مقربین بارگاہِ الہی کی سینئات شمار کی جاتی ہیں) ہے۔ خطا اور نسیان پر اگر چہ انسان سے مواخذہ نہیں ہوگا اور انسان عذاب کا مستحق نہیں قرار پائے گا لیکن خواص کا معاملہ اور ہے، ان سے ترکِ اولیٰ پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔

حدیث پاک میں ہے:

سمعنا ابا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ”احتج آدم وموسىٰ عليهما السلام عند ربهما۔ فحج آدم موسىٰ۔ قال موسىٰ: انت آدم الذى خلقك

السلامه بيسده، ونفخ فيك من روحه، واسجد لك ملائكته، واسكنك في جنته،  
ثم اهبطت الناس بخطيتك الى الارض؟ ، فقال آدم: انت موسى الذي  
اصطفياك السلام برسالاته وبكلامه، واعطاك الالواح فيها تبين كل  
شيء، وقرتلك نسيجاً، فبكم وجدته الله كتب التوراة قبل ان اخلق؟ قال  
موسى: باربعين عاماً قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه  
فغوى؟ [طه: ١٢١] قال: نعم: قال: افتلو مني على ان عملت عملاً كتبه  
السلامه علي ان اعمله قبل ان يخلقني باربعين سنة؟ - قال رسول الله ﷺ:  
"فحج آدم موسى" -

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم اور  
حضرت موسیٰ علیہما السلام کا اپنے رب کے سامنے مباحثہ ہوا، پس حضرت آدم، موسیٰ پر  
غالب آگئے، حضرت موسیٰ نے کہا: آپ وہ آدم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست  
قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ  
کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتار  
دیا؟ حضرت آدم نے کہا: آپ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے  
کلام سے فضیلت دی اور آپ کو الواح عطا کیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، اور آپ  
کو قریب کر کے سرکوشی کی، آپ یہ بتائیے کہ میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ  
نے تورات کو لکھا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا: چالیس سال پہلے! حضرت آدم نے  
کہا: کیا آپ نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا تھا "عصى آدم ربه فغوى"

“ (طہ: ۱۲۱) حضرت موسیٰ نے کہا: ہاں! حضرت آدم نے کہا: تو کیا آپ مجھے اس کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا؟ پھر حضرت آدم، حضرت موسیٰ پر غالب آگئے، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 6620)۔

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرمادی تو ان سے ملامت زائل ہوگئی، اور اب ان کو جو ملامت کرے گا، وہ شرعاً مغلوب ہوگا۔“ (تبیان القرآن جلد 7 صفحہ 494)

اس تشریح کی روشنی میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز، صاحب وجاہت اور اس کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(1) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔  
ترجمہ: ”اور وہ (موسیٰ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجاہت (ووقار) والے تھے“  
(الاحزاب: 69)

(2) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔  
ترجمہ: ”وہ دنیا و آخرت (دونوں) میں عزت (ووقار) کے حامل تھے“، (آل عمران: 45)۔

(3) وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔

ترجمہ: ”عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لئے ہے“، (المنافقون: 8)۔

(4) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔

ترجمہ: ”اور بے شک وہ (سب انبیاء) ہماری بارگاہ میں ضرور برگزیدہ پسندیدہ بندوں میں سے ہیں“، (ص: 47)۔

(5) خاتم الانبياء ﷺ کے بارے میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝  
ترجمہ: ”اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے“، (الانبیاء: 107)۔

(6) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

ترجمہ: ”اور ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا“، (الانشراح: 4)  
وغیرہا الآیات الکریمۃ۔

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب، برگزیدہ، پسندیدہ، منتخب، بارگاہِ الہی میں وجاہت اور عزت و اکرام کے حامل ہوتے ہیں، قرآن نے کاتبین وحی ”فرشتوں کو بھی كِرَامًا كَاتِبِينَ (یعنی معزز لکھنے والے، الانفطار: 11) اور بآیدی سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ مَّ بَرَرَةٍ (یعنی ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو نہایت بزرگی والے بہت نیک ہیں، عبس: 15, 16) فرمایا۔

لہذا فرحت ہاشمی کالب و لہجہ مقام نبوت اور عظمتِ آدم کی بابت گستاخانہ توہین آمیز، بے ادبی اور ناپاک جسارت کا حامل ہے اور ان کے جنبشِ باطن کا آئینہ

دار ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان کے مقابلے میں ناکام اور بے آبرو کہا۔  
حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، عام اہل اللہ کے بارے میں اللہ کا  
فرمان ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔

ترجمہ: ”بیشک میرے خاص بندوں پر تیرا حکم نہیں چلے گا“، (الحجر: 42)۔  
(2) اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ناکامی اور عجز کا اعتراف کرتے ہوئے  
کہا:

لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ۝

ترجمہ: ”اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سوا ان میں سے تیرے ان بندوں  
کے جو اصحابِ اخلاص ہیں“، (الحجر: 39, 40)۔

اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں جا بجا اپنے عباد مقررین کیلئے فوز و فلاح اور بشارت کے  
کلمات ارشاد فرماتا ہے، مثلاً:

(الف) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں)، (البقرہ: 5)۔

(ب) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

(مومن فلاح پا گئے)، (المؤمنون: 1)۔

(ج) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

(جس نے نفس کو باطل سے پاک رکھا، وہ کامیاب رہا)، (الاعلیٰ: 14)۔

(د) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔

ان کے لئے دنیا و آخرت کی زندگی میں (کامیابی اور اجرِ عظیم کی) بشارت ہے، (یونس: 64) وغیرہا من الآيات الكريمة۔

اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عالم انسانیت و جملہ انبیاء کرام کے جدِ اعلیٰ کو شیطان کے مقابلے میں ناکام قرار دیں، وہ تو انہیں معزز قرار دے اور یہ ان پر سچ "بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے"، کی بھپتی کسیں۔ اللہ کے نبی کو ناکام اور "بڑے بے آبرو" کہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں عزت و وقار کی جگہ کیسے بنا سکتے ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہی بہتر ہے۔

عصمتِ آدم علیہ السلام سے متعلق مسئلے کی بابت محترمہ فرخ چوہدری و اُمم جویریہ کے شکایت آمیز خطوط اور ان کا جواب

(1) محترم مفتی نیب الرحمن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ!

روزنامہ ایکسپریس 11 مارچ میں تفہیم المسائل کے کالم میں آپ کا جواب بنام اسماء منیر اسلامک یونیورسٹی (شاید اپنے ادارے کا پورا نام لکھنا بھول گئی ہیں) پڑھا، رائے کا اظہار کرنے میں تاخیر کیلئے معذرت مگر "ہوئی تاخیر تو کچھ باعثِ تاخیر بھی تھا"۔ کیونکہ میرے نزدیک صرف فریقِ اول کی بات سن کر بغیر فریقِ ثانی سے رجوع کئے، بغیر عذر طلب کئے نہ صرف اس طرح کا جواب دینا، بلکہ ذاتی Comments لکھنا، اسلامی طریقہ سے متصادم ہے، میں نے یہ جاننے کی غرض سے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟، خود تحقیق کا

ارادہ کیا اور مذکورہ کیسٹ لے کر قرآن مجید میں جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، مثلاً:

☆ البقرة: 31-37 ☆ آل عمران: 59-33 ☆ المائدہ: 27

☆ الاعراف: 172, 31, 27, 26, 19, 11 ☆ الاسراء: 70-61

☆ الكهف: 50 ☆ مریم: 58 ☆ طہ: 121, 120, 117, 116, 115

ان تمام آیات کو سنا ہے، کسی میں بھی کوئی ایسی بات یا اشارہ نہیں ملتا، جس سے گستاخی کا احتمال ہو، جہاں تک شعر کا ذکر جو اسماء منیر صاحبہ نے کیا ہے تو وہ بات کا وقفہ دے کر تمثیلی انداز سے بات کی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اس سے یہ کہیں نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والے کی بد نیتی شامل ہے اور مفتی صاحب! نیتوں کا حال تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں آپکی رائے جان کر روحانی اذیت ہوئی کہ اتنے بڑے عالم دین کے یہ ریمارکس بغیر تحقیق کے!!!! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرماتے ہوئے، ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے رجوع کرنے کی توفیق دیتے ہوئے ہم سب کا دین و دنیا کے ہر معاملہ میں حامی و ناصر ہو (آمین)، دعا کو! ام جویریہ۔

(2) محترم مفتی منیب الرحمن صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ!

روزنامہ ایکسپریس اسلام آباد، بتاریخ 11 مارچ کے کالم ”تفہیم المسائل“ میں اسماء منیر صاحبہ عالمہ اسلامک یونیورسٹی کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں نقطہ نظر

جاننے کا موقع ملا۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض خدمت ہیں۔  
 جہاں تک توہینِ رسل کی بات ہے، تو اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش بھی  
 نہیں کہ (ان انبیاء کرام علیہ السلام) کے درجے تو کمال کے ہیں، ان کی شان  
 میں گستاخی کرنا تو دور کی بات، ایسی سوچ رکھنا، پھیلا نا بھی کسی بھی مسلمان کے  
 دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا ثبوت کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے ہی  
 نہیں۔

میں 1994ء سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو باقاعدگی سے سن رہی ہوں، ان کے  
 دروس میں اللہ کی عظمت و محبت، انبیاء کرام علیہم السلام کے عالی درجات، نبی  
 کریم ﷺ کی اتباع و محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کیساتھ ساتھ  
 اسلافِ امت رحمہم اللہ تعالیٰ کے عظیم کارناموں اور ان کے احترام کے بارے  
 میں سنا بھی اور محسوس بھی کیا، الحمد للہ!۔

محترم جناب! آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ Voice Media اور Print  
 Media کسی بھی بات کو لوگوں تک پہنچانے کیلئے دو مختلف میڈیم ہیں اور ایک  
 میڈیم دوسرے میڈیم کی سو فیصد ترجمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ آواز کی دنیا میں لب  
 و لہجہ، آواز کا زیر و بند، لہجے کی ٹون اور وقفہ سکتہ وغیرہ، بات کہنے والے مفہوم کو  
 واضح کرنا ہے اور قرآن مجید کے رموز و اوقاف کا علم اس کی دلیل بھی ہے، جبکہ  
 دوسری طرف تحریر کی دنیا میں یہ سب ناپید ہونے کی وجہ سے بات کچھ سے کچھ  
 بن جاتی ہے اور بات کرنے والے کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے۔ اگر



آپ انبیاء کرام کی شان کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ کے خیالات جاننا چاہتے ہیں تو (سورۃ آل عمران: 33) پر اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ ؕ ، ترجمہ: بیشک اللہ نے جن لیا آدم اور نوح اور اولاد ابراہیم کو) کی تفسیر سن لیں اور ایک فیصلہ پھر بھی دے دیں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا؟، کیونکہ اس طرح کے یک طرفہ فیصلوں سے عوامی ہنگامے تو برپا ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت آسان کام ہے، مگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اس کیلئے علماء دین کو چاہئے کہ سنتِ رسول ﷺ کے طریقہ اصلاح پر عمل کریں، جو بھی بات کریں، اس میں اسلامی اخلاق جھلکتا ہو۔ علمی دلائل (نصوص) کی روشنی ہونہ کہ صرف دلی کیفیات اہل پڑ رہی ہوں۔ جس چیز کے بارے میں جواب مانگا گیا ہو جواب دینے سے پہلے اس پر تحقیق کریں اور تفقہ تدبر اور تفکر سے کام لیتے ہوئے معاملہ کی تہہ تک پہنچ کر جواب دیں، یہ طریقہ امت محمدیہ پر ایک بڑا احسان ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا طریقہ یہ نہ تھا اور ہمیں تو آپ ﷺ ہی کی اتباع کا حکم ہے۔ اسوۂ کامل ایک ہی ذات ہے، جس کی پیروی ہم سے مطلوب و مقصود ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ سننا چاہیں، تو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کی چند کیٹشیں بھجوا سکتی ہوں تاکہ آپ خود سن کر فیصلہ کریں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے؟۔

**جواب:**

محترمہ ہم سے ایک معین عبارت کے متعلق شرعی مسئلہ دریافت کیا گیا تھا، جو ہم

نے تحریر کر دیا۔ آپ نے اس عبارت کی بابت یہ نہیں لکھا کہ: فرحت ہاشمی صاحبہ نے یہ الفاظ نہیں کہے یا ناقلہ نے انہیں غلط نقل کر دیا، گویا آپ نے ان کلمات کو "Disown" نہیں کیا۔ تو ان کلمات کی بابت میرا جواب وہی ہے جو دلائل کے ساتھ روزنامہ ایکسپریس کے کالم "تفہیم المسائل" میں جمعۃ المبارک 11، مارچ کی اشاعت میں شائع ہو چکا ہے۔ اگر نا دانستہ طور پر جوشِ خطابت میں یا سبقتِ لسانی سے یہ کلمات زبان سے نکل گئے ہیں، تو کسی خیر خواہ کے متوجہ کرنے پر ان سے رجوع کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہئے، اس طرح خطا کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سنتِ آدم علیہ السلام میں ہے کہ جب ربِّ کریم نے ان کی خطا اجتہادی پر انہیں متوجہ فرمایا تو انہوں نے بارگاہِ الہی میں نہایت ادب سے عرض کیا!

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ترجمہ: "اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے"،  
(الاعراف: 23)۔

ہاں! غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کا جواز پیش کرنا، اسے Justify کرنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ آپ کی غیرتِ ایمانی کا تقاضا یہ ہونا چاہئے تھا کہ ناموسِ آدم اور عصمتِ آدم کی وکیلہ بن جائیں اور اپنی مدد و کواں کی غلطی پر متوجہ کر کے انہیں اس سے رجوع کا مشورہ دیتیں، یہ آپ کیلئے اور ان کیلئے باعثِ سعادت

ہوتا۔ لیکن تحفظ ناموس آدم علیہ السلام کے بجائے آپ فرحت ہاشمی کی وکالت فرما رہی ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے سامنے طیب و طاہر اور صاف و شفاف دودھ کی بالٹی بھری ہوئی ہو اور کوئی آپ کی نگاہوں کے سامنے اس میں چند قطرے ناپاکی کے ڈال دے تو پھر آپ کی نزاکت طبع و ذوق نفیس اس دودھ کو پینا کوارا کرے گا، خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

مقام الوہیت جگہ و علا اور مقام رسالت ﷺ کے بارے میں ماضی میں بعض نامور علماء نے غیر محتاط کلمات استعمال کئے، انہیں جب متوجہ کیا گیا، تو انہوں نے اور ان کے عالی معتمدین نے ان سے رجوع کرنے کے بجائے تو جیہات، تاویلات اور دلیل و منطق کا سہارا لیا، جس کے نتیجے میں امت میں تفریق پیدا ہوئی۔ اگر وہ ان سے رجوع کر لیتے اور اپنے موقف کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کرتے تو ان کیلئے، ان کے معتمدین کیلئے اور پوری امت کیلئے خیر کا موجب ہوتا۔ اب آپ نے بھی تاویل کا سہارا لیا ہے کہ گفتگو میں سکتہ کر کے تمثیلی انداز میں کہا گیا ہے، تو میری پیاری بہنو! ہمیں نبی کی شان میں یہ انداز تمثیل اور یہ تاویل قبول نہیں ہے۔ اردو زبان میں اتنی مفلسی نہیں ہے، بیان مدعا کیلئے مقام نبوت کے شایان شان پیرایہ بیان اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو اپنے اور اپنی ممدوحہ کے علم پر ناز ہو مگر ہم بھی دین کے طالب علم ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو الحمد للہ! توفیق الہی سمجھتے ہیں۔

غیر صحابی کو ”رضی اللہ عنہ“ کہنے کا جواز

### سوال: 3

جناب عالی! عرصہ دراز سے یہ اجماع علماء اہلسنت رہا ہے کہ نبی و رسول اور پیغمبر حضرات کے ناموں کے ساتھ ”علیہ السلام“ اور حضور اکرم کے لئے ”ﷺ“، صحابہ کے ناموں کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ اور اولیاء کرام کے ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ اس کے علاوہ علماء ہوں یا عام آدمی نیک مومن کے ساتھ عنفی عنہ کی

ڈگری/اصطلاح استعمال کرتے ہیں مگر آج کل کچھ حضرات اس مخصوص دینی طریقے کو نظر انداز کرتے ہوئے رافضیوں کے طرز کو اپنا کر ایک جز میں تبدیلی کر رہے ہیں کہ ولی و عالم دین اور عام نیک مومن کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت میں گیارہواں پارہ (قرآن مجید کنزالایمان) کا حوالہ دیتے ہیں، مگر مستند اور جامع تاریخ کے حوالے سے یہ بات فیصلہ کن ہے کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور صحابہ کی ڈگری/اصطلاح حتمی و تصدیقی اور ثبوت کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، مگر اولیاء اور مومن کی ڈگری دعائی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی یہ آیات اصل میں صحابہ ہی کے لئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تقریباً 25 یا 30 سال قبل کی تحریر کردہ دینی کتب اور خاص کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی (رحمۃ اللہ علیہ) کی تحریر میں کسی اولیاء کے لئے رضی اللہ عنہ کی اصطلاح کا استعمال نہیں ہوا ہے، شکر یہ (مرزا محمد عارف بیگ النور، R-855/19 ایف بی ایریا، کراچی)۔

## جواب:

عرف عام میں چونکہ صحابہ کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ بولا اور لکھا جاتا ہے بلکہ تقریباً اس کا التزام کیا جاتا ہے، اس لئے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ صحابہ کرام کا لقب خاص ہے، لیکن یہ نظر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا اطلاق مومنین صالحین کے لئے عام ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔

ترجمہ: ”اور مہاجرین اور انصار میں سے (نیکی میں) سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے“، (التوبہ: 100)۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے ساتھ ان کی ”اتباع بالاحسان“ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا (یعنی رضی اللہ عنہ) کے اعزاز سے نوازا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ ط

ترجمہ: ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے وہی کل مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس (ہمیشہ) رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے“، (القرآن، البینہ: 8)۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ”رضی اللہ عنہ“ کے اعزاز و اکرامِ ربانی کا مصداق عام مومنین صالحین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْآنْهَرُ خُلَيْدِيْنَ فِيْهَا اَبْنَا طَرَضِيَّ السَّلَّةَ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيْمُ ۝

ترجمہ: ”(روز قیامت) اللہ فرمائے گا: یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لئے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے“، (المائدہ: ۱۱۹)۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رضاء الہی کا انعام اور بندے کا تقدیر الہی پر راضی برضاء رب اور صابر و شاکر ہونا ”صادقین“ کا وصف ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ ”حاملین ایمان و عمل اور خیر البریہ“ اور ”صادقین کاملین“ کا مصداق ”اولی“ و ”اولی“ صحابہ کرام ہی ہیں اور ان کے اتباع میں امت کے دیگر اولیاء، صلحاء، علماء و عالمین ”مخلصین فی اللہ“ و ”مخلصین من اللہ“ ہیں۔  
علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(و يستحب الترضی للصحابۃ) و کذا من اختلف فی نبوتہ کذی القرنین  
ولقمان، وقیل: یقال صلی اللہ علی الانبیاء وعلیہ وسلم کما فی شرح  
المقدمة لالمقرماتی۔ (و الترحم للتابعین و من بعدہم من العلماء والعباد  
وسائر الاخیار، و کذا یحوز عکسہ) الترحم للصحابۃ و الترضی للتابعین  
و من بعدہم (علی الراجح) ذکرہ المقرماتی۔ وقال ”الزیلعی“: الاولی ان

يددعو للمصحابه بالترضي وللتابعين بالرحمة وللمن بعدهم بالمغفرة  
والتجاوز۔

ترجمہ: ”اور صحابہ کے لئے ”رضی اللہ عنہ“ کہنا مستحب ہے، اور اسی طرح ان شخصیات کے لئے جن کی نبوت میں اختلاف ہے، جیسے ذوالقرنین ولقمان (یعنی چوں کہ ان کی نبوت کا تذکرہ قرآن یا کسی حدیث صریح میں نہیں ہے، اس لئے بعض نے انہیں انبیاء میں شمار کیا ہے اور بعض نے حکماء و صلحاء میں) اور ایک قول کے مطابق ”صلی اللہ علی الانبیاء وعلیہ وسلم“ کہا جائے، جیسا کہ قرمانی کے شرح مقدمہ میں ہے، اور (اسی طرح) راجح قول کے مطابق ”رحمۃ اللہ علیہ“ تابعین اور بعد کے علماء، عباد (صالحین) اور بقیہ اہل خیر کے لئے مستحب ہے، اور اسی طرح اس کا عکس بھی جائز ہے، (یعنی کسی صحابی کے نام کے ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی تابعی یا بعد کے عبد صالح کے لئے ”رضی اللہ عنہ“ بھی کہہ سکتے ہیں) اسے قرمانی نے ذکر کیا۔ ”زیلعی“ نے کہا: بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تابعین کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ اور بعد والوں کے لئے ”غفر اللہ لہم اور عفا اللہ عنہم“ کہا جائے، (رد المحتار علی الدر المختار: جلد نمبر 10، ص: 402، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

یہ کلمات (یعنی ”رضی اللہ عنہ“، ”رحمۃ اللہ علیہ“ یا ”رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی“، ”غَفَرَ اللہُ لہُ“، ”غُفِرَ لہُ“، ”عَفَا اللہُ عنہ“، ”عُفِيَ عنہ“ کلماتِ دعا ہیں، ”ذکریاں“ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے محبوب بندوں کے لئے



اعزازات و انعامات ہیں۔ اور کلماتِ دعا کیلئے امر یا ماضی کا صیغہ اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ یہ یقین (یعنی کسی امر کے یقینی طور پر واقع ہونے) پر دلالت کرتے ہیں، یہی کیفیت عقود و معاملات (نکاح، طلاق اور بیع وغیرہ کی ہے)۔ اور چونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے عباد ”مُكْرَمِينَ“ و ”مُتَّقَرِّبِينَ“ کو ان اعزازات سے نوازا ہے، اس لئے ہمیں اس کی عطا پر یقینِ کامل ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (المحاثہ: ۱۹)، يَتَرَلَّى الْمُصَاحِبِينَ (الاعراف: ۱۹۶)، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرہ: ۱۵۳) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۱۹۶)، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النحل ۱۲۸)، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنکبوت ۶۹)، اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا (البقرہ: ۲۵۷)، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (المنافقون ۸)، وغیرہا من الايات الکریمہ۔

یہ ضرور ہے کہ یہ ایک عرف بن گیا ہے کہ صحابی کے نام کے ساتھ ”رضی اللہ عنہ“ لکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے جو لکھا ہے کہ اس پر اہلسنت و جماعت کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اس اعزاز و انعام کو ”تبعین بالاحسان“ اور ”مؤمنین صالحین“ کے لئے بھی عام رکھا ہے، تو بندے کی کیا مجال کہ نعمتِ باری تعالیٰ کی تخصیص و تائید اپنی جانب سے کر دے۔

آپ کا یہ قول بھی درست نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ

تعالیٰ نے غیر صحابی کے لئے ”رضی اللہ عنہ“ کہیں نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے حضور غوث  
الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی کے نام کے ساتھ کئی مقامات پر ”رضی اللہ عنہ“ لکھا  
ہے۔

(ملاحظہ ہو فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحات: 569, 597 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن،  
لاہور)

اور صحیح مسلم کے شروع ہی میں ہے:

قال الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج رضى الله عنه: بعون الله  
نبتدى واياہ نستكفى وما توفيقنا الا بالله جل جلاله، (صحیح مسلم جلد  
اول صفحہ 26 مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی) امام مسلم نہ تو صحابی  
تھے اور نہ تابعی، اسی طرح غوث الاعظم بھی دور صحابیت، تابعیت و تبع تابعیت  
سے بہت موخر ہیں۔

نفس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

## ﴿کتاب الطہارت﴾

موجودہ زمانے میں ناپاکی کے مسائل میں درہم کی مقدار کتنی ہے؟

### سوال: 4

موجودہ زمانے میں ناپاکی کے مسائل میں درہم کی مقدار کتنی ہے؟۔

(مولانا سید محمد اعجاز الدین سہروردی امام وخطیب جامع مسجد بغدادی، تین ہٹی، کراچی)

### جواب:

صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ مصنف ”بہار شریعت“ اپنی کتاب بہار شریعت میں درہم کی مقدار یوں بیان فرماتے ہیں: کہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے، اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا اور اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے، (یعنی وہ روپیہ جو قیام پاکستان سے پہلے رائج تھا، راقم)، (بہار شریعت ج: ۱، ص: ۱۳۱، مطبوعہ مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی)۔

ناک میں پانی نہ ڈالنے اور کلی کے بغیر وضو کا حکم

### سوال: 5

گرمی کی وجہ سے جسم پر پانی بہایا لیکن ناک میں پانی نہیں چڑھایا اور کلی بھی نہیں کی تو کیا وضو ہو جائے گا؟، (مولانا سید محمد اعجاز الدین سہروردی امام وخطیب جامع مسجد بغدادی، تین ہٹی، کراچی)۔

## جواب:

اگر وہ حالت جنابت یعنی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس پر غسل واجب ہو بلکہ صرف محدث یعنی بے وضو ہے تو پورے جسم پر پانی بہانے سے پاک ہو جائے گا اور اس نے وضو کئے بغیر نماز پڑھی تو ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ کلی نہ کر کے اور ناک میں پانی نہ ڈال کر اس نے سنت وضو کو ترک کیا ہے، اس لئے اسے اجر کامل نہیں ملے گا اور اس طرز عمل کو بطور عادت اختیار کرنے پر گنہگار ہوگا۔ مزید یہ کہ اس نے محض ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے پانی بہایا ہے نہ کہ ازالہ حدث اور حصول طہارت کیلئے، لہذا فقہی طور پر اور تکمیل ضابطہ کی حد تک وہ با وضو ہو جائے گا، لیکن اس پر اسے اجر کامل نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ نیت نہ کرنے پر وہ تارک مستحب ہے۔

اور اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو بدستور ناپاک رہے گا، کیونکہ غسل جنابت کیلئے مبالغے کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور ترک فرض سے اس کی جنابت زائل نہیں ہوگی۔

دکتور وہبہ زحیلی، فقہ الاسلامی وادلثہ، جلد اول، ص ۲۲۶ پر وضو کیلئے نیت کے فرض یا سنت ہونے پر اختلاف ائمہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کا ثمرہ لکھتے ہیں:

ويترتب على قولهم بعدم فرضية النية: صحق وضوء المتبرد او المنغمس في الماء للسباحة او للتنظافة او لانقاذ غريق ونحو ذلك۔

ترجمہ: ”ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وضو کیلئے نیت کے فرض ہونے اور احناف کے نزدیک مستحب ہونے کا ثمرہ یہ مرتب ہوگا کہ اگر کسی نے محض ٹھنڈک حاصل کرنے کیلئے

پورے بدن پر پانی بہایا یا کسی نے تیرا کی یا صفائی کیلئے پانی میں غوطہ لگایا یا پانی میں  
ڈوبتے کسی شخص کو بچانے کیلئے پانی میں چھلانگ لگائی یا کسی اور ایسی صورت میں اس  
نے پورے بدن پر پانی بہا دیا تو فقہی اعتبار سے وضو ہو جائے گا، لہذا اس وضو سے اس  
کا نماز پڑھنا درست ہوگا۔ لیکن ازا لہ حدیث اور حصول عبادت کی نیت نہ  
کرنے پر وہ تارک مستحب ہوگا اور اجر کامل سے محروم رہے گا۔“

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

## ﴿کتاب الصلوة﴾

دعاء اذان سے پہلے درود شریف

### سوال: 6

اذان ختم ہونے کے بعد جو دعاء پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے، کیونکہ ٹی وی میں پہلے دعا آتی ہے، اس کے بعد درود شریف دکھاتے ہیں، وضاحت کریں، (عمران نذیر بفرزون، کراچی)۔

### جواب:

حدیث پاک میں ہے:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، انه سمع النبي ﷺ يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فانه من صلي علي صلاة صلي الله عليه بها عشر، ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي الا لعباد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے کلمات وہ کہتا ہے، ویسے ہی کہو (یعنی کلمات اذان کو دہراؤ)، پھر تم مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا، پھر میرے لیے جنت میں مقام وسیلہ (نمایاں مقام) کی دعاء کرو، کیونکہ یہ جنت میں ایک ایسا مقام

ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے صرف ایک (خاص) بندے کو عطا فرمائے گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں تو جو (مومن) میرے لئے مقام وسیلہ کی دعاء مانگے گا، اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہے۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۳۸۴)

اس حدیث مبارک کی رو سے اذان کے کلمات مبارک کہ دہرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ﷺ پر درود شریف پڑھا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ ﷺ کے لئے جنت میں نمایاں ترین مقام یعنی مقام وسیلہ کی دعاء مانگی جائے اور جو شخص رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرتا ہے تو وہ آخرت میں شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ کا حق دار بن جاتا ہے۔ پاکستان ٹیلیویشن پر اذان کے بعد پہلے دعاء اذان پڑھی جاتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے جنت میں نمایاں مقام، مقام وسیلہ کی دعاء بھی شامل ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ کی ارشاد فرمائی ہوئی ترتیب کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ درود شریف فی نفسہ کسی وقت بھی پڑھا جاسکتا ہے اور دعاء اذان کے بعد پڑھنے کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ارشاد رسول کی مکمل اتباع کی جائے۔

اذان سے قبل یا بعد با آواز بلند درود و سلام پڑھنا

## سوال: 7

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں

کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد با آواز بلند درود و سلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں ،  
جواب عنایت فرمائیں، (محمد ندیم قریشی، مکان نمبر 701/14 فیڈرل بی ایریا  
کراچی)۔

**جواب:**

فعل مامور بہ کی دو قسمیں ہیں: ایک مطلق عن الوقت، دوسری مقید  
بالوقت۔

فعل مامور بہ سے مراد وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جس کے کرنے کا حکم دیا  
ہے جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے اس کی  
ادا یگی کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو، اور مقید بالوقت کا مطلب یہ ہے کہ شارع نے  
اس کی ادا یگی کا کوئی خاص وقت مقرر کیا ہو جیسے پانچ وقتہ نمازیں اور فرض روزے،  
بشرطیکہ اداء ہوں، جن عبادات کی ادا یگی کا شارع نے وقت مقرر کیا ہے ان کو انہی  
اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے، اور جو عبادات مطلق عن الوقت ہیں ان کی ادا یگی  
کے لیے مکلف اپنے اجتہاد سے کوئی بھی وقت مقرر کر سکتا ہے۔

اس تمہید کے بعد چونکہ درود شریف فعل مامور بہ ”مطلق عن الوقت“ ہے لہذا  
ہر پڑھنے والا اسے اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے اور دلائل  
شرعیہ سے ثابت ہے کہ نفلی عبادات کے لیے اپنے اجتہاد سے کوئی بھی وقت  
معین کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ تعین عرفی ہوتی ہے، تعین شرعی کی طرح نہیں جسے  
شارع نے مقرر کیا ہے اور مکلف اس کا پابند ہے اور اسی پر اجر کامل موقوف ہے



دیکھئے از روئے شرع نفل روزہ ہر دن رکھا جاسکتا ہے، لیکن حضور ﷺ ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح حضور ﷺ ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی اتباع میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہر ہفتے کو مسجد قباء جایا کرتے تھے، جبکہ مسجد قباء کی زیارت ایک نفل عبادت ہے، جسے ہر روز کیا جاسکتا ہے لیکن حضور ﷺ نے ہفتے کے دن کو اس کی زیارت کے لیے خاص کر لیا تھا، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:

كان النبي ﷺ يأتي مسجدا قباء كل سبت ما شيا اور اكبا و كان عبد الله بن عمر يفعلها -

ترجمہ: ”حضور ﷺ ہر ہفتے کے دن مسجد قباء پیدل یا سواری پر جایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے“، (رقم الحدیث: 1193)۔

نفلی عبادات میں اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے وضو کرنے کے بعد نفل پڑھنے کو مقرر کر لیا تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استفسار بھی نہیں کیا تھا، دریافت حال کے بعد حضور ﷺ نے ان کے اس عمل کی تحسین فرمائی، اور امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ نفلی عبادات کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت معین کرنا جائز ہے، چنانچہ امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں:

عن ابى هريرة ان النبى ﷺ قال لبلال عند صلوة الفجر يا بلال حدثنى بارحى  
 عملي عملتة فى الاسلام فانى سمعت دُفَّ نعليك بين يديّ فى الجنة قال  
 ما عملت عملا رضى عندى انى لم اطهر طهورا فى ساعة ليل  
 او نهار الا صليت بملك الطهور ما كتب لى ان اصلى۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت  
 بلال سے صبح کی نماز کے وقت پوچھا اے بلال تم نے اسلام میں ایسا کون سا عمل کیا  
 ہے، جس کے اجر کی تمہیں بہت زیادہ توقع ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے  
 تمہارے چلنے کی آہٹ سنی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اس سے زیادہ  
 میرے نزدیک کوئی عمل لائق قبولیت نہیں کہ میں دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا  
 ہوں تو اس وضوء سے حسبِ توفیق واستطاعت (نقلی) نماز پڑھ لیتا ہوں“، (رقم  
 الحدیث: 1149)۔

نوافل کے لیے شرعاً کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، لیکن حضرت بلال نے ہر  
 وضوء کے بعد ثبوت و اعتقاد و وجوب کے بغیر نوافل پڑھنے کا التزام کر لیا اور حضور  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عدم انکار کی وجہ سے یہ جائز قرار پایا، اسی طرح صلوٰۃ  
 و سلام پڑھنے کے لیے شرعاً کوئی وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ آیت درود میں علی  
 الاطلاق والعموم حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اگر  
 اذان کے اول یا آخر وقت میں درود و سلام پڑھنے کو اختیار کر لیا جائے تو  
 از روئے شرع اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا عند اللہ ماجور

ہوگا، تاہم اگر کوئی شخص اذان کے بعد دعاء اذان پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھنا اپنا شعار بنا لے، تو یہ حدیث کے بھی مطابق ہے، جیسا کہ صفحہ نمبر 40 پر حدیث مذکور ہوئی۔

تاہم اتنی گزارش ہے کہ درود شریف اور صلوٰۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھا جائے یا بعد میں، درود اور اذان کے درمیان ایک آدھ منٹ کا وقفہ کر لیا جائے تاکہ جزء اذان ہونے کا اشتباہ نہ ہو اور بعض مخالفین اس کو غلط مفہوم پر محمول کر کے لوگوں کو بہکانہ سکیں، فقط واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔

رسول اللہ ﷺ کے بذات خود اذان دینے کا ثبوت

سوال: 8

نماز کیلئے اذان مشروع ہے، حدیث پاک میں اس کی تعلیم فرمائی گئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو اذان کے کلمات تعلیم فرمائے اور اذان کا حکم فرمایا، لیکن کیا رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اذان دی؟، اگر اس کا جواب اثبات میں ہے، تو دلیل سے ثابت کیجئے،

(محمد انس محبوب، بنگرام، ہزارہ)۔

جواب:

رسول اللہ ﷺ نے بذات خود اور بہ نفس نفیس بھی اذان دی ہے۔

علامہ علاء الدین حصکھی لکھتے ہیں:

وفى "الضياء" انه عليه الصلوة والسلام اذن فى سفر بنفسه واقام وصلّى  
الظهر وقد حققناه فى الخزانن۔

ترجمہ: "اور" الضياء" میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سفر میں بذاتِ خود  
اذان دی، اقامت فرمائی اور ظہر کی نماز پڑھائی، اس مسئلے کو ہم نے  
"خزانن" میں تحقیق سے بیان کیا ہے، (ردالمحتار علی الدرالمختار  
جلد: 2 ص: 65-66، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

ومما یكثر السؤال عنه: هل باشر النبي ﷺ الاذان بنفسه؟ وقد اخرج  
"الترمذی" انه عليه الصلوة والسلام اذن فى سفر وصلّى  
باصحابه، (رقم الحدیث: 205)، وجزم به المنورى وقواه (وقال: هذا  
حدیث حسن صحیح) ولكن وجد فى "مسند احمد" من هذا الوجه "فامر  
بملافاذن، (463/3 وهو حدیث صحیح)، فعلم ان فى رواية الترمذی  
اختصارا۔ وان معنی قوله، اذن: امر بلائاً، كما يقال: اعطى الخليفة  
العالم الفلانى كذا۔ وانما باشر العطاء غيره۔

ترجمہ: "اور یہ جو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے بذاتِ خود اذان  
دی ہے؟، (تو اس کا جواب یہ ہے کہ) امام ترمذی نے حدیث بیان کی اور اسے حسن  
و صحیح قرار دیا کہ نبی ﷺ نے ایک سفر میں خود اذان دی اور اپنے اصحاب کو نماز  
پڑھائی، (رقم الحدیث: 205)، امام نووی نے اس روایت پر جزم کرتے ہوئے اسے

قوی قرار دیا، لیکن مسند امام احمد میں روایت یوں ہے کہ: ”حضور نے بلال کو حکم فرمایا: اور انہوں نے اذان دی“، (463/3 وهو حدیث صحیح)، پس معلوم ہوا ترمذی کی روایت میں اختصار ہے اور امام ترمذی کی روایت میں ”اَذَّنَ“ (یعنی آپ نے اذان دی) کے معنی یہ ہیں کہ: ”آپ نے بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا“، جیسے محاورتا کہا جاتا ہے کہ: خلیفہ نے فلاں عالم کو اتنی رقم دی، حالانکہ (خلیفہ براہ راست نہیں دیتا، بلکہ اس کے حکم پر) دوسرا شخص (یعنی اس کا کوئی عامل) دیتا ہے“، (ردالمحتار علی الدر المختار جلد: 2 ص: 66 - 65، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ شامی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے خود اذان نہیں دی بلکہ ”اَذَّنَ“ کے معنی ہیں: حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ شامی کی اس توجیہ سے اختلاف کیا اور فرمایا: اس پر میں نے ردالمحتار پر اپنے حاشیہ ”جد الممتار“ میں لکھا ہے:

”سیاتی فی صفة الصلوة عن تحفة الامام ابن حجر المکی انه ﷺ اَذَّنَ مرةً فی سفرٍ فقال فی تشہدہم ”اشہد انی رسول اللہ“ وقد اشار ابن حجر الی صحیحہ، وھذا نص مفسر لایقبل التاویل وبہ یتقوی تقویۃ الامام النوروی رحمہ اللہ تعالیٰ“۔

ترجمہ: ”عنقریب (اسی فتاویٰ شامی میں) ”صفات نماز“ کے تحت ذکر تشہد میں تحفہ امام ابن حجر مکی سے آرہا ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دفعہ سفر میں اذان دی تھی (دورانِ

اذان ”أَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ“ کے بجائے) کلمات تشہد یوں کہے: ”أَشْهَدُ  
 اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ (یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں)، اور ابن حجر  
 نے اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا اور یہ ”نص مُفَسَّر“ ہے، جس میں تاویل کی کوئی  
 گنجائش نہیں ہے اور اس سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو تقویت ملتی  
 ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 5 ص: 375-374 مطبوعہ رضافاؤنڈیشن لاہور)۔

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود علامہ شامی سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ  
 ﷺ نے سفر میں اذان دی ہے۔ اس مقام پر علامہ شامی دراصل علامہ علاؤ الدین  
 حصکفی کے اس موقف پر بحث کر رہے ہیں کہ نماز میں حالت تشہد میں رسول اللہ  
 ﷺ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ”أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ کی جگہ ”أَشْهَدُ  
 اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ پڑھا کرتے تھے، اس پر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ:

”رافعی نے شافعیہ سے یہ قول نقل کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اس موضوع  
 پر احادیث کی تخریج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ نماز میں  
 ”أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ ہی تواتر سے ثابت ہے، آگے چل کر علامہ  
 شامی لکھتے ہیں کہ: ”تحفہ“ میں ہے کہ اگر اس سے ”تشہد نماز“ نہیں بلکہ ”تشہد اذان“  
 مراد ہے تو یہ صحیح ہے، ”کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی اور  
 ”أَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ“ کی جگہ ”أَشْهَدُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ“ (یعنی میں  
 گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں) کے کلمات فرمائے، (رد المحتار علی  
 الدر المختار ج: 2 ص: 194-193 دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

شیخ عبدالقادر رافعی مفتی دیار مصریہ ”التراج“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

روی عقبہ بن عامر قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فلما زالت الشمس اذن بنفسه و اقام و صلى الظهر و قال السيوطي ظفرت بحدیث اخر مرسل اخرجه سعيد بن منصور في سننه قال: اذن رسول الله ﷺ مرة فقال: حتى على الفلاح و هذم لا يقبل التاويل-

ترجمہ: ”حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھا، جب ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے خود ظہر کی اذان و اقامت کہی اور علامہ سیوطی نے فرمایا: مجھے اس موضوع پر ایک اور حدیث مرسل مل گئی جس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک اور بار اذان دی اور فرمایا: ”حَسَى عَلَى الْفَلَاحِ“، علامہ رافعی فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے“، (تقریرات رافعی ج: 1 ص: 47 بحوالہ شرح صحیح مسلم مصنفہ علامہ غلام رسول سعیدی 1072/1)۔

معذور پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے

## سوال: 9

درج ذیل دو سوالوں کے جواب مطلوب ہیں، امید ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں گے۔ شکریہ

1- میری عمر 84 سال کے قریب ہے، میں عرصہ 4 سال سے ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ رکوع و سجود نہیں کر سکتا، کرسی پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرتا ہوں، چار سال سے

میری نماز جمعہ و عیدین قضا ہو رہی ہے، اخباری معلومات کے مطابق میں ہر جمعہ کی نماز کے عوض ظہر کی قضا ادا کرتا ہوں، ظہر قضا سے کیا مراد ہے، جمعہ کے روز جب دن ڈھل جائے یعنی ظہر کا وقت قضا ہو جائے تب مجھے ظہر کی فرض و سنت ادا کرنی چاہیے یا جمعہ کی نماز کا وقت رہتے ہوئے مجھے ظہر کی نماز قضا کی نیت کر کے ادا کرنا چاہیے، میں عرصہ سے جمعہ کا وقت رہتے ہوئے نماز ظہر قضا کی نیت کر کے ادا کر رہا ہوں، میں نیت اس طرح کرتا ہوں۔ ”یا اللہ میں نیت کرتا ہوں چار رکعت فرض (یا سنت) نماز ظہر قضا بالعوض جمعہ ادا کرنے کی“ برائے مہربانی مجھے ظہر قضا پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔

2۔ میری اہلیہ کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا، وہ ان کے نام قربانی کرنا چاہتی ہیں مگر والدہ مرحومہ کا نام سہو کر گئی ہیں، نیت کس طرح کی جائے، واضح رہے کہ ان کے والد مرحوم نے دوسری شادی بھی کر لی تھی، (محمد کفیل، کراچی)۔

### جواب:

عورتوں، بچوں اور معذوروں پر جمعہ واجب نہیں ہے، حدیث پاک میں

ہے:

عن طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ الجمعة حق واجب عملي كمل مسلم في جماعة الا عملي اربعة: عبد مملوك، او امرأة، او صبي او مريض۔

ترجمہ: ”طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ حق شرع ہے اور ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے، ہوائے چار قسم کے



لوگوں کے، غلام یا عورت، یا بچہ، یا بیمار، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: ۱۰۶۷)۔  
 لہذا معذوری و بیماری کی بناء پر آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، آپ ظہر کا وقت  
 داخل ہونے سے معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گے، یعنی نماز جمعہ  
 ہو جانے کے بعد، ورنہ مکروہ ہے، اور یہ نماز ادا ہوگی، قضا نہ ہوگی، ان شاء اللہ  
 آپ کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، جمعہ صرف باجماعت واجب ہے  
 ، تنہا پڑھیں، جمعہ رہ جانے کی صورت میں تندرست آدمی بھی ظہر ہی کی نماز پڑھے  
 گا۔

**جواب:**

آپ کی اہلیہ محترمہ کو اگر اپنی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے اور وہ ان کی طرف  
 سے نفلی قربانی کرنا چاہتی ہیں تو ذبح کے بعد اس طرح دعا مانگیں: ”اے اللہ! اسے  
 میری ماں کی جانب سے قبول فرما“۔ اگر لفظاً یہ کلمات نہ کہہ سکیں تو نیت ہی کافی ہے۔  
 نماز کے دونوں سجدوں کی شرعی حیثیت

**سوال: 10**

نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ دونوں  
 فرض ہیں یا دونوں واجب، یا پہلا فرض ہے اور دوسرا واجب یا سنت؟، (مولانا سید محمد  
 اعجاز الدین سہروردی امام و خطیب جامع مسجد بغدادی، تین ہٹی، کراچی)۔

**جواب:**

نماز کی ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرائض نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:  
 ”ومنها السجود“، یعنی فرائض نماز میں دو سجدے بھی ہیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ ایک  
 سجدے سے فرضیت سجدہ تمام کیوں نہیں ہو جاتی اور دوسرا سجدہ کیوں فرض قرار دیا گیا تو  
 اس کے بارے میں علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الركعات“۔ یعنی سجدے کا بطور فرض  
 تکرار امر تعبدی ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت تشریحی ہے اور آپ کے تعامل  
 سے ثابت ہے، جیسا کہ نماز کی رکعات کی تعداد امر تعبدی ہے، یہ ایسا امر نہیں کہ عقل  
 سے ان کی تعداد متعین کی جاسکے۔ (نوٹ: واضح رہے کہ یہاں سنت سے مراد وہ  
 سنت اصطلاحی فقہی نہیں ہے جو فرض اور واجب کے مقابل ہے اور ان کی تقسیم ہے بلکہ  
 اس سے بحیثیت شارع مجاز رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے جو فرض اور واجب کو بھی محیط  
 ہے اور نماز کے بارے میں تو خود رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”صَلُّوا كَمَا  
 رَأَيْتُمُونِي أَعْمَلُ“ یعنی جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو کیونکہ میرا عمل  
 واجب الاتباع اور شریعت میں حجت ہے۔)

اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”وتكراره تعبد (ای و تکرار السجود امر تعبدی ای لم يعقل معناه علی  
 قول اکثر المشائخ تحقیقا للابتلاء وقيل ثنی ترغیما للشيطان حیث لم  
 يسجد مرة فنحن نسجد مرتین ، وتمامه فی البحر“۔

منہوم: ”نماز کی ایک رکعت میں سجدے کا تکرار امر تعبدی ہے (یعنی شارع کے حکم اور

دائمی مستمر عمل پر موقوف ہے)، اکثر علماء کے نزدیک یہ عقل سے سمجھ میں آنے یا مقرر کرنے کی بات نہیں ہے، اور اسے ماورائے عقل اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ بندے کی آزمائش ہو کہ آیا جس بات کی حکمت اس کی عقلِ نارسا میں نہ آئے، وہ اسے شارع کے حکم پر غیر مشروط طور پر تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟، اور ایک قول یہ ہے کہ دو سجدے شیطان کو رسوا کرنے کے لئے مشروع ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ کرنے پر آمادہ نہ ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم اور اس کے رسول ﷺ کی سنت تشریحی کی اتباع میں ایک رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں، یہ پوری بحث علامہ زین الدین ابن نجیم نے البحر الرائق میں کی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار ج ۲ ص ۱۲۰-۱۱۹، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت)۔

فاسق امامت کا اہل نہیں

### سوال: 11

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیانِ عظام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص جو کہ سادہ لوح اور ان پڑھ ہے۔ دھوکے سے اس کی بہن کو زمین کے وراثتی حصہ سے اس طرح محروم کرتا ہے کہ بہن سے اس کا حصہ اپنے نام کروالیتا ہے اور جب بہن کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی نے دھوکا دے کر میرے حصہ کی زمین اپنے نام کروالی ہے، تو وہ ادھر ادھر فریاد کرتی ہے۔ اور بھائی اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تو ایسے شخص کیلئے کیا حکم ہے اور اگر ایسا شخص امامت نماز کی کروائے، تو اس کی امامت میں نماز پڑھنا جائز ہوگی یا کہ نہیں؟، (سائلہ مریم بی بی)۔

## جواب:

قانون اسلام کی رو سے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ناجائز اور حرام ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ“۔

ترجمہ: ”آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ“، (النساء: 29)۔

حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات طبقوں تک کی اس زمین کو (اس کے گلے میں) طوق بنا کر ڈال دے گا، (شرح صحیح مسلم ج: 4 ص: 445)۔

شریعت مطہرہ کی رو سے ہر وارث کا حصہ متعین ہے، کسی وارث کیلئے جائز نہیں کہ وہ جبراً دوسرے وارث کے حصے پر قبضہ کر لے۔ صورتِ مسئولہ عنہا میں اگر سوال مبنی بر حقیقت ہے تو مسئول عنہ اپنی بہن کی زمین پر ناجائز قبضے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور سوال میں خط کشیدہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گناہ کبیرہ پر مصر یعنی اصرار بھی کرتا ہے۔ ایسی صورت میں مذکور فی السؤال شخص فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، تا وقتیکہ اپنے اس گناہِ عظیم سے توبہ نہ کر لے۔

فتاویٰ شامی جلد: 1 صفحہ: 477 پر ہے:

بِسِخْلَافِ الْمَفَاسِقِ فَإِنَّهُ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الْعُنْبُرِ أَنَّهَا تَحْرِيمَةٌ لِقَوْلِهِمْ أَلْ فِي

تَقْسِدِيهِمَ لِلْإِمَامَةِ تَعْظِيمُهُ وَقَدْ وَحَبَّ عَلَيْنَا إِهَانَتَهُ بَلْ عِنْدَ مَا لِكَ وَرِوَايَةٌ عَنْ  
أَحْمَدَ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ۔

اس عبارت کا مفہوم یہ ہے: ”شرح المنیر“ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فاسق کا  
امام بنانا حرام ہے کہ فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ  
اسے امام بنانے سے اس کی تعظیم لازم آتی ہے اور ہم پر اس کی اہانت واجب  
ہے، بلکہ امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد کے نزدیک اس کے پیچھے نماز  
جائز ہی نہیں ہے۔“

علامہ سعیدی لکھتے ہیں:

”یہ حکم اس فسق پر ہے جو قطعی الثبوت اور غیر مؤول ہے، جیسے قتل، چوری، زنا  
ظلم کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کرنا وغیرہ، البتہ جس کا فسق مؤول (یعنی جس  
میں تاویل و توجیہ کی شرعاً گنجائش ہو) اور ظنی ہو، اس کی اقتدا میں نماز مکروہ  
تزیہی ہے، (شرح صحیح مسلم جلد: 2 ص: 306 ملخصاً)۔“

اگر کوئی فاسق شخص جبراً امام بن جائے یا بنا دیا جائے، تو اس صورت میں، اس کی اقتدا  
میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ کسی شہر یا کسی بستی میں صرف ایک جگہ جمعہ ہوتا ہو، لیکن  
اگر دوسرے مقامات پر بھی جمعہ ہو رہا ہے، جہاں عالم، قاری، متقی اور متشرع امام موجود  
ہیں تو پھر اس فاسق کی اقتدا میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

”وَكْرَهَ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ الْعَالِمِ لِعَدَمِ إِهْتِمَامِهِ بِالِدِّينِ فَتَجِبُ إِهَانَتُهُ شُرْعًا فَلَا

يُعَظَّمُ بِتَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ وَإِذَا تَعَدَّرَ مَنَعَةٌ يَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِ مَسْجِدِهِ لِلْجُمُعَةِ  
وَعَبَّرَهَا وَإِنْ لَمْ يُقِيمِ الْجُمُعَةَ إِلَّا هُوَ تُصَلِّيَ مَعَهُ“۔

ترجمہ: ”فاسق عالم کی امامت مکروہ (تحریمی) ہے، کیونکہ وہ دین کا اہتمام نہیں کرتا،  
اس لئے اس کی اہانت شرعاً واجب ہے، لہذا اس کو امام بنا کر اس کی تعظیم نہ کی جائے  
، اگر اس کو مسجد سے ہٹانا دشوار ہو، تو جمعہ اور دیگر نمازوں کیلئے کسی اور مسجد میں چلا جائے  
اور اگر صرف وہی جمعہ پڑھاتا ہو، تو پڑھ لے“، (مراتی الفلاح علی ہامش طحطاوی  
ص: 181 مصر)۔

نماز کے اندر قراءت میں غلطی پر امام کو لقمہ دینا

شریعت مطہرہ اور فقہ حنفی کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات درکار ہیں:

### سوال: 12

یہ کہ ایک امام نے مقدار واجب کے مطابق قراءت کر لی اور اس کے  
بعد بھول گیا، تو مقتدی لقمہ دے یا نہ دے۔

### سوال: 13

اگر مقتدی نے لقمہ دے دیا تو کیا یہ بلا ضرورت تلقین و تلقن کے زمرے  
میں آتا ہے اور مقتدی کی نماز پراثر پڑتا ہے؟ اور اگر امام لقمہ لے تو اس کی نماز  
پراثر پڑے گا؟۔

### سوال: 14

اگر مقدار واجب کے پڑھنے کے بعد امام کسی سورت کی طرف منتقل

ہو جائے تو کیا نماز پر اثر پڑے گا، (سید حسین سعید، گلشن اقبال، کراچی)۔

## جواب:

نماز میں امام بھول جائے تو اسے یاد دلانے یا متوجہ کرنے یا غلطی کی تصحیح کرنے کو اردو میں ”لقمہ“ دینا کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اسے ”تعلیم و تعلم“ یا ”تلقین و تلقن“ کہتے ہیں (یعنی مقتدی کا امام کو بتلانا یا لقمہ دینا اور امام کا اسے قبول کرنا)۔ اگرچہ مقتدی یہ کام ”اللہ اکبر“ کہہ کر یا ”الحمد للہ“ کہہ کر یا ”سبحان اللہ“ کہہ کر انجام دیتا ہے، جو کلمات تسبیح ہیں اور منافی نماز نہیں ہیں، نہ ہی یہ اس کلام کے زمرے میں آتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی لئے حدیث میں اسے ”سبحۃ“ کہا گیا ہے اور فقہ میں اسے ”فصحۃ“ بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معنی کلام ہے، کیونکہ مقتدی ان کلمات کے ذریعے اپنے امام کو گویا یہ بتا رہا ہے کہ: امام صاحب! آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تصحیح کر لیجئے۔ اسی لئے اسے ضرورت کی حد تک جائز رکھا گیا ہے اور بلا ضرورت مقتدی کا لقمہ دینا اس کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور امام کا، اس سے لقمہ لینا، امام کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری جماعت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

اس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ اگر امام کی اصلاح نہ کی گئی تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز کو فساد سے بچانے کیلئے لقمہ دینے اور لینے کی اجازت دی گئی ہے، بلا ضرورت نہیں۔ لیکن قراءت کی غلطی پر امام کو متنبہ کرنا اور امام کی اصلاح کرنا یا امام کو لقمہ دینا، اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، جیسے بقدر واجب

تلاوت ہو چکی ہے اور ضرورت باقی نہیں، تب بھی امام کو لقمہ دیا جاسکتا ہے۔ اور اگر امام نے بہ قدر واجب تلاوت کر لی ہو، مگر وہ مسنون مقدار یا اس سے زائد تلاوت کر رہا ہے اور اس دوران اس سے ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو فسادِ معنی کی وجہ سے وہ نماز فاسد ہو سکتی ہے، تب تو وہاں ضرورت بھی موجود ہے، لیکن اگر معنی میں فساد واقع نہ ہو رہا ہو اور امام متشابہ کی وجہ سے کسی اور سورت میں منتقل ہو گیا ہے، تب بھی لقمہ دیا جاسکتا ہے۔ اسی ضابطے کے تحت نماز تراویح کی طویل قراءت میں امام کو بار بار لقمہ دیا بھی جاسکتا ہے اور امام لقمہ لے بھی سکتا ہے، خواہ امام کی غلطی ایسی ہو کہ نماز فاسد نہ ہو رہی ہو، تب بھی لقمہ دینا اور لینا درست ہے۔ اور اس مسئلے میں فرض، واجب اور تراویح کی جماعت کا یکساں حکم ہے۔

ایک اور صورت مسئلہ یہ ہے، جہاں فسادِ نماز کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن امام کو لقمہ دیا جاسکتا ہے اور امام کے لقمہ لینے سے مقتدی اور امام کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ امام پہلے قعدہ پر بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہونے لگا ہے، مگر وہ ایسی بیئت میں ہے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہے، اس موقع پر مقتدی لقمہ دے دیتا ہے اور امام اس کا لقمہ لیتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے تو امام اور مقتدی کسی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، حالانکہ اس موقع پر اگر امام کو لقمہ نہ بھی دیا جاتا تو فسادِ نماز کا اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ آخر میں سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی تھی، اس صورتِ مسئلہ کو امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد



3 ص: 645، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ، کراچی)۔

اس تمہید کی روشنی میں دریافت کئے گئے سوال کا مدلل و مفصل جواب درج ذیل ہے:

”اگر امام بھول جائے تو شریعت مطہرہ اور فقہ حنفی کی روشنی میں اسے لقمہ دینا چاہئے، امام اور مقتدی دونوں کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔“  
خلاصۃ الفتاویٰ مع مجموعۃ الفتاویٰ میں ہے:

وان قرأ الامام قسراً ما يجوز به الصلوة الا انه اذا توقف ولم ينتقل الى آية اخرى حتى فتح المقتدى اختلفوا فيه والاصح انه لا تفسد صلوة المقتدى وان اخذ الامام بفتحه لا تفسد صلواتهم۔

ترجمہ: ”اگر امام نے بقدر واجب قراءت کی اور پھر ٹھہر گیا اور دوسری آیت کی طرف منتقل نہیں ہوا اور مقتدی نے لقمہ دیا اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوئی اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو (امام و مقتدی) سب کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔“

چند سطور آگے لکھتے ہیں:

وفى الصحاح الصغير للصدر الشهيد لوقرأ قدر ما يجوز به الصلوة قالوا ينبغي ان تفسد صلواته و صلواتهم ان اخذ الامام والفتوى على انه لا تفسد بكل حال۔

ترجمہ: ”اور صدر الشہید نے الجامع الصغير میں لکھا ہے کہ بقدر واجب قراءت کی (اور

پھر لقمہ دیا) تو کہا گیا ہے کہ مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی اور باقی نمازیوں کی بھی اگر امام نے لقمہ لے لیا۔ اور فتویٰ اس پر ہے کہ کسی بھی حال میں نماز فاسد نہیں ہوگی، (خلاصۃ الفتاویٰ صفحہ: ۱۲۱ جلد نمبر ۱ قاضی خان صفحہ: ۶۷ جلد نمبر ۱)۔

اسی طرح ابوداؤد میں ہے:

عن عبد اللہ بن عمران النبی ﷺ صلی صلوة فقراً فیہا فلبس علیہ فلما انصرف قال لِأَبِي: اصلیت معنا؟، قال نعم، قال فما منعك؟

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے نماز پڑھائی تو قراءت میں اشتباہ ہوا، جب فارغ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟، انھوں نے عرض کیا: جی ہاں، فرمایا: تو تمہیں کس چیز نے (لقمہ دینے سے) روکا“، (ابوداؤد، باب الفتح علی الامام فی الصلوٰۃ، رقم الحدیث: 904)۔

اسی طرح فتاویٰ درمختار میں ہے:

(ببخلاف فتحہ علی امامہ) فانہ لا یفسد (مطلقاً) لفتاحہ أو اخذ بکل حال۔  
ترجمہ: ”اپنے امام کو لقمہ دینا تو اس سے مطلقاً کسی بھی حال میں لقمہ دینے والے اور لینے والے کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔“

”مطلقاً بکل حال“ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں:

ای سواہ قرء الامام قدر ما تجوز بہ الصلاة ام لا، انتقل الی اية اخرى ام لا، تکرر الفتح ام لا، هو الاصح۔

ترجمہ: ”یعنی چاہے امام نے بقدر واجب قراءت کی ہے یا نہیں، دوسری آیت کی طرف منتقل ہوا ہے یا نہیں، لقمہ میں تکرار کی ہے یا نہیں، صحیح ترین بات یہی ہے (کہ بہر صورت نماز فاسد نہیں ہوگی)“، (فتاویٰ شامی، جلد ۲، صفحہ: ۳۲۹، دار احیاء التراث العربی)۔

اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، فتاویٰ رضویہ باب مفسدات الصلوٰۃ میں فرماتے ہیں:

”امام جب نماز یا قراءت میں غلطی کرے تو اسے بتانا، لقمہ دینا مطلقاً جائز ہے، خواہ نماز فرض ہو یا واجب یا تراویح یا نفل، اور اس میں سجدہ سہو کی بھی کچھ حاجت نہیں، ہاں اگر بھولا اور تین بار ”سُبْحٰنَ اللّٰہ“ کہنے کی دیر چپکا کھڑا رہا، تو سجدہ سہو آئے گا۔ جس نے لقمہ دینے کے سبب نیت توڑ دی، اس نے محض جہالت برتی اور بتلائے حرام ہوا کہ بے سبب نیت توڑ دینا حرام ہے، واللہ تعالیٰ اعلم“۔

پھر فرماتے ہیں:

”امام کو لقمہ دینا ہر نماز میں جائز ہے، جمعہ ہو یا کوئی نماز، بلکہ اگر اس نے ایسی غلطی کی جس سے نماز فاسد ہوگی تو لقمہ دینا فرض ہے، نہ دے گا اور اس کی تصحیح نہ ہوگی تو سب کی نماز جاتی رہے گی اور لقمہ دینے سے سجدہ سہو نہیں آتا“۔

اسی طرح فتاویٰ رضویہ جلد نمبر ۶ صفحہ نمبر: ۲۷۴، مسئلہ نمبر ۴۶۸ میں اعلیٰ حضرت

سے دریافت کیا گیا کہ:

”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ امام مغرب میں رکوع ”لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ“ پڑھ رہا تھا، جب ”فِي الْاَنْجِيلِ“ تک پڑھ لیا، آیت پارہ: ۲۲ کا متشابہ لگا، اس کے بعد یہ آیت: ”اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ“ تک پڑھی۔ پھر جب یاد آیا اسے چھوڑ کر مقام اصل سے شروع کیا اور نماز ختم کی اور سجدہ سہونہ کیا اس صورت میں نماز ہوئی یا نہیں، بینوا توجروا“۔

اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ:

”نماز ہوگئی اور سجدہ سہونہ کی بھی حاجت نہ تھی اگر بقدر ادائے رکن سوچتا نہ رہا ہو، ہاں اگر بھولا اور سوچنے میں اتنی دیر خاموش رہا، جس میں کوئی رکن نماز کا ادا ہو سکتا ہے، تو سجدہ سہولاً کمافی الدر المختار وغیرہ (جیسا کہ در مختار وغیرہ میں ہے) اگر نہ کیا تو نماز جب بھی ہوگئی مگر ناقص ہوئی، پھیرنا واجب ہے، واللہ تعالیٰ اعلم“۔

فرسٹ فلور پر نماز باجماعت کا حکم اور  
گراؤنڈ فلور پر نمازیوں کا جماعت میں شامل ہونا

## سوال: 15

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ پہلے مسجد میں پنج وقتہ نماز باجماعت گراؤنڈ فلور پر ہو رہی تھی؟، اب فرسٹ فلور بن چکا ہے اور انتظامیہ کی خواہش ہے کہ پنج وقتہ نماز فرسٹ فلور پر پڑھی جائے۔ گراؤنڈ فلور کی مسجد ختم نہیں کی جا رہی کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟، نیز اگر امام فرسٹ

فلور پر امامت کر رہا ہو تو بعض مقتدی گراؤنڈ فلور پر اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ جمعہ کے روز جب مسجد مکمل طور پر بھر جاتی ہے، کیا اس موقع پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام فرسٹ فلور پر کھڑا ہو اور گراؤنڈ فلور پر بھی مقتدی اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں یا پھر اس موقع پر امام کو گراؤنڈ فلور پر کھڑا ہونا ضروری ہے، (محمد رفیق لیاقت آباد کراچی)۔

### جواب:

مسجد کی عمارت مجموعاً جزائہ مسجد کہلاتی ہے اور مسجد کے جمیع اجزاء کا حکم یکساں ہے، جس طرح نیچے مسجد کے اندر نماز صحیح اور شروع ہے، اسی طرح فرسٹ فلور پر بھی نماز باجماعت جائز ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد ہی ہے، لہذا صورتہ مسئلہ میں فرسٹ فلور پر نماز باجماعت پڑھنے میں از روئے شرع کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے فقط امام کا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی اوپر کھڑے ہوں اور باقی امام سے نیچے ہوں تو ایسی صورت میں بلا کراہت نماز جائز ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ویمکرہ ان یمکون الامام وحده علی الدکان و کذا القلب۔۔۔ وان کان بعض المقوم معه فالاصح انه لا یکرہ الخ۔۔۔ (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 108)۔

صورتہ مسئلہ میں جو لوگ نیچے امام کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، اگر ان کو

امام کے انتقالات یعنی رکوع اور سجدہ میں جانے کا اس طرح تشہد میں بیٹھنے کا اور سلام پھیرنے کا کسی ذریعہ سے خواہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے یا مکبرین کے ذریعے علم ہو جاتا ہے، تو نیچے کھڑے ہو کر ان کا اقتداء کرنا درست ہے اور اگر ان کو امام کے انتقالات کا علم نہیں ہوتا تو پھر ان کا امام کی اقتداء کرنا، اس صورت میں صحیح نہیں، نماز جائز نہیں ہوگی۔

معذور کیلئے اشارے سے رکوع و سجود کرنا

### سوال: 16

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے تقریباً ایک سال پہلے مسجد میں دو کرسیاں نمازیوں کے استعمال کیلئے دی تھیں، اب وہ ان کرسیوں کو مسجد سے لے گئے اور ان کی جگہ مسجد میں نئی دو کرسیاں رکھ دیں اور پرانی کرسیاں کسی دوسری مسجد میں دے دیں۔ ان کا یہ عمل انتظامیہ کو بعد میں معلوم ہوا، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟، کیا ایک چیز کسی مسجد کو ہبہ کر دینے کے بعد اس کو دوسری مسجد میں دینا شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟، (رحمت اللہ قادری، جامع مسجد القمر، شاہ فیصل کالونی نمبر 3)۔

### سوال: 17

آپ یہ بتائیں کہ آج کل مساجد میں نماز کیلئے ایسی کرسیاں رکھی جاتی ہیں جن کے آگے سجدہ کرنے کیلئے بھڑیہ (تختہ) لگا ہوتا ہے، کیا اس تختے پر سجدہ کرنا جائز ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، (رحمت

اللہ قادری، جامع مسجد القمر، شاہ فیصل کالونی نمبر 3)۔

**جواب:**

شریعتِ اسلامیہ کی رو سے ایک آباد مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لگا سکتے، البتہ اگر کوئی چیز پرانی ہو کر قابلِ استعمال نہ رہے تو وقف کنندہ یعنی وہ شخص جس نے وہ سامان خرید کر مسجد کے مصالح کیلئے وقف کر دیا تھا، وہ سامان بیچ کر یا کہیں صدقہ کر کے دوسرا نیا سامان مسجد کیلئے خرید کر وقف کر دے تو شرعاً ایسا کرنا درست ہے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

بِوَارِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَلَقْتَ فَصَارَتْ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا فَرَادَ الَّذِي بَسَطَهَا أَنْ يَأْخُذَ  
هَا وَيَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ يَشْتَرِيَ مَكَانَهَا أُخْرَى فَلَهُ ذَلِكَ الْخ-

ترجمہ: ”مسجد کی چٹائی جب پرانی ہو کر استعمال کے قابل نہ رہے، دینے والا اگر وہ چٹائی لے کر اور اس کو صدقہ کر کے یا اس کی جگہ دوسری چٹائی خرید کر دے تو یہ جائز ہے“، (فتاویٰ عالمگیری جلد دوم، صفحہ نمبر 458)۔

صورتِ مسئلہ میں اگر وہ کرسیاں پرانی ہونے کی وجہ سے قابلِ استعمال نہیں تھیں، تو دوسری مسجد میں ان کا صدقہ کی نیت سے دینا درست تھا۔ جبکہ دینے والے نے دوسری دو نئی کرسیاں بھی خرید کر مسجد کیلئے وقف کر دیں۔

**جواب:**

اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے سے قاصر ہو تو اس کیلئے حکم یہ ہے کہ وہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، کسی چیز پر سر رکھ کر سجدہ کرنا مکروہ

تحریمی ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(وان تعذرا) لیس تعذرهما شرطاً بل تعذر السجود كاف (لا القيام او ما قاعداو يجعل سجوده اخفض من ركوعه) لزوما (ولا يرفع الي وجهه شيئا يسجد عليه) فانه يكره تحريماً۔

ترجمہ: ”اور اگر نمازی کیلئے رکوع و سجدہ کرنا دشوار ہو جائے، دونوں کا دشوار ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ صرف سجدے کا معذور ہونا ہی کافی ہے، تو بیٹھے ہوئے اشارے سے رکوع و سجدہ کرے اور اشارہ کرتے وقت لازماً سجدے کیلئے رکوع کے بہ نسبت زیادہ جھکے، اور (زمین سے) اپنے چہرے تک کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 2، ص: 495 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

آج کل بعض مساجد میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ کرسی رکھی ہوتی ہے اور اس کے آگے سجدے کیلئے ٹیبل نماختی لگی ہوتی ہے، اور ایسے نمازی جو کسی معذوری کی بنا پر سجدہ نہیں کر سکتے، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھے بٹھائے اس نماختی پر سر جما کر سجدہ کر لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ معذور نمازی کو چاہئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر زمین پر بیٹھنا اس کیلئے دشوار ہے، تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، رکوع کیلئے مناسب حد تک جھکے اور سجدے کیلئے اس سے زیادہ جھکے، اسی کو



اشارے سے رکوع و سجدہ کرنا کہتے ہیں، کسی میز یا تختہ یا بیچ پر سر رکھ کر سجدہ نہ کرے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔

معذور کیلئے اشارے سے رکوع و سجدہ کرنا

### سوال: 18

میری کمر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے بیلٹ باندھنے کو بتایا ہے، بیلٹ اتار کر درد میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں بیلٹ باندھتا ہوں اور سجدہ زمین پر نہیں کر پاتا۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں نماز میں سجدہ لکڑی کی ٹیبل رکھ کر ادا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، (الحاج غلام قادر انور سو سائٹی، کراچی)۔

نوٹ: جواب وہی ہے جو گذشتہ سوال کے ضمن میں مذکور ہوا۔

نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے کا شرعی حکم

### سوال: 19

”درود ابراہیمی“ نماز کے علاوہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں.....؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں صلوٰۃ اور سلام دونوں کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ درود ابراہیمی میں صرف صلوٰۃ کا ذکر ہے اس لئے اسے نماز کے علاوہ پڑھنا ممنوع ہے؟۔ بعض علماء نے درود ابراہیمی کو ناقص قرار دیا ہے؟، اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟۔

(۲) درود شریف پڑھنا کب واجب یا فرض ہے اور کب مستحب؟، (محمد طاہر سرفراز،

اندروٹھ کلیال آزاد کشمیر)۔

## جواب:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر دو یا دو سے زائد احکامات ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ان میں کہیں بھی احناف یہ موقف اختیار نہیں کرتے کہ ان احکامات پر بیک وقت عمل کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔ احناف کا اصول یہ ہے کہ واؤ مطلق جمع کیلئے آتا ہے۔ یعنی جب دو چیزوں کو ایک ساتھ واؤ کے ساتھ بیان کیا جائے تو ان میں یہ ضروی نہیں ہوتا کہ ان دونوں پر ایک ساتھ عمل کیا جائے، بلکہ علیحدہ علیحدہ عمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔

جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

اقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ -

ترجمہ: ”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو“، (البقرہ: ۴۳)۔

نیز فرمایا: اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا ۝

ترجمہ: ”کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اسکی تسبیح بیان

کرو“، (الاحزاب: ۴۱، ۴۲)۔

مذکورہ دونوں آیات میں کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کرنا ضروری ہیں اور اللہ عزوجل کا ذکر اور تسبیح (صبح و شام) ایک ساتھ کرنا ضروری ہے۔

سوا سی طرح الاحزاب کی آیت ۵۶ میں جو حکم دیا گیا کہ:

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام پر درود اور سلام دونوں پڑھو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ساتھ ادا کرو۔ اگر کوئی شخص ایک وقت میں صلاۃ پڑھتا ہے اور دوسرے وقت میں سلام پڑھ لیتا ہے تو شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے۔

اگر آیت مذکورہ (الاحزاب ۵۶) میں یہ صراحت ہوتی کہ درود اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھو تو پھر کہا جاتا کہ ان کو علیحدہ کرنا حکم قرآن کے خلاف ہے، لیکن آیت میں اس طرح کی نہ کوئی صراحت ہے اور نہ کوئی اشارہ، لہذا احناف کے مذہب کے مطابق ”صَلُّوا وَسَلِّمُوا“ کے حکم پر علیحدہ علیحدہ عمل کرنا جائز ہوگا۔ علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی حنفی بغدادی متوفی ۱۲۷۰ھ الاحزاب: ۵۶ کی تفسیر میں زیر بحث مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وعندی ان الاستدلال بالآیة علی کراهة الافراد حسبما سمعت فی غایة الضعف اذ قصاری ماتدل علیہ ان کلامن الصلوة والتسلیم مأمور به مطلقا ولا تدل علی الامر بالاتیان بہما فی زمان واحد کأن یغتی بہما مجموعین معطوفا احدهما علی الآخر فمن صلی بکرة وسلم عشیا مثلاً فقد امتثل الامر فانہا نظیر قوله تعالیٰ: ”اقیموا الصلوة واتوا الزکاة“ واذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوه“ الی غیر ذلک من الاوامر المتعاطفه۔ نعم درج اکثر السلف علی التجمع بینہما فملا استحسن العدول عنہ مع ما فی ذکر السلام بعد الصلوة من السلامت من توہم لا یکاد یرض الا للاذہان السقیمة کمالا

بِسْفَى“، (روح المعانی تفسیر سورۃ الاحزاب آیت ۵۶ صفحہ ۸۴، دار احیاء التراث العربی)

یعنی الاحزاب: ۵۶ سے یہ استدلال کرنا کہ صلوٰۃ اور سلام کو علیحدہ پڑھنا مکروہ ہے میرے نزدیک بہت ضعیف استدلال ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس آیت مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں پڑھنے کا مطلقاً حکم ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دونوں کو بیک وقت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس طرح کہ دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر پڑھا جائے، لہذا جس شخص نے مثلاً صحیح ” صلوٰۃ“ پڑھی اور شام کو ”سلام“ پڑھا تو یقیناً اُس نے بھی آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کیا

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو“ نیز یہ ارشاد کہ ”کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو“ اور اس طرح کے دیگر احکامات جو ملا کر (ایک ساتھ) دیئے گئے ہیں۔ البتہ چونکہ بزرگان دین اس طرف گئے ہیں کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ ادا کیا جائے اس لئے میں اس سے عدول کو اچھا نہیں سمجھتا خصوصاً اس لئے بھی کہ صلوٰۃ کے ساتھ ساتھ سلام پڑھنے میں ان شکوک و شبہات سے سلامتی مل جاتی ہے جو بیمار ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ الاحزاب: ۵۶ سے یہ استدلال بہت کمزور ہے کہ صلوٰۃ اور سلام کو علیحدہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ بھی

معلوم ہوا کہ صلوٰۃ اور سلام کو ایک ساتھ پڑھنا چاہیے علیحدہ کر کے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بھی صحیح قول یہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام کو علیحدہ پڑھنا خلافاً اولیٰ ہے بہتر یہی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ جن علماء نے اپنی کتب میں کراہت کا قول کیا ہے اس سے مراد بھی خلاف اولیٰ ہے نہ کہ مکروہ تحریمی۔

چنانچہ اس بحث میں علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ امام نووی کے قول (یعنی صلاۃ اور سلام کو علیحدہ کر کے پڑھنا مکروہ ہے) کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ذکر المعالمة ابن حجر الهيتمى ان الحق ان المراد بالکراهة خلاف الاولیٰ اذا لم یوجلمقتضیها من النهی الخصوص۔

یعنی علامہ ابن حجر ہیتمی نے ذکر فرمایا ہے کہ کراہت کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ اس سے خلاف اولیٰ مراد ہے جب کہ کسی خاص نہی سے کراہت ثابت نہ ہو۔

زیر بحث مسئلہ میں بھی صلوٰۃ اور سلام کو علیحدہ پڑھنے کی کراہت یا ممانعت کسی دلیل جلی و خفی سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے باوجود علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہذا اس سے خلاف اولیٰ مراد لیا جائے گا نہ کہ مکروہ تحریمی، جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ صلوٰۃ اور سلام کو ایک ساتھ پڑھنا واجب اور لازمی نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہو گیا کہ درود ابراہیمی بھی ایک درود ہے، اس کو ناقص نہیں کہنا چاہیے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نماز کے علاوہ

بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔

باقی رہا یہ کہ درود شریف پڑھنا کب واجب یا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ اور جس مجلس میں سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام اقدس بار بار لیا جائے اس میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔

تنویر الابصار اور در مختار میں ہے:

وهي فرض مرة واحدة في العمر واختلف الطحاوي والكرمانی في وجوبها كلما ذكر صلی اللہ علیہ وسلم والممختار عند الطحاوي تكرار الوجوب كلما ذكر أو تحدد المجلس ولمذهب استحباب التكرار وعليه الفتوى۔

ترجمہ: ”اور یہ (یعنی درود پاک ہر مومن کے لئے) زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، اور (دورانِ کلام) جتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے (آیا ہر بار درود پاک واجب ہے یا ایک مجلس میں ایک بار پڑھنا کافی ہے، تو) امام طحاوی اور کرمانی نے (ہر بار پڑھنے کے) وجوب میں اختلاف کیا ہے اور امام طحاوی کے نزدیک قول مختار یہ ہے کہ ایک مجلس میں جتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ہر بار درود پڑھنا واجب ہے، اور ایک مذہب کے مطابق ایک مجلس میں ہر بار پڑھنا (واجب نہیں بلکہ) مستحب ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے، (تنویر الابصار مع الدر المختار 2/202-199)۔

صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی قدس سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں:

عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب ہے خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے اور اگر ایک مجلس میں سو بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہئے، (بہار شریعت جزء 11/3 مطبوعہ لاہور)۔

مسجد میں لڑائی جھگڑے اور شور و شغب کا حکم

## سوال: 20

ہماری ایک خاندانی مسجد ہے، جسے میرے والد نے بنایا اور وہی اس کے متولی اور امام رہے، ان کے بعد میں امامت کرتا رہا، میں نے چند دنوں کیلئے عارضی طور پر ایک شخص کو امام مقرر کیا، جب میں دوبارہ امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کیلئے گیا اور نماز جمعہ کے وقت مصلیٰ پر امامت کیلئے کھڑا ہوا تو اس امام نے، جسے میں نے معزول کر دیا تھا، مجھے زبردستی مصلیٰ سے کھینچا، نماز پڑھنے سے روکا، گالی گلوچ اور ہاتھ پائی پر اتر آیا، مسجد میں شور و شغب کیا، ایسے شخص کیلئے شرعاً کیا حکم ہے؟، (مولانا عزیز الرحمن بالاکوٹ، ہزارہ)۔

## جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیرِ صدق بیانِ سائل، جن لوگوں نے سائل اور ان کے ساتھیوں پر مسجد میں حملہ کیا، مسجد کا تقدس پامال کیا اور سائل اور ان کے ساتھیوں کو جمعہ کی نماز سے روکا، وہ حرام فعل کے مرتکب ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ  
وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ط

ترجمہ: ”اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔“ (القرآن، سورۃ البقرۃ: 114)

اور فرمایا: اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۞  
 ترجمہ: ”کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔“ یہ آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ (القرآن، سورۃ العلق: 10-9)  
 اسی طرح دشمن رسول ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا:

مَنَاعَ لِلتَّخِيرِ مُعْتَدٍ أَيُّمٍ ۞  
 ترجمہ: ”بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا گنہگار۔“ (القرآن، سورۃ القلم: 12)۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:  
 اپنی مساجد کو بچوں سے (جنہیں مسجد کے ادب و احترام کا شعور نہ ہو)، اور فاتر العقل لوگوں سے، اور شریر لوگوں سے، اور خرید و فروخت کے معاملات اور باہمی جھگڑوں سے محفوظ رکھو۔“ (سنن ابن ماجہ: حدیث نمبر: 570)

کتاب و سنت کی روشنی میں مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا اور شور و شغب کرنا، مسجد کی حرمت کو پامال کرنا ہے، اسی طرح سے ایذائے مسلم بھی حرام ہے، جس کا یہ لوگ سبب بنے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو مسجد کی بے حرمتی کرنے، عبادت میں حائل ہونے اور ایذائے مسلم کے سبب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور جن لوگوں کو



جسمانی یا ذہنی اذیت پہنچائی ہے، ان سے معافی مانگنی چاہیے، فقط واللہ اعلم  
بالصواب۔

ایک مسجد میں تراویح کی دو جماعتیں

**سوال: 21**

جناب مفتی صاحب: ایک ہی وقت میں کسی مسجد میں پہلی منزل اور  
تیسری منزل میں تراویح کی دو جماعتیں الگ الگ امام کی اقتداء میں کرانا، ازروئے  
شریعت درست ہیں یا نہیں؟ تیسری منزل میں تراویح کی جماعت بغیر مائیک  
کے، مدرسہ کے طلباء اور ان کی یادداشت اور مہارت کیلئے تراویح کا اہتمام کیا جانا  
ہے، پہلی منزل میں جگہ کم پڑنے کی وجہ سے بعض مقتدی حضرات بھی شریک ہوتے  
ہیں، (عبید اللہ ہزاروی)۔

**جواب:**

اصولی طور پر جماعت کثیر اور اتحاد و جمعیت میں برکت زیادہ ہے، اسی  
طرح امامت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو بالترتیب ان صفات کا حامل ہو، یعنی سب سے  
پہلے اَعْلَمُ (جو شخص حاضرین میں سب سے زیادہ علم والا ہو)، پھر اَقْرَأُ (جو شخص  
قرأت میں سب سے زیادہ ماہر ہو) اور پھر اَوْزَعُ وَ اَتْقَى (جو شخص سب سے زیادہ  
متقی ہو)۔ لیکن اگر کسی مسجد یا محلے میں امام پہلے سے مقرر ہے اور وہ امامت کی ضروری  
شرائط پر پورا اترتا ہے، تو وہی سب سے زیادہ حق دار ہے۔

آج کل چونکہ حفاظ کرام ماشاء اللہ کثیر تعداد میں ہیں اور نماز تراویح میں قرآن

مجید سنانا، حفظ قرآن کو باقی رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اسی بناء پر حفاظ کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں قرآن سنانے کا موقع ملے۔

تفرقہ اور تشقت و افتراق کیلئے تو ایک مسجد میں دوسری جماعت کا اہتمام کرنا منع ہے، لیکن نیک نیتی سے کسی حافظ قرآن کو سنانے کا موقع دینے کیلئے دوسری یا تیسری منزل پر تراویح کی الگ جماعت کرانا جائز ہے، بشرطیکہ دونوں حفاظ و ائمہ کی آوازیں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں بلکہ اپنی اپنی جماعت تک محدود رہیں اور نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو اور مسجد کی انتظامیہ سے اس کی اجازت بھی لے لی گئی ہو۔

نماز قصر کی بابت ایک مفتی صاحب کا فتویٰ

## سوال: 22

ایک مشہور اخبار میں ایک مفتی صاحب سے سوال کیا گیا، سوال یہ ہے:

میں اپنے شہر سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت 110 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکاری ملازم ہوں، ملازمت کی بناء پر یہاں بہر صورت رہنا پڑتا ہے، مگر میں اپنی سہولت اور چند مجبوریوں کے باعث یہاں مستقل قیام نہیں کر سکتا، اتوار کی چھٹی کا دن گھر پر گزار کر پیر کے دن ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتا ہوں اور پھر ہفتہ کی شام اپنے شہر چلا جاتا ہوں۔ ملازمت کے مقام پر ہفتہ یا چھ دن قیام کرتا ہوں، اس صورت میں فرض نماز مکمل ادا کروں یا قصر ادا کروں، شریعت کا اس صورت میں کیا حکم ہے؟۔ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب نے یہ جواب دیا: اپنے شہر سے ایک سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر

اگر 15 دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت سے سکونت اختیار کر لی، اپنا کچھ ساز و سامان بھی وہاں ہو تو پھر جب بھی بسلسلہ ملازمت اس شہر میں آئیں گے، مقیم ہی شمار ہوں گے اور نماز پوری ادا کرنا ہوگی، یہاں تک کہ یہاں سے ملازمت ختم ہو جائے اور دوسری جگہ منتقلی ہو جائے، (عالم گیری 139/1 البحر 132/2 شامی 133/2)، بعض احباب نے کہا ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہے براہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہ جواب صحیح ہے؟، (حافظ محمد قدرت اللہ نقشبندی، گلشن اقبال، کراچی)۔

### جواب:

مفتی صاحب کا یہ جواب درست نہیں ہے، خواہ ایک بار کسی مقام پر پندرہ دن اقامت کی نیت کر کے قیام بھی کر لیا ہو اور کچھ ساز و سامان بھی وہاں رکھ چھوڑا ہو، تب بھی جب وہاں سے سفر کر کے وطن اصلی یا کسی دوسرے وطن اقامت میں منتقل ہو گا تو یہ وطن اقامت باطل ہو جائے گا اور اس کے بعد جب بھی وہاں 15 دن سے کم مدت کیلئے اقامت کرے گا تو قصر پڑھے گا، یہ مشہور فقہی ضابطہ ہے کہ وطن اصلی، وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے اور ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری: جلد 1 ص: 143 پر ہے: "وَوَطْنُ الْإِقَامَةِ يُسْطَلُ بِوَطْنِ الْإِقَامَةِ وَبِإِنْشَاءِ السَّفَرِ بِالْوَطْنِ الْأَصْلِيِّ، هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ"۔

ترجمہ: "ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح

وہاں سے سفر کرنے سے باطل ہو جاتا ہے اور وطنِ اصلی سے بھی باطل ہو جاتا ہے۔“  
 مفتی شامزئی صاحب نے فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ شامی کا حوالہ دیا ہے، ان  
 دونوں میں مفتی صاحب کے موقف کے برعکس ہے، چنانچہ عالمگیری  
 143/1 پر ہے:

”وَلَمَّا تَقَلَّ بِأَهْلِيهِ وَ مَنَاعِهِ إِلَى بَلَدٍ وَبَقِيَ لَهُ دُورٌ وَعَقَارٌ فِي الْأَوَّلِ قِيلَ بَقِيَ  
 الْأَوَّلُ وَطَنًا لَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ كَذَا فِي  
 الزَّاهِدِي“۔

ترجمہ: ”اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے  
 شہر منتقل ہو گیا، لیکن پہلے شہر میں اس کے مکانات اور غیر منقولہ جائیداد بدستور ہے تو  
 ایک قول کے مطابق پہلے شہر کے ساتھ اس کا وطنیت کا تعلق قائم رہے گا اور اسی کی  
 جانب امام محمد نے اشارہ کیا ہے، زاہدی میں اسی طرح ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مقام پر اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان  
 کے ساتھ رہ رہا تھا اور بعد میں وہاں سے اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان  
 سمیت منتقل ہو جائے لیکن وہاں اس کے مکانات اور غیر منقولہ جائیداد بدستور  
 موجود ہو تو ایک قول کے مطابق اس کی وطنیت قائم رہے گی اور وہاں وہ جب  
 بھی آئے گا تو پوری نماز پڑھے گا، یہ بھی ایک قول ضعیف ہے۔ لیکن سائل نے  
 جو صورتِ مسئلہ بیان کی ہے وہ مختلف ہے، اس نے اہل و عیال کے ساتھ وہاں  
 قیام نہیں کیا، محض ایک آدھ سوٹ کیس یا ایک دو جوڑے رکھ چھوڑے ہوں تو اس

کا یہ حکم نہیں ہے، لہذا جب بھی اس کا قیام پندرہ دن سے کم ہوگا، وہ قصر ہی پڑھے گا، خواہ ایک آدھ بار پندرہ دن قیام کر بھی لیا ہو تو صرف اسی موقع پر پوری نماز پڑھے گا، ایسی ہی ایک صورت جو عالمگیری میں امام محمد کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، وہ حج کو آئے تو انہوں نے قصر نہ پڑھی بلکہ پوری نماز پڑھی۔ لوگوں نے اس بناء پر ان پر طعن کیا تو انہوں نے جواب دیا:

”كَلِمًا لَّا يَاقُلُونَ اَتَمُّ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَكَانَتْ لَاتُتَمُّ اِلَّا وَابِنِي قَدِمْتُ بَلَدًا فِيهِ اَهْلِي فَاتَمَمْتُ لِهَذَا“۔

ترجمہ: ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سفر میں پوری نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ سفر میں تو قصر پڑھی جاتی ہے، بات یہ ہے کہ میں ایک ایسے شہر میں آیا ہوں، جہاں میری بیوی ہے اس لئے میں نے پوری نماز پڑھی“، (سیر اعلام النبلاء، دارالفکر بیروت: 2-597/1)۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جہاں اہل و عیال کے ساتھ رہا ہو، خواہ ایک سے زیادہ بیویاں متفرق مقامات پر رہتی ہوں تو وہاں وہ پوری نماز پڑھے گا، چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ حضرت عثمان نے وہاں شادی کر لی ہے اور ان کی ایک بیوی وہاں مقیم ہے، اس لئے انہوں نے طعن کیا اور حضرت عثمان نے اپنی پوزیشن واضح فرمائی۔

مکرمی جناب میری رہائش فیڈرل بی ایریا، کراچی میں ہے اور بسلسلہ نوکری نوری آباد جاتا ہو جو کہ کراچی سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں عموماً دو دن نوری آباد میں رکتا ہوں اور تیسرے دن شام میں واپس آجاتا ہوں، اس صورتحال میں کیا میں اپنی نماز قصر کروں یا مکمل نماز ادا کروں؟، کیونکہ ہمارے ادارے کے ایک صاحب نے کراچی کے ایک عالم سے فتویٰ لیا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کیونکہ آپ کا قیام 15 روز سے کم کا ہوتا ہے، اس لئے آپ نماز قصر کریں گے، لیکن ہمارے ادارے کے دوسرے صاحب نے حیدرآباد کے ایک مولانا صاحب سے فتویٰ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ آپ کو ادارے میں رہائش کی سہولت ہے اور آپ مستقل نوکری پر ہیں، اس لئے آپ کی ملازمت کی جگہ آپ کی رہائش تصور کی جائیگی۔ اس لئے آپ کو مکمل نماز ادا کرنی ہوگی۔ برائے مہربانی آپ اس بارے میں فیصلہ دیں کہ ہم آیا نماز مکمل ادا کریں یا قصر کریں۔

(حامد بشیر، R-474 بلاک 15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

کم از کم مسافتِ سفر ”جس کا سفر شروع کرنے سے ”قصر“ واجب ہو جاتی ہے، وہ مقدار سفر ہے، جو انسان اوسط رفتار سے یا اونٹ کی متوسط رفتار سے اپنی طبعی ضروریات و لوازمات (اس سے مراد مناسب آرام، کھانے اور دیگر حاجات کی تکمیل

ہے) اور شرعی فرائض (یعنی نمازوں) کی ادائیگی کے ساتھ تین دن میں طے کرے۔ اس میں آرام کے وقفے کے ساتھ دن کا سفر اور رات کا قیام بھی شامل ہے، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ مسافت کے پیمانے بھی بدلتے گئے اور پھر مسافت کو پہلے انگریزی میلوں اور بعد میں کلومیٹر سے ناپا جانے لگا، لہذا ہد حاضر کے علماء نے مسافتِ قصر کا اندازہ انگریزی میلوں سے قائم کیا۔ فقہاء کرام کے اقوال میں مفتیؒ یہ قول اٹھارہ فرسخ ہے اور اٹھارہ فرسخ چھون میل شرعی ہیں، جو ایک لاکھ آٹھ ہزار گز یعنی ایکٹھ انگریزی میل دو فرلانگ بیس گز ہیں اور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین چار (98.734) کلومیٹر کے برابر ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ثم اختلصوا فقيل احد وعشرون، وقيل ثمانية عشر، وقيل خمسة عشر،  
والفتوى على الثانى لانه الاوسط۔

ترجمہ: ”بعض فقہاء نے اکیس فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے اٹھارہ فرسخ قرار دیا ہے اور بعض نے پندرہ فرسخ قرار دیا ہے اور مفتیؒ یہ اٹھارہ فرسخ کا قول ہے۔“ (در مختار: جلد نمبر 2 ص: 526 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)

لہذا مفتیؒ یہ قول کے مطابق تقریباً اٹھانوے (98) کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہی سفر شرعی اور قصر کے احکام لاگو ہونگے اور صورتِ مسئلہ میں سائل چونکہ 92 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہے، لہذا نماز قصر نہیں کی جائے گی، بلکہ مکمل نماز ادا کریں گے۔

سرکاری زمین پر بغیر لیز یا الاٹمنٹ مسجد کی تعمیر اور شرعی حیثیت

## سوال: 24

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قیام پاکستان کے بعد بہت سی سرکاری کالونیوں میں سرکاری ملازمین نے ضرورت کے تحت سرکاری زمین پر کئی مساجد تعمیر کیں، کیونکہ کورنمنٹ نے ان کالونیوں میں مساجد تعمیر نہیں کی تھی اور نہ ہی مساجد کیلئے جگہیں وقف کی تھیں، ان ہی سرکاری کالونیوں میں جہانگیر روڈ ایسٹ، جہانگیر روڈ ویسٹ، کلیٹن کوارٹرز، مارٹن کوارٹرز، پاکستان کوارٹرز وغیرہ شامل ہیں، یہاں پر سرکاری ملازمین نے کئی مساجد تعمیر کیں، جن میں چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جامع مسجد مبارک مارٹن کوارٹرز ۲۔ سنہری جامع مسجد مارٹن کوارٹرز

۳۔ جامع موتی مسجد کلیٹن کوارٹرز ۴۔ جامع بغدادی مسجد مارٹن کوارٹرز

۵۔ جامع مسجد عثمانیہ جہانگیر روڈ ۶۔ جامع مسجد کریا جہانگیر روڈ ایسٹ وغیرہ وغیرہ۔

بعد ازیں ان مساجد میں سے چند کو کورنمنٹ نے اپنے نقشوں اور لے آؤٹ پلان میں تو مساجد کی حیثیت سے تسلیم کیا، لیکن مساجد انتظامیہ کی درخواست دینے پر بھی کورنمنٹ کے کسی محکمے نے ان مساجد کو لیز یا الاٹمنٹ وغیرہ جاری نہیں کئے، جبکہ یہ مساجد کورنمنٹ رجسٹرڈ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہیں، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ان مساجد کی کیا حیثیت ہے؟، (سید محمد رضوان حسن سہروردی)۔



## جواب:

مسجد ہونے کے لئے وقف ہونا شرط ہے، اگرچہ انہی الفاظ سے کہ ”میں نے اسے مسجد کر دیا“ اس سے بھی وقف ہو جائے گا۔  
علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(ویزول ملکہ عن المسجد والمصلیٰ) بالفعل و (بقوله جعلته مسجداً)  
ترجمہ: ”کسی شخص کے یہ کہنے سے کہ میں نے زمین کے اس حصے کو مسجد بنا دیا ہے یا عملاً اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل جائے گی، (رد المحتار جلد 6 ص: 426 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”جب وہ مکان عام مسلمین کے ہمیشہ نماز پڑھنے کے لئے بنایا اسے کسی محدود مدت سے مقید نہ کیا کہ مہینے دو مہینے یا سال دو سال اس میں نماز کی اجازت دیتے ہیں اور اس میں نماز تھی کہ جمعہ و عیدین تک ہوتے ہیں تو اس کے مسجد ہونے میں کیا شک ہے، ----- آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: خالی زمین نماز کے لئے وقف کی جائے وہ بھی مسجد ہو جائے گی اگرچہ یہ نہ کہا ہو اسے مسجد کیا، (فتاویٰ رضویہ، جلد 16 ص: 281 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

وقف کے درست ہونے کے لئے اس کی شہرت ہونا کافی ہے، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں: تقبل فیہ بما لشہرۃ الی ان قال حفظاً لاواقف القدیمة عن

الاستہلالک ۔

ترجمہ: ”یعنی عامۃ الناس میں مشہور ہونا کہ یہ وقف کی جگہ ہے، یہ بھی شرعاً ایک مقبول شہادت ہے۔۔۔ آگے چل کر فرمایا: اصول اس لئے مقرر ہوا تا کہ پرانے اوقاف کو (جن کی کوئی دستاویزی شہادت یا ریکارڈ یا ان افراد کی شہادت جن کے سامنے وقف کیا گیا) ضائع ہونے سے بچایا جاسکے، (درمختار، جلد 6 صفحہ: 484 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

اگر سائل کا بیان درست ہے کہ حکومت نے ابتدائی طور پر تو اپنی بعض سوسائٹیوں اور کالونیوں میں مساجد کے لئے مقامات مختص نہیں کئے تھے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ خود ریاست کی جانب سے باقاعدہ قانونی وقف ہو جاتا، لیکن بعد میں ان کالونیوں کے رہائشی لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت سرکاری زمینوں پر مسجدیں بنا دیں، حکومت نے نہ صرف یہ کہ کوئی تعرض نہیں کیا بلکہ بعد ازاں ان مساجد کو اپنے نقشوں اور لے آؤٹ پلان میں بحیثیت مسجد تسلیم کر لیا ہے تو ان کی مسجدیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیز یا الاٹمنٹ قانونی کارروائی کا حصہ ہیں، شرعاً ان مساجد میں نماز جائز و درست ہے اور ان مساجد کو اب کسی ضرورت کے تحت شہید کرنا یا ان کی حیثیت کو ختم کرنا درست نہیں ہے۔

درود و سلام اور اذان کے درمیان اعلان کرنے کا حکم

سوال: 25

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ عظام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید کہتا ہے درود و سلام اور اذان کے درمیان یہ اعلان کیجئے (اذان کا احترام کرتے

ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے)۔  
 اس اعلان کے بعد اذان دیجئے اور زید اس اعلان کو سختی سے کرنے کا حکم دیتا  
 ہے، برائے مہربانی اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت  
 فرمائیے، (محمد اشرف، سیکٹر 1-A-5 ناتھ کراچی)۔

### جواب:

اذان کا اصل مقصد مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینا اور باجماعت  
 نماز کی دعوت دینا ہے، اذان سننے کے بعد مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ نماز کی تیاری کر کے  
 مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ایسا کرنا ”اجابتِ فعلی“ کہلاتا ہے، یعنی  
 عملی طور پر اذان کا جواب دینا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آیا زبان سے اذان کا جواب دینا  
 ، جسے ”اجابتِ قولی“ کہا جاتا ہے، واجب ہے یا نہیں؟، اس میں فقہاء کا اختلاف  
 ہے، بعض کے نزدیک ”اجابتِ قولی“ مستحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔  
 ترمذی شریف میں حضرت ابوسعید الخدیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المعوذون۔

ترجمہ: ”جب تم اذان (کے کلمات) سنو تو تم بھی مؤذن کی طرح کلماتِ اذان کہو“۔

(رقم الحدیث: 208)

اس حدیث میں ”قولوا“ امر کا صیغہ ہے اور امر و جوب پر دلالت کرتا ہے بشرطیکہ  
 وجوب کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، اور ”اجابتِ قولی“ مراد لینے پر دلیل  
 ”قولوا مثل ما يقول المعوذون“ کے الفاظ ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

اجابتِ قولی“ بھی واجب ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”بہرۃ المصنفات“ جلد اول صفحہ 311 پر لکھتے ہیں:

اجابتِ مؤذن واجب است کہ اگر چند کس اذان کو بند حرمت مراول راست و اگر از جوانب اذان بشنود واجب است اجابت مؤذن مسجد خود را۔

ترجمہ: ”مؤذن کی اذان کا جواب دینا واجب ہے اگر کسی مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن ہوں تو جواب پہلی اذان کا واجب ہوگا، اگر اطراف سے ایک سے زائد اذانیں سنیں تو اپنی مسجد کی اذان کا جواب دینا واجب ہوگا“۔ علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

لکن ظاہر الامر فی قوله ﷺ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الوجوب اذا لم يظهر قرينة تصرفه عنه، بل ربما يظهر استنكار تركه لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه. وفي التحفة ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشئ حال الاذان أو الاقامة. وفي النهاية: تجب عليهم الاجابة لقوله ﷺ ”اربع من الجفاء، ومن حملتها: ومن سمع الاذان والاقامة ولم يُجيب“۔ وهو غير صريح في اجابة اللسان، اذ يجوز كون المراد الاجابة بالالتفات الى الصلاة، والا لمكان جواب الاقامة واجباً، ولم نعلم فيه عنهم الا انه مستحب والله اعلم۔

ترجمہ: ”بظاہر رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد“ کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے

ہوئے سنو تو تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے،“ سے مراد وجوب ہے، کیونکہ ایسا کوئی ظاہری قرینہ نہیں جس کے باعث امر کے حقیقی معنی (وجوب) سے عدول کیا جائے، بلکہ بسا اوقات اس (اجابت) کے ترک پر نکیر آئی ہے، کیونکہ یہ اس حکم کی جانب عدم توجہ اور اس سے روگردانی کے مشابہ ہوتا ہے، اور تحفہ“ میں ہے: (اذان سننے والے کو) چاہئے کہ وہ اذان و اقامت کے وقت نہ گفتگو کرے اور نہ ہی کوئی اور کام کرے، اور ”نہایہ“ میں ہے: (اذان سننے والوں پر) اذان کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: چار چیزیں جفا کی دلیل ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص اذان و اقامت سنے اور جواب نہ دے اور یہ حکم وجوب (اذان کا) قولی جواب دینے کے بارے میں واضح نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس اجابت سے مراد یہ ہو کہ (اذان سن کر) نماز کی طرف آنا واجب ہے، ورنہ تو جواب اقامت بھی واجب ہو جائے گا، حالانکہ ہم اس کے بارے میں (فقہاء امت سے) یہی جانتے ہیں کہ اقامت (کا قولی) جواب مستحب ہے، واللہ اعلم“، (فتح القدر، جلد اول ص: 254 مطبوعہ مرکز اہلسنت برکاتِ رضا، کجرات، انڈیا)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(و یستحب) و جوباً و قال الحلوانی نُدباً و الواجب الاجابة بالقلم (من سمع الاذان) و لرجنباً لا حائضاً و نفساء و سامع خطبة و فی صلاة جنازة و جماع، و مستراح و اکل و تعلیم علم و تعلّمه بخلاف قرآن۔

ترجمہ: ”اور جو شخص اذان سنے اس پر اس کا جواب دینا واجب ہے اور حلوانی نے

کہا کہ مستحب ہے اور جو پیر واجب ہے، وہ نماز کے لیعملاً چل پڑنا ہے، اور جو شخص اذان سنے، اگرچہ وہ جنبی ہو اس پر جواب دینا واجب ہے، (البتہ) حیض و نفاس والی عورت اور خطبہ سننے والے شخص اور اس شخص پر جو نماز جنازہ یا جماع میں مشغول ہے یا جو قضائے حاجت کر رہا ہے یا جو کھانے اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے، (ان سب پر اذان کا زبانی جواب دینا واجب نہیں ہے)، بخلاف تلاوت قرآن کے (یعنی قرآن پڑھنے والے شخص پر اذان کا زبانی جواب دینا واجب ہے)، (ردالمحتار علی الدرالمختار، جلد 2 ص: 60 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

درمختار کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہوا کہ اجابت قولی کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، لہذا اس کو فقط مستحب کہنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی نے اجابت اذان کے بارے میں علامہ حلوانی کا قول نقل کیا ہے کہ اذان کا زبانی جواب دینا مستحب ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں: اگر ایک شخص اذان سنتے وقت پہلے ہی مسجد میں موجود ہے، تو اس پر اجابت واجب نہیں ہے، ہاں! البتہ اگر وہ خارج مسجد ہے تو وہ نماز کیلئے چل پڑے یعنی عمل کی صورت میں جواب دے، اور اگر اس نے زبانی جواب تو دیا، لیکن عملاً نماز کیلئے نہ گیا تو یہ تعمیل امر نہیں ہے، اور یہ اس پر مبنی ہے کہ اذان کا جو جواب شرعاً مطلوب ہے، وہ عملی ہے، جیسا کہ حلوانی کا قول ہے اور اسی پر یہ تفریح بھی ہے کہ (اذان سننے والا) اگر تلاوت میں مشغول ہے، تو قراءت اسی مقام پر موقوف کر دے اور اذان کا جواب دے، اگر یہ اذان اس

کی اپنی مسجد کی ہے تو اس پر جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اس کی وہاں پر موجودگی خود جواب ہے، اور یہ ساری گفتگو حلوانی کے قول پر متفرع ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ تلاوت موقوف کرے اور مطلقاً زبانی جواب دے۔ آگے چل کر علامہ حصکھی لکھتے ہیں:

والمظاهر و جوبہا باللسان لظاهر الامر فی حدیث: "اذا سمعت الموعظ فقولوا مثل ما يقول" كما بسط فی "البحر"، و أقره المصنف، و قوله فی "النهر" تافلاً عن "المحيط" وغیره،

ترجمہ: "ظاہر یہ ہے کہ اذان کا زبانی جواب دینا واجب ہے، کیونکہ اس حدیث میں امر واضح ہے کہ: "جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو! تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے"، جیسا کہ "البحر الرائق" میں تفصیل سے بیان کیا ہے اور مصنف نے اسے قائم رکھا ہے اور "النہر" میں محیط وغیرہ کا حوالہ نقل کرتے ہوئے اسے تقویت دی ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2 ص: 63 - 64 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

فتاویٰ قاضی خان علی ہاشم ہندیہ، جلد اول صفحہ 79 پر ہے:

ومن سمع الاذان فعليه ان يحجب --- قال شمس الائمة الحلوانی رَجَمَهُ  
اللّٰهُ تعالیٰ تکلم الناس فی الاجابة قال بعضهم هو الاجابة بالقدم لا  
باللسان حتی لو اجاب باللسان ولم یمش الی المسجد لا یكون معجیبا۔

ترجمہ: "اور جو شخص اذان سنے اس پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے، شمس الائمہ حلوانی

رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فقہاء نے ”اجابتِ اذان“ کے بارے میں کلام کیا ہے، بعض نے کہا کہ اس سے اداء نماز کی جانب عملی پیش رفت مراد ہے نہ کہ محض زبانی جواب دینا، یہاں تک کہ اگر زبان سے تو جواب دیا، لیکن اداء نماز کیلئے مسجد کی طرف نہ گیا، تو (دراصل) وہ مجیب (جواب دینے والا) نہیں ہوگا۔“

قاضی خان کی مذکورہ عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ اجابتِ لسانی کے حکم میں اختلاف ہے، لہذا اجابتِ لسانی کو فقط مستحب کہنا صحیح نہیں کیونکہ بعض ائمہ اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، صاحبِ بہار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔

(بہار شریعت: حصہ سوم، صفحہ: 127)۔ نیز اسی صفحہ پر آگے لکھتے ہیں: ”راستے پر چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے“، (بحوالہ عالمگیری و بزاز یہ)۔

مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے بھی ”اجابتِ قوی“ کا وجوب مستفاد ہوتا ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا امر مشروع ہے، اس کی اصل روح اور حقیقی و کامل اجابت یہی ہے کہ بندہ اذان سن کر نماز کے لئے چل پڑے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں ”اجابتِ قوی“ یعنی کلماتِ اذان سن کر دہرانے کا حکم اور ترغیب موجود ہے اور اس پر بشارت و وعدہ بھی



ہے، تاہم اس پر فقہاء کی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ حدیث مبارک میں کلمہ امر  
 ”فقرو لوامثل ما یقول المعوذن (یعنی ویسا کہو جیسے مؤذن کہتا ہے)“ سے مستفاد یہ  
 ہے کہ کلمات اذان کو دہرانا یا قولی جواب دینا واجب ہے، کیونکہ جب تک کسی کلمے کے  
 حقیقی معنی سے عدول کیلئے کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، اسے حقیقت پر ہی محمول کیا جائے۔

اذان کی اجابتِ قولی یعنی کلمات اذان کو دہرانے کے امر شروع کو جب ہم واجب  
 قرار دے رہے ہیں تو عامۃ المسلمین کو اس کی دعوت دینا یا ترغیب دینا ایک امر لازم  
 ہے۔ خصوصاً اس دور میں جب کہ اذان کے کلمات کا زبانی جواب دینے سے لوگ سخت  
 غافل ہیں اور عوام کی اکثریت اس حکم سے غفلت برت رہی ہے، اس لئے اس دور میں  
 لوگوں کو اس حکم پر عمل کرنے کی ترغیب دینا احیاء سنت کے قبیل سے ہے اور اس پر  
 متنبہ کرنے کے لئے اعلان کرنے پر از روئے حدیث ماجور ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ اور  
 اس پر کسی کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ تعامل امت میں توارث کے  
 ساتھ نہیں ہوتا رہا، اس لئے بعض لوگ ”کلمۃ الحق اُرید بہا الباطل“ (یعنی کوئی  
 بات فی نفسہ تو حق ہو، لیکن اسے قائل باطل مقصد کے لئے استعمال کرے) کے  
 مصداق اہلسنت وجماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئے دن نئی  
 بدعات رائج کرتے رہتے ہیں۔ اور اہلسنت وجماعت کے بارے میں خالی الذہن  
 لوگوں کی ذہنوں میں ایک طرح کی بدگمانی، تشکیک یا اعراض کی کیفیت پیدا کر دیتے  
 ہیں، اس لئے اگر لوگوں کو کوئی شخص اذان سے پہلے ”اجابتِ اذان“ کی ترغیب دینا  
 چاہے تو اذان اور ان ترغیبی کلمات کے درمیان چند منٹ کا وقفہ کر لے تاکہ ان کے

اذان کا جزء لازم بننے کا تاثر پیدا نہ ہو۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ائمہ و خطباء دروس و خطبات جمعہ میں وقتاً فوقتاً اس کی ترغیب دیتے رہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ اگر کہیں اذان سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی مؤذن یہ ترغیبی کلمات نہیں کہتا تو کوئی شخص اس پر طعن نہ کرے اور اسے ملامت نہ کرے، کیونکہ اس خاص مقام پر حدیث میں اس کی تاکید نہیں آئی ہے بلکہ وقتاً فوقتاً علماء کو یہ مسائل بیان کرتے رہنا چاہئیں۔

قضاءِ عمری پڑھے جانے کے لیے کونسا وقت موزوں ہے

### سوال: 26

کیا فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اگر فرض نماز کی جماعت میں وقت ہے، قضاءِ عمری پڑھی جاسکتی ہے۔ کیا عصر کی فرض نماز کے بعد قضاءِ عمری پڑھی جاسکتی ہے۔ (سائل محمد علی بلاک 13.C گلشن اقبال، کراچی)۔

### جواب:

صرف تین اوقات، جو مکروہ تحریمی ہیں، ان میں قضاء نمازیں نہیں پڑھنی چاہئیں یعنی طلوع آفتاب (آفتاب کی پہلی کرن نمودار ہونے سے 20 منٹ تک) (یعنی غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ) اور ضحوة کبریٰ (زوال سے پہلے کا وقت)، لیکن اگر سستی کا بلی یا بشری کمزوری کے تحت اس دن عصر کی نماز کامل وقت میں نہیں پڑھ سکا، تو غروب سے پہلے کے آخری 20 منٹ میں بھی پڑھ لے، جو وقت مکروہ ہے، کیونکہ مطلقاً قضا کرنے سے وقت ناقص میں ادائیگی بہتر ہے

لیکن اس وقت میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں: اور فرض کی قضاء فرض، واجب کی واجب اور سنت کی سنت پھر قضاء کے لئے کوئی وقت معین نہیں بلکہ تمام عمر کسی بھی وقت ادا کی جاسکتی ہے سوائے تین وقتوں کے طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت، اور غروب آفتاب کے وقت پس ان اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، اسی طرح ”المحرم الرائق“ میں ہے:، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 121 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

لہذا فجر کے فرضوں سے پہلے اور بعد بھی اسی طرح عصر کے فرضوں کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھنا بلا کراہت جائز ہیں البتہ نماز عصر کے وقت مکروہ میں اگر قضا نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی جب کہ عصر کی وقتی نماز اس وقت مکروہ میں کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔

مسبق کی نماز میں سہو

سوال: 27

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قعدہ اولیٰ میں مل جائے تو وہ اگلی دو رکعتوں میں قعدہ اولیٰ کرے گا یا نہیں اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ سجدہ سہو کرے گا یا اس کی نماز ہو جائے گی، وضاحت فرمائیں، (سید صفی اللہ، گڑھی نواب سید، ٹنگرام)۔

جواب:

اس مقتدی کے لئے کہ جو امام کے ساتھ قعدہ اولیٰ میں شامل ہوا تھا اس

کے بعد امام بقیہ دو رکعت پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا اور اخیر میں قعدہ اخیرہ کرے گا جو کہ اس مسبوق (یعنی نماز کا ابتدائی حصہ ایک رکعت یا اس سے زائد نکلنے کے بعد وسط نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو) مقتدی کا قعدہ اولیٰ کہلائے گا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد مسبوق اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا تو دو رکعت بقیہ پڑھنے کے بعد وہ مسبوق مقتدی قعدہ اخیرہ کرے گا اور سلام پھیرے گا، تو چونکہ مقتدی امام کے تابع ہے سوال سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ سوال ظہر، عصر اور عشاء کی نماز سے متعلق ہے، امام کے قعدہ اخیرہ، (جو دراصل مقتدی کا قعدہ اولیٰ ہے) میں اگر مقتدی غلطی سے، خطا یا سہواً تشهد (التحیات) کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، باجماعت نماز میں امام سے ترک واجب ہو جائے تو امام کے ساتھ سب مقتدی سجدہ سہو کریں گے، لیکن دوران اقتداء مقتدی سے ترک واجب ہو جائے (مثلاً دعاء قنوت نہ پڑھ سکا) تو جماعت کی برکت سے مقتدی سے سجدہ سہو (یعنی ترک واجب) معاف ہو جاتا ہے۔ مسبوق مقتدی اٹھ کر جب بقیہ دو رکعات پڑھے گا تو یہ ان دو رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، کیونکہ یہ اس کی پہلی دو رکعات ہیں، جو رہ گئی ہیں۔ اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد آخر میں قعدہ بیٹھے گا اور یہ قعدہ اخیرہ چونکہ فرض ہے لہذا اگر کوئی شخص قعدہ چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر مغرب اور نماز وتر میں (ماہ رمضان میں) جس مسبوق مقتدی کی پہلی دو رکعات رہ گئی ہوں، تو وہ کھڑے ہو کر سورت کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا اور اب اس کی اپنی

دورکعات ہو جائیں گی، لہذا اس پر تشہد کے لئے بیٹھنا اور پوری التیحات پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر وہ اس مقام پر نہیں بیٹھتا اور اس سے یہ واجب ترک ہو جاتا ہے، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ترک واجب پر سجدہ سہو لازم آنا چاہئے، لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ خلاف قیاس اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، وہ سجدہ سہو کئے بغیر نماز مکمل کر کے سلام پھیر دے تو نماز صحیح طور پر ادا ہو جائے گی، اس صورت مسئلہ کو امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ جلد 3 صفحہ 392 مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی میں بیان فرمایا ہے۔

### پہلی صف کے فضائل

#### سوال: 28

مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے کے کیا فضائل ہیں؟ کیا بعد میں آنے والا پہلی صف میں بیٹھ جائے اور جو پہلے سے آیا ہے وہ پیچھے بیٹھا رہے تو کیا بعد میں آنے والے کو پہلی صف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہی ثواب ملے گا جو پہلی صف میں بیٹھنے والے کو ملتا ہے، (حافظ محمد جمشید مظفر گڑھ)۔

#### جواب:

پہلی صف کے فضائل احادیث کریمہ میں اس طرح سے وارد ہوئے ہیں:  
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا (اجر و ثواب) ہے پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرعہ اندازی کرتے“، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 615)۔

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیشہ صفِ اول سے لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے موخر کر کے نار میں ڈال دے گا۔“ (ابوداؤد، رقم الحدیث: 679)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرویہ ہے وہ فرماتے ہیں: صفِ مقدم کو پورا کرو پھر اس کو جو اس کے بعد ہوا اگر کچھ کمی ہو تو پچھلی میں ہو،“ (ابوداؤد رقم الحدیث: 671)۔

”مسند احمد و طبرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے صفِ اول پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ اور فرشتے صفِ اول پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں نے عرض کی اور دوسری پر؟ فرمایا اور دوسری پر اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور موٹھوں کو مقابل کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے،“ (مشکوٰۃ بحوالہ احمد)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

مردوں کی پہلی صف کہ امام سے قریب ہے دوسری سے افضل ہے اور دوسری تیسری سے افضل ہے، وعلیٰ ہذا القیاس۔

مقتدی کے لیے افضل جگہ یہ ہے کہ امام سے قریب ہو اور دونوں طرف برابر ہوں تو ذہنی طرف افضل ہے، لیکن اگر بائیں جانب افراد کم ہوں تو پھر تسویہ صفوں (صفوں کو برابر رکھنا) کے لئے بائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب

زیادہ ہوگا۔

پہلی صف میں جگہ ہے اور پچھلی صف بھر گئی ہے تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو، اس کے لیے حدیث میں فرمایا جو صف میں کشادگی دیکھ کر اس کو بند کر دے اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی، (عالمگیری جلد اول، ص: 89 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

پہلی صف میں بیٹھنے کے بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ اس طرح سے بیٹھا جائے کہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور پیچھے آنے والوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا نہ پڑیں۔ رہا نفس ثواب کا مسئلہ تو احادیث میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ترتیب صفوف کے اعتبار سے ہے بعد میں آنے والا بھی اول صف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس ثواب کا حق دار ہوگا۔

سنن ترمذی میں ابواب الجمعہ کے تحت ایک حدیث وارد ہوئی ہے:

ترجمہ: ”حضرت سہیل بن معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگے، وہ اپنے لئے جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے“، (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 513، دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔

اسی مفہوم کی حدیث سنن ابی داؤد میں مذکور ہے، (رقم الحدیث: 1111،

مؤسسۃ الریان المکتبۃ المکیہ، ج: 2، ص: 112)۔

اگر آگے کی صفیں مکمل ہیں اور ان میں خلا نہیں ہے، تو پیچھے سے کسی شخص کا گردنیں پھلانگ کر اور اپنے لئے امتیازی حیثیت کا تقاضا یا خواہش کرنا، ان احادیث میں بیان کی گئی وعید کا مصداق ہے۔ تاہم ایک شخص بعد میں آتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے یا کھڑے نمازی صفوں میں خلا چھوڑے ہوئے ہیں اور باوجود توجہ کرنے کے وہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پُر نہیں کرتے تو پھر پچھلی صفوں کو چیر کر آگے آنے والا جو آگے کی صفوں میں خلا کو پُر کرنا چاہتا ہے، اپنے اخلاص نیت، تمسک بالسنة اور تعامل بالسنة کی وجہ سے گنہ گار نہیں ہوگا بلکہ ماجور ہوگا، کیونکہ آگے کی صفوں میں خلا چھوڑ کر بیٹھنے والوں نے کوتاہی، سستی، سنت پر عمل پیرا ہونے میں عدم رغبت کی وجہ سے خود اپنے احترام اور تقدس کو پامال کیا ہے، اگر صف بندی ہو جائے اور اس کے بعد مقتدی کو نظر آئے کہ اس کے آگے صف میں ایک آدمی کی جگہ ہے اور خلا ہے تو نماز کے اندر رہتے ہوئے اور ہاتھ باندھے ہوئے چل کر اگلی صف کے خلا کو پر کرے، لیکن صرف ایک صف تک جائے، زیادہ صفوف کو عبور نہ کرے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا، اس مسئلے کو علامہ ابن عابدین شامی ”ردالمحتار علی الدر المختار جلد 2 ص: 268، 269، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی میں بیان کیا ہے۔

بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کی اقتداء

**سوال: 29**

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری مسجد کے



امام صاحب اس وقت عارضہ قلب، شوگر، گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں، رمضان کی آمد ہے کیا ہم ان سے اس طرح تراویح پڑھوائیں کہ وہ بیٹھے ہوں اور ہم پیچھے کھڑے ہو کر سماعت کریں؟، (حافظ سلیم محمود، گلشن فاروق D/3-7 تا تھ کراچی)۔

## جواب:

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

و یصح اقتداء القائم بالقاعد الذی یرکع ویسجد لاقتداء الراکع والساجد  
بالمرومی هکذا فی فتاویٰ قاضیخان و یوم الاحدب القائم کما یوم القاعد  
کذا فی الذخیرة وهکذا فی الخانیة۔

ترجمہ: ”اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے جبکہ وہ (نماز پڑھانے والا) رکوع و سجود کر سکتا ہو اور جو رکوع و سجود اشارے کے ساتھ کرتا ہو اس کی اقتداء درست نہیں، فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے، اور کوزہ پشت (کبڑا آدمی) کی امامت درست ہے جیسے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقتداء درست ہے، ”الذخیرة“ اور ”خانیة“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 85 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(وقائم بقاعد) یرکع ویسجد، لانه ﷺ صلی آخر صلاته قاعدًا و هم قیام  
و ابوبکر یبلغهم تکبیرہ۔

ترجمہ: ”اور کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے درست

ہے جبکہ وہ رکوع وسجود کرتا ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور صحابہ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر مکتب کے فرائض انجام دے رہے تھے“ (یعنی حضور ﷺ کی تکبیرات انتقالات کو بہ آواز بلند تمام مقتدیوں تک پہنچا رہے تھے)۔

علامہ شامی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

وهذا عندهما خلافاً لمحمد۔ وقيد القاعد بكونه ير كع ويسجد، لأنه لو كان موسماً لم يستجز اتفاقاً۔ والخلاف أيضاً فيما عدا النفل، أما فيه فيجوز اتفاقاً ولو في التراويح في الأصح، كما في “البحر“۔

ترجمہ: ”اور بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کی اقتداء امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے، اس میں امام محمد کا اختلاف ہے، اور بیٹھ کر پڑھانے والے امام کے ساتھ یہ قید لگائی کہ وہ رکوع وسجود کرتا ہو، یہ اس لئے کہ اگر وہ رکوع وسجود کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اشارے سے رکوع وسجود کرتا ہو تو اس کی اقتداء میں نماز بالاتفاق جائز نہیں ہے، امام محمد کا اختلاف صرف فرض اور واجب میں ہے، نفل میں بالاتفاق اقتداء جائز ہے، خواہ تراویح کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، صحیح ترین روایت کے مطابق تراویح کی جماعت بھی بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے بالاتفاق جائز ہے، جیسا کہ علامہ زین الدین ابن نجیم نے ”المحرر الرائق“ میں لکھا ہے“، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 2 ص: 290 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عن جابر قال: صلی بنارسول اللہ ﷺ، و ابوبکر خلفه۔ فاذا کبر رسول اللہ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ لِيَسْمَعَنَا -

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تکبیرات سن کر نماز پڑھ رہے تھے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 904 مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ مکرمہ)۔

عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ ابا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم۔ قال عروة: فوجد رسول الله ﷺ في نفسه خفة، فخرج فاذا ابو بكر يغم الناس، فلما رآه ابو بكر استأخر، فأشار اليه: ان كما انت۔ فجلس رسول الله ﷺ حذاء ابي بكر الى جنبه، فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ، والناس يصلون بصلاة ابي بكر۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اپنے مرض میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لہذا وہ انہیں نمازیں پڑھاتے رہے، عروہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ افاقہ محسوس کیا تو تشریف لائے اور حضرت ابو بکر لوگوں کی امامت کر رہے تھے، جب حضرت ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو، پس رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، پس حضرت ابو بکر تو رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 683 مطبوعہ مکتبۃ العصریہ، بیروت)۔

مندرجہ بالا احادیث وحوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور تراویح کی نماز اگر امام بیٹھ کر پڑھائے، تو اس کی اقتداء میں نماز جائز ہے، بشرطیکہ وہ رکوع وسجود کر سکتا ہو۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال: حدثت ان رسول الله ﷺ قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة" قال: فاتينته فرجده يصلّي جالساً. فوضعت يدي على رأسه فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله ﷺ أنك قلت: "صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة" وأنت تصلي قاعداً قال: "أجل. ولكنني لست كأحد منكم"۔

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آدھا اجر ہوتا ہے، ایک دن میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر اقدس پر رکھا، آپ نے فرمایا: اے عبد اللہ بن عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اجر آدھا ہوتا ہے، حالانکہ آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں! آپ نے فرمایا: ہاں، لیکن میں تم جیسا کب ہوں،" (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1684 مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ، ابو داؤد، رقم الحدیث: 947 مطبوعہ مؤسسۃ الریان، بیروت)۔

جمہور ائمہ کے نزدیک سنن مؤکدہ اور ہر قسم کے نفل قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ

کر پڑھنا جائز ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ پہلے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کرے اور پھر کھڑا ہو جائے یا پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کرے اور پھر بیٹھ جائے۔ البتہ صبح کی دو رکعت سنت مؤکدہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، اس کو قیام پر قدرت کے باوصف بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا اور عذر کی وجہ سے سنن اور نوافل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور اگر قیام پر قدرت کے باوجود سنن اور نوافل بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ہوگا، رسول اللہ ﷺ نے جو بیٹھ کر نفل پڑھے تھے یہ آپ کی خصوصیت تھی، علامہ نووی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ آپ قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھیں، تو آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بعض لوگ اس پر قیاس کر کے عشاء کی نماز میں وتر کے بعد عمداً بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں اگرچہ یہ عمل جائز ہے، لیکن اس میں نصف ثواب ہے، تاہم فرائض میں اگر قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے گا، تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرائض میں قیام فرض ہے، (شرح صحیح مسلم، جلد دوم، صفحہ: 452، مطبوعہ فریڈ بک اسٹال، لاہور)۔

[WWW.NAFSEISLAM.COM](http://WWW.NAFSEISLAM.COM)

## ﴿کتاب الجنائز﴾

امامت نماز جنازہ کا سب سے زیادہ حق دار کون؟

سوال: 30

نماز جنازہ کی امامت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟، امام محلہ یا میت کا ولی اقرب، اگر میت نے کسی کے بارے میں وصیت کی کہ یہ میری نماز جنازہ پڑھائے تو اس کی رعایت جائز ہے یا فقہی ترتیب اولویت کو ملحوظ رکھا جائے گا، فقہ حنفی کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں۔ (عبداللہ، والتھم اسٹوڈنٹس، انگلینڈ)۔

جواب:

علامہ علاء الدین حصکھی اپنے فتاویٰ الدر المختار میں لکھتے ہیں:

(وبقدم فی الصلاة عملیہ السلطان) ان حضر (أونائبه) وهو امیر المصر (ثم القاضی) ثم صاحب الشرط ثم خلیفۃ القاضی (ثم امام الحی) فیہ ایہام، وذلك أن تقدیم الولاة واجب وتقدیم امام الحی مندوب، فقط۔

”اگر خلیفہ وقت موجود ہے تو نماز جنازہ کی امامت کیلئے اسے مقدم کیا جائے گا اس کے نائب کو یعنی اس شہر کا امیر، پھر قاضی کو، پھر امیر لشکر کو، پھر قاضی کا نائب، پھر امام الحی (یعنی اس بستی یا محلے کے امام) کو، اس میں ایہام ہے، اور یہ اس لئے کہ میت کے اولیاء کی تقدیم واجب ہے، اور امام الحی کی تقدیم (یعنی امام بنانا بشرطیکہ وہ ولی سے افضل ہو مستحب ہے“، (جلد: 3، صفحہ: 112) اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

وہو امام المسجد الخاص بالمحلة، وانما كان اولی، لأن المیت رضی  
 بالمصلاة خلافه فی حال حیاته، فینبغی ان یصلی علیه بعد وفاته، قال فی  
 ”شرح المنیة“: فعلیٰ هذا لو علم انه كان غیر راض به حال حیاته ینبغی أن  
 لا یتحجب تقدیمه۔ قلت: هنا مسلم ان كان عدم رضاه به لوجه صحیح  
 ، والا فلا۔ تأمل۔

”امام الحلی“ سے مراد ان لوگوں کا امام ہے، اور وہ خاص طور پر اس محلے کی مسجد کا امام  
 ہے، اور اس کو امامت کیلئے ”اولی“ قرار دینے کا سبب یہ ہے کہ وہ متوفی اپنی زندگی میں  
 اس کے پیچھے نماز پڑھنے پر راضی تھا، تو مناسب یہی ہے کہ وہی اس کی نماز جنازہ  
 پڑھائے، ”شرح المنیہ“ میں کہا: اس اصول کی بنا پر اگر معلوم ہو کہ اپنی زندگی میں وہ  
 اس سے راضی نہیں تھا، تو اس کو امامت کیلئے آگے کرنا مستحب نہیں رہے گا، میں (ابن  
 عابدین شامی) کہتا ہوں کہ یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جائے گی، جب (یہ معلوم  
 ہو کہ) حین حیات میں ”امام الحلی“ سے متوفی کی ناراضگی کا سبب کسی جائز (شرعی) وجہ  
 کی بنا پر ہو، ورنہ نہیں (یعنی پھر امام الحلی ہی امامت جنازہ کا زیادہ حق دار ہے)، اس  
 مسئلے (کی حکمت مستورہ) پر غور کرو، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 3، صفحہ: 112،  
 دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

فتاویٰ عالمگیری جلد: 1، ص: 163 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ میں ہے:

ذکر الحسن عن أبی حنیفة رحمه الله تعالى أن الامام الاعظم وهو الخليفة  
 اولی ان حضر، فان لم یحضر فامام المصر، فان لم یحضر فالقاضي، فان لم

یحضر فصاحب الشرط بفان لم یحضر فامام الحی، فان لم یحضر  
 فالاقرب من ذوی قرابته وبهذه الروایة اخذ كثير من مشائخنا رحمهم الله  
 كذا فی "الكفاية" و"النهاية" و"معراج الدراية" و"العناية"۔

ترجمہ: "حسن نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا کہ (امامت جنازہ کا  
 سب سے زیادہ حق دار) بالترتیب خلیفہ ہے اگر وہ موجود ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو امام  
 شہر، اگر وہ بھی نہ ہو تو قاضی، اگر وہ بھی نہ ہو تو صاحب الشرط اور اگر وہ بھی نہ ہو تو "امام  
 الحی" اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ولی اقرب، ہمارے (احناف کے) اکثر مشائخ نے اسی  
 روایت سے (استحقاقِ امامتِ جنازہ کا) یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، "کفایہ"، "نہایہ"،  
 "معراج الدراية" اور "عناية" میں اسی طرح ہے۔"

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے دریافت کیا گیا:

"کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ میت اگر چہ بالغ ہو یا نابالغ  
 ہو اس کے جنازے میں ولی داخل نہیں ہو تو اس کا جنازہ ہوایا نہیں؟"  
 آپ نے جواب دیا:

"نماز ہوگئی مگر جو نماز جنازہ بے اجازت ولی پڑھی جائے ولی کو اختیار ہے کہ دوبارہ  
 پڑھے۔ مگر جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہ بھی اس صورت میں  
 ہے کہ پہلی نماز کسی ایسے نے پڑھی، جس پر ولی کو ترجیح تھی، ورنہ اگر مثلاً بادشاہ اسلام یا  
 قاضی شرع یا امام حی نے نماز پڑھا دی تو ولی کو اعادہ کا اختیار نہیں کہ وہ اس بات میں  
 ولی سے مقدم ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد: 9، صفحہ: 183 - 182 مطبوعہ رضا



صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی مصنف ”بہار شریعت“ قدس سرہ العزیز  
 استحقاق امامت جنازہ سے متعلق اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:  
 ”مگر جب کہ نماز جنازہ کے وقت امام جمعہ حاضر ہو، تو ولی یا امام الحی سے زیادہ  
 حق اسی امام جمعہ کا ہے اور ایسے وقت کہ ولی سے افضل و احق موجود ہے تو ولی کو  
 یہ نہ چاہئے کہ دوسرے سے پڑھوائے یا خود پڑھا دے، بلکہ وہی امام جمعہ  
 پڑھائے۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: امام جمعہ کو ولی سے اجازت لینے کی  
 کوئی ضرورت نہیں، ضرورت جب ہوتی کہ یہ خود صلاح حق نہ ہوتا اور  
 اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ امام جمعہ ولی پر مقدم ہے اور امام جمعہ پڑھا دے گا تو ولی  
 نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا۔“

ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص حالت زندگی میں امام موصوف پر ناراض  
 ہو اور بعد وفات کسی اور شخص سے نماز پڑھوانے کی وصیت کرے تو وصیت جاری  
 ہوگی یا نہیں؟، اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں:

”امام سے ناراض ہونا اگر کسی ایسی خرابی کے باعث تھا، جو امام میں تھی، تو امام کو  
 ولی پر ترجیح نہیں کہ امام کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے اپنی زندگی  
 میں اسے امام بنایا اور اس پر راضی رہا تو بعد موت، نماز جنازہ کا بھی وہی امام  
 ہوگا۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں:

اور اگر امام پر ناراضگی بلا وجہ شرعی ہو اس ناراضگی کا کچھ اثر نہیں۔

ردالمحتار میں عبارت ”تعینہ“ کے بعد فرمایا:

قلت: هذا مسلم ان كان عدم رضاه به لوجه صحيح، والا فلا۔

نماز جنازہ کی وصیت باطل ہے، یعنی صاحب حق کے سوا دوسرے کو نماز پڑھانے کی وصیت کر گیا تو اس وصیت سے حق دار کا حق نہ جائیگا، درمختار میں ہے:

والفتویٰ علیٰ بطلان الرصیة بغسلہ و الصلوٰة علیہ۔

ترجمہ: یعنی فتویٰ اسی پر ہے کہ میت کو غسل دینے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں اس کی وصیت باطل ہے، (فتاویٰ امجدیہ، جلد: 1، ص: 309 مکتبہ رضویہ، کراچی)۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: عزاء فی الہندیۃ الی المضمورات ای لو اوصی بسان یصلی علیہ غیر من له حق التقدم او بان یغسلہ فلان لایلزم تنفیذ و صیۃ ولا یبطل حق الولیٰ بنالک۔

ترجمہ: ”اسے فتاویٰ ”ہندیہ“ میں مضمورات کی طرف منسوب کیا، یعنی اگر کسی شخص نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی بابت کسی ایسے شخص کے امام بنانے کی وصیت کی، جسے شرعاً ”تقدم فی الامامت“ کا حق حاصل نہیں ہے یا یہ وصیت کی کہ اسے فلاں شخص غسل دے تو وصیت کا نفاذ کرنا لازم نہیں ہے اور اس (وصیت) کی بناء پر اس سلسلے میں ولی کا حق باطل نہیں ہوگا، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 115 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

اور ظاہر ہے کہ جب وصیت کی بناء پر ولی کا حق باطل نہیں ہوگا تو اسی طرح اور افراد،

جنہیں ”تقدم فی الامامت“ کا شرعی حق حاصل ہے، (جیسے امام محلہ) وہ بھی باطل نہیں ہوگا، بلکہ قائم و ثابت رہے گا اور اس ضمن میں وصیت غیر مؤثر ہو جائے گی، (جلد: 3، ص: 115 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

جنازہ اٹھاتے اور لے جاتے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا

### سوال: 31

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جنازہ کو اٹھاتے اور لے جاتے وقت کلمہ شہادت کو با آواز بلند پڑھنا کیسا ہے؟، برائے مہربانی تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں، (کلیم اللہ ضلع سدھنوتی، آزاد کشمیر)۔

### جواب:

اس مسئلے کے بارے میں ہمارا حتمی، مختار اور دو ٹوک جواب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں نماز جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ، قراءت، درود و اذکار اور تسبیحات کا بلند آواز سے پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں مستحسن ہے، دلائل کی تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ لیکن چونکہ اس مسئلے میں فقہاء کرام اور اسلاف صالحین کی دو آراء ہیں، اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے دونوں آراء اور ان کے دلائل ذکر کر دیئے جائیں تاکہ بحث ناصحانہ اور مصلحانہ انداز میں ہو، محض مناظرہ بازی، حجت بازی اور فریق مخالف پر برتری حاصل کرنے کا شوق انا پرستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر ہر فریق کا موقف، ان کے اپنے الفاظ میں دیا ننداری سے بیان کر دیا جائے تو خالی الذہن اور قبول حق پر آمادہ قاری کو مثبت

نتیجے تک پہنچنے اور محاکمہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اس مسئلے کے بارے میں سب سے پہلے فقہاء کرام کے اقوال پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی علت و حکمت پر بحث ہوگی اور پھر حرفِ آخر کے طور پر نفسِ مسئلہ پر بحث ہوگی۔  
 علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

اور کب اما مها (کرہ) کما کرہ فیہا رفع صوتٍ بذکر او قرائۃ "فتح"۔  
 ترجمہ: "جنازہ کے آگے سوار ہو کر چلنا مکروہ ہے، جیسے جنازے کے ساتھ (چلتے ہوئے) بلند آواز سے ذکر یا قراءت مکروہ ہے، بحوالہ "فتح القدر"۔"  
 اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(قولہ کما کرہ) قیل تحريمًا ، وقيل تنزيها كما في "البحر" عن "الغاية" ، وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أن يُطيل الصَّمتَ ، وفيه عن "الظهيرية" فان اراد ان يذكر الله تعالى يذكره في نفسه ، لقوله تعالى "انه لا يسحب المعتدين (الاعراف: 55)" اي المجاهرين بالدعاء، وعن ابراهيم انه كان يكره ان يقول الرجل وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم بقلت واذا كان هنا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان؟

ترجمہ: "جیسا کہ (جنازہ کے ساتھ) بلند آواز سے ذکر و قراءت مکروہ ہے {ایک قول یہ ہے کہ یہ کراہت تحریمی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ تنزیہی ہے، جیسا کہ "البحر الرائق" میں "الغایۃ" کے حوالے سے مذکور ہے اور اسی میں مزید یہ بھی ہے کہ: "جو شخص

جنازے کے ساتھ چلے، اسے طویل خاموشی اختیار کرنی چاہئے اور اسی میں ”الظہیر یہ“ کے حوالے سے ہے: اگر وہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو دل میں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں (یعنی بلند آواز سے دعا کرنے والوں) کو پسند نہیں فرماتا، (الاعراف: 55)۔ اور ابراہیم سے روایت ہے کہ: ”وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کہے: اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اس میت کے لئے مغفرت کی دعا کرو“، میں (علامہ شامی) کہتا ہوں: جب (جنازہ کے ساتھ) بلند آواز سے دعا اور ذکر مکروہ ہے، تو اس دور میں جو گانے اور نغمے پڑھنے کا رواج ہے، اندازہ لگاؤ، اس کی ممانعت کس درجے کی ہوگی؟، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 3 ص: 128، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

اس مقام پر حاشیہ میں لکھا ہے: امام نووی ”الاذکار“ مع ”الفتوحات الربانیہ“ (183/4) میں بیان کرتے ہیں:

ترجمہ: ”جان لو کہ یہ بات مختار اور درست ہے اور اسی پر سلف ﷺ عمل پیرا رہے کہ: جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموش رہنا چاہئے، نہ تو ذکر و قراءت اور نہ ہی کسی اور مقصد کیلئے آواز بلند کرے، اور اس کی حکمتیں (بالکل) ظاہر ہیں، وہ یہ کہ یہ (سکوت) قرار دل کا باعث ہے، اس کے سبب ذہن جنازے سے متعلق امور کی جانب مکمل طور پر متوجہ رہتا ہے اور اس موقع پر یہی چیز مطلوب بھی ہے، یہی بات حق ہے اور مخالفین کی کثرت سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، ابوعلیٰ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے کہا ہے جس کا

مفہوم یہ ہے: راہ ہدایت کو لازم پکڑو، راہ ہدایت پر چلنے والوں کی قلت تمہارے لئے ضرر رساں نہیں ہے اور گمراہی کی راہوں سے بچتے رہو اور ہلاکت کی راہوں پر چلنے والوں کی کثرت تمہارے لئے نقصان دہ نہیں ہے، پھر ”ابن عباد“ کے اس قول کی طرف انہوں نے اشارہ کیا: یہ جو جاہل قراء دمشق وغیرہ نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ گا، گا کر قراءت کرتے ہیں اور کلام کو اپنے موضوع سے خارج کر دیتے ہیں تو یہ بالاجماع حرام ہے۔“

امام احمد رضا قادری نے اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی ہے، ملاحظہ ہو: ”فتاویٰ رضویہ جلد نہم صفحات 139 تا 158 رضا فاؤنڈیشن، لاہور۔“

ہم یہاں اس بحث کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے اہم پہلوؤں کی نشاندہی کر رہے ہیں:

(1) وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ طویل خاموشی اختیار کئے رکھنا، فی نفسہ نہ مقصود ہے نہ شریعت کا مطلوب، نہ ہی یہ حکمت شرعیہ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”اس میں حکمت یہ تھی کہ صمت (سکوت) فی نفسہ کوئی شے مطلوب نہیں، کہ قول خیر، ”عدم قول مطلق“ سے قطعاً افضل ہے، لہذا ارشاد ہوا:

”ان لا یزال لسانک رطباً من ذکر اللہ۔“

ترجمہ: ”تمہاری زبان ذکر الہی سے مسلسل سرشار رہنی چاہئے، (ترمذی: ابواب الدعوات، امین کمپنی، 173/2)۔ اگلے شرائع نے اسے (یعنی محض گفتگو نہ کرنے کو) صوم میں رکھا تھا، ہماری شریعتِ غراء (روشن شریعت) نے اسے

منسوخ کر دیا، مجوس کے یہاں وقتِ اکل، صمت (یعنی کھانے کے وقت خاموشی) ہے، ہماری شریعت میں مکروہ، لازم الاحتراز ہے۔

اس ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ اگر جنازے کے ساتھ مکمل خاموشی کے ساتھ چلنے کی بابت فقہاء کرام کی عبارات سے کسی نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ”سکوتِ محض“ بجائے خود عبادت ہے، تو یہ سوچ باطل ہے، اسلام میں بلاشبہ فحش کلامی کے مقابل خاموشی کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن محض خاموشی کوئی مستحسن اور قابلِ مدح و ستائش چیز نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کا آئیڈیل یا مطلوبِ کامل ہے۔

(2) اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ”سکوتِ محض“ کسی بھی درجے میں مطلوبِ شریعت نہیں ہے، تو ہمارے فقہاء کرام نے جنازے کے ساتھ خاموش رہ کر چلنے پر اتنا زور کیوں دیا اور بلند آواز سے ذکر و قراءت کو مکروہ (خواہ تنزیہی ہی سہی) کیوں قرار دیا؟ تو امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں:

”یہاں بھی اس کا منشا عوارض ہی ہیں، قلب ہمراہیان کا مُشَوِّش ہونا، یا دموت سے دوسری طرف توجہ کرنا، انصاف کیجئے تو یہ حکم اس زمانِ خیر کے لئے تھا، جب ہمراہیانِ جنازہ تصورِ موت میں ایسے غرق ہوتے تھے کہ گویا میت ان میں سے ہر ایک کا اپنا جگر پا رہے، بلکہ گویا خود ہی میت ہیں، ہمیں کو جنازہ پر لئے جاتے ہیں اور اب قبر میں رکھیں گے، لہذا علماء نے سکوتِ محض کو پسند کیا تھا کہ کلام اگر چہ ذکر ہی ہو، اگر چہ آہستہ ہو، اس تصور سے (کہ بغایت نافع اور مفید اور برسوں کے زنگِ دل سے دھو دینے والا ہے) روکے یا کم از کم دل بٹ تو جائے

گا، تو اس وقت محض خاموشی ہی مناسب تر ہے، ورنہ حاشا للہ! ذکر خدا اور رسول کسی وقت منع نہیں ہے، ام لمؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

”کان رسول اللہ ﷺ يذكر الله تعالى على كل احيانه“۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، (صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)۔

امام احمد رضا قادری کی اس تشریح کا ما حاصل یہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے جنازے کے ساتھ چلنے میں سکوت کو اس لئے ترجیح دی تھی کہ موت اور قبر کے تصور میں لوگوں کے دل ڈوبے رہیں، کسی کی بلند آواز سے کہیں ان کی توجہ بٹ نہ جائے، موت، قبر اور آخرت کی جو ابد ہی کا تصور اس قدر غالب ہو کہ وہ محسوس کریں کہ ان کا اپنا جنازہ جا رہا ہے اور قبر انہی کے لئے تیار کی گئی ہے، اس مفہوم کو انہوں نے شیخ شعرانی قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب ”العہود الحمدیہ“ کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ اسلاف صالحین جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلام بالکل نہیں کرتے تھے، سوائے اس کے جو حدیث میں وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ اجنبی شخص ان سب کو حجون و ملال میں ڈوبا ہوا دیکھ کر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ ان میں میت کا سب سے زیادہ قریبی عزیز کون ہے؟۔

(3) اس کے بعد امام احمد رضا قادری بیان کرتے ہیں کہ اب موجودہ دور میں جنازہ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی وہ کیفیت ہرگز نہیں ہے، نہ یا موت کا غلبہ، نہ احوال برزخ و قبر کا خوف اور نہ آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، جیسے آج کل لوگ



جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے گیمیں لگاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالاتِ حاضرہ اور سیاست دوراں پر تبصرے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اب زمانہ منقلب ہوا، لوگ جنازہ کے ساتھ اور دفن کے وقت اور قبروں پر بیٹھ کر لغویات و فضولیات اور دنیوی تذکروں بلکہ خندہ واہو میں مشغول ہوتے ہیں، تو انہیں ذکر خدا جل و علا و رسول ﷺ کی طرف مشغول کرنا عینِ صواب و کارِ ثواب ہے۔“

اسی بات کو علامہ شعرانی اپنی کتاب ”العہود المحمدیہ“ میں لکھتے ہیں:

محلے یا ہستی کے عالم کو چاہئے کہ جنازے کے ساتھ جانے والوں کو تعلیم دیں کہ وہ اس دوران لغو باتوں اور ایسی باتوں کے ذکر سے اجتناب کریں کہ فلاں شخص حاکم بنا، فلاں اقتدار سے معزول ہوا، فلاں بڑا تاجر سفر پر گیا یا واپس آیا وغیرہ۔ یعنی اب خواہ لوگوں کو جہری ذکر سے روک بھی دیا جائے تو حالتِ سکوت میں بھی، کیفیتِ عبرت اور یادِ موت و برزخ و آخرت تو بالکل مفقود ہے، بلکہ لغویات و فضولیات میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جس۔۔ مطلوبِ خیر کو پانے کیلئے فقہاء کرام نے جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنے پر زور دیا تھا، یہاں تک کہ بلند آواز سے ذکر و قراءت تک کو مکروہ قرار دیا تھا، وہ مراد و مطلوب حاصل نہ ہو سکا۔ لہذا اب بلند آواز سے ذکر کی اجازت دے دینی چاہئے کہ اس سے مطلوب کامل اگر حاصل نہ بھی ہو سکا، تو کچھ نہ کچھ خیر تو حصے میں ضرور آئے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”بالجملہ بجائے صمت (خاموشی) اقامتِ جہر بالذکر (بلند آواز سے ذکر کرنا)، تحصیل مقصود کے لئے تبدیلِ ذریعہ، بمصلحتِ حالیہ نہ کہ تفویضت مقصود (مقصود کو فوت کرنا)، جاہل وہ جو خاموشی کو مقصودِ واصل جانے، مطلوب ذکر ہے، جب خاموشی میں، اور اب جہر بالذکر میں“۔

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”تو یہاں یہ کہ ذکر اعظم مطلوبات سے تھا اور منع ایک وجہ بعید کیلئے کہ ذریعہ مقصود میں مخل نہ ہو اور وہ ذریعہ ہی نہ رہا، بلکہ منعکس ہو گیا، تو وہ منع اگرچہ تنزیہی ہو، اس کا باقی رہنا فقہت سے کس قدر دور بلکہ عقل سے مجبور ہے“۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنے اور ذکر بالجہر سے اجتناب کی شرعی مصلحت، یعنی قلب پر موت اور مابعد الموت کے احوال کا طاری ہونا، اب حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، لہذا اب ذکر بالجہر دور حاضر میں جائز ہے کہ کم از کم دوسروں کے متوجہ کرنے پر لوگ غفلت کی کیفیت سے نکل آئیں گے اور سڑی یا جہری ذکر میں مشغول ہو جائیں گے اور بر سبیلِ تنزل لغویات سے بچ جائیں گے۔

چنانچہ امام احمد رضا لکھتے ہیں:

”اطباء نے جہر بالذکر کی اجازت دی کہ وہ اَوْقَع فِی النَفْسِ (دلوں میں بہت زیادہ اثر کرنے والا) وَاذْفَع لِحَسْرَتِہِمْ (وسوسوں کو دور کرنے والا)، وَاَنْفَع لِلنَّاسِ (لوگوں کیلئے بہت زیادہ نفع بخش) ہے، ذاکرین

کی زبانوں اور سامعین کے کانوں کو مشغول کرتا اور غافلین کو جگا کر لغویات سے باز رکھ کر، ذکر و سماع کی طرف لاتا ہے اور یہ سمجھ لینا کہ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ باوجود قرع و قوت قرع و تکرر (یعنی بار بار جھنجھوڑنے اور متوجہ کرنے پر) بھی متاثر نہ ہوں گے، جہل و سوء ظن (بدگمانی) ہے، تو اب ذکر جہر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے افراد سے ہے، جس سے منع عکس و نقیض مقصود شرع (یعنی مقاصد شرع کے منافی) ہے۔“

پھر آپ علامہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ کا موقف ان کی کتاب ”العہود المحمدیہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”سیدی علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جنازہ میں لغویات سے باز نہیں آئیں گے اور دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں گے، تو پھر انہیں حکم دینا چاہئے کہ وہ (کلمہ مبارکہ) ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھیں کہ اسے پڑھنا، اس کے ترک سے افضل ہے اور کسی فقیہ کو بغیر اصل (قرآن و حدیث) یا اجماع (کی دلیل) اس سے منع نہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ مسلمانوں کو شارع کی جانب سے ”لا الہ الا اللہ“ محمد رسول اللہ“ پڑھنے کا اذن عام ہے، الہی اس دل کے اندھے پن سے تعجب ہے جو اس طریقے کے عمل سے روکتا ہے“ (فتاویٰ رضویہ، جلد: 9، ص: 152 مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

اسی طرح آپ نے آیات قرآنی کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ کثرت ذکر الہی

قرآن کا مطلوب ہے، چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

”اللہ عزوجل کا ذکر اصل مقصود و اجہل مقاصد و مغز جملہ عبادات ہے:

(1) اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

ترجمہ: ”میرے ذکر کیلئے نماز پڑھو“، (طہ: 14)۔

(2) يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔

ترجمہ: ”وہ کھڑے، بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے (ہر حال میں) اللہ کا ذکر

کرتے ہیں، (آل عمران: 191)۔ بلا کسی قید کے کثرتِ ذکر کا حکم فرمایا:

(3) وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: ”کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تا کہ تم فلاح پاؤ“، (الجمعة: 10)۔

حدیث پاک میں فرمایا:

اکثر واذکر اللہ حتی یقولوا انه محنون۔ ترجمہ: ”اللہ کا اس کثرت سے ذکر کرو

کہ (لوگ) کہیں یہ تو (اللہ کا) دیوانہ ہے“، (مسند احمد: 3/86، 71)۔

امام احمد رضا لکھتے ہیں: ذکر کیلئے اَنْحَاء (اقسام) کثیرہ ہیں: قلبی، لسانی، نھی، جلی،

تلاوت، ثناء، درود، دعا، عبادات، وطاعات، باوصفِ اطلاق (یعنی مطلقاً حکمِ ذکر

سے) بعض اَنْحَاء سے خصوصیت ہوتی ہے، محلِ جنازہ مقامِ تفکر ہے کہ ذکر قلبی

ہے، تفکر ساعة خیر من عبادة الثقلین۔

ترجمہ: ایک لمحے کا تفکر انسانوں اور جنوں کی عبادت سے بہتر ہے (اور ایک روایت

میں ہے ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے)۔ ولہذا فقہاء نے ذکرِ خفی کو ذکرِ لسانی پر

ترجیح دی، ورنہ ذکر پر تفصیل محال ہوتی، ولذکر اللہ اکبر، اس نحو (قسم) کے ذکر کیلئے خاموشی بہتر ہوتی ہے، ولہذا فقہاء نے ”ینبغی ان یطیل الصمت“ (یعنی طویل خاموشی اختیار کرنی چاہئے) فرمایا، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 9، ص: 152 مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

امام احمد رضا قادری امام عبدالوہاب شعرانی کی کتاب ”مہود المشائخ“ اور ”حدیقہ مبارکہ“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”ہم اپنے دوستوں کو کسی ایسی چیز سے روکنے کی اجازت نہ دیں گے، جو مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں تقرب کیلئے ایجاد کی ہو اور اسے اچھا جانتے ہوں، جیسا کہ بارہا اس کی تقریر اسی کتاب ہو دیں گزر چکی ہے، خصوصاً وہ چیز جس کا تعلق اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہو، جیسے لوگوں کا جنازے کے آگے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنا یا کسی کا اس کے آگے قرآن پڑھنا اور اس طرح کے کلمات (خیر)، اسے جو حرام کہے وہ شریعت کی فہم سے قاصر ہے، اس لئے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں موجود نہ تھی، (ضروری نہیں کہ) ہماری ہو، امام نووی نے تو اسے ترجیح دی کہ کلام صرف خلاف اولیٰ میں ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 9، ص: 154، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

اس بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے عہد حاضر میں جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت اختیار کرنے کا جو حکم فقہاء نے دیا تھا اور بلند آواز سے ذکر و تلاوت و درود کو مکروہ قرار دیا تھا، اب اس کی حکمت اور علّت غائی منقوہ ہو گئی ہے، بلکہ اس کا اثر الٹا

پڑ رہا ہے کہ لوگ گپ شپ اور لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کی کراہت، ان وجوہ و دلائل کی بنا پر اٹھ گئی ہے، پس اب جنازہ کے ساتھ اونچی آواز سے کلمہ شہادت بکلمہ طیبہ، قراءت قرآن یا درود و اذکار یا کلمات حمد و نعت پڑھنے کی اباحت و جواز کا قول کرنا چاہئے، اور اگر اس سے غافل قلوب ذکر اور یاد موت و برزخ و آخرت کی جانب مبذول ہو جائیں، تو پھر اسے مستحسن سمجھنا چاہئے۔

لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ فقہاء نے جو (برسبیل تنزل) کراہت تنزیہی کا قول کیا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا، تو امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں: خادم فقہ جانتا ہے، تحصیل مقصود کیلئے بعض مکروہات سے کراہت زائل ہو جاتی ہے، جیسے نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے اور اگر (کسی کو) خشوع یونہی حاصل ہوتا ہے، تو آنکھیں بند کرنا ہی اولیٰ ہے۔

کما فی الدر المختار کرہ۔۔۔۔ (و تغمیض عینیہ) لیلئہ الالکمال  
 الخشوع وفی ردالمحتار بان خاف فوات الخشوع بسبب رویة ما یفرق  
 الخماطر فلا یکرہ قال بعض العلماء وانه الاولیٰ و لیس ببعید "حلیة"  
 و "بحر"، اقول ولعل التحقیق ان بخشیة فوات الخشوع تزول الکراہة  
 وبتحققہ یحصل الاستحباب۔

ترجمہ: "جیسا کہ درمختار میں ہے: نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن اگر کمال خشوع کیلئے ہو، تو مکروہ نہیں، ردالمختار میں ہے: اس

طرح کہ طبیعت کو منتشر کرنے والی چیزیں دیکھنے کے سبب خشوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو مکروہ نہیں، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اولیٰ ہے اور یہ کوئی بعید بات نہیں، (بحوالہ) ”حلیہ“ و ”بحر“، میں کہتا ہوں شاید تحقیق یہ ہے کہ خشوع فوت ہونے کے اندیشے سے کراہت زائل ہو جاتی ہے اور آنکھ بند کر لینے پر خشوع متحقق ہو جانے سے استحباب حاصل ہو جاتا ہے، (فتاویٰ، رضویہ، جلد: 9، ص: 156، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔“

اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ لفظاً نیتِ نماز کو بدعت کہا گیا تھا، کیونکہ اصل میں نیتِ دل کے ارادے (اور حضورِ قلب) کا نام ہے اور سنت سے لفظی نیتِ نماز ثابت بھی نہیں ہے، لیکن متاخرین فقہاء کرام نے جب دیکھا کہ لوگوں میں اب وہ یکسوئی اور حضورِ قلب باقی نہیں رہی تو لفظاً نیتِ نماز کو مستحب قرار دیا، بالکل یہی صورتِ حال جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے جبری ذکر کی ہے۔

ماں کے انتقال کے بعد بچے کی نگہداشت وتر بیت کا اولین حق  
کس کو حاصل ہے؟

سوال: 32

عظمیٰ شیخ عامر کا ایک سال قبل ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے، اس کے دو بیٹے عزیز الحق اور عباد الحق کی عمر بالترتیب ڈھائی سال اور ساڑھے چار سال ہے۔ بچوں کے والد محمد عامر، انہیں اپنی تربیت و تحویل میں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ عظمیٰ شیخ

عامر (مرحومہ) کی والدہ صاحبہ یعنی بچوں کی نانی صاحبہ دونوں بچوں پر حق ملکیت بتاتی ہیں اور سٹی کورٹ میں بچوں کے حصول کیلئے مقدمہ قائم کیا ہوا ہے، لہذا الزام کرم ان بچوں کے حق نگہداشت کا شرعی حکم بیان فرمائیں، عین نوازش ہوگی، (شیخ عامر، کراچی)۔

### جواب:

انسان اللہ تعالیٰ کی آزاد مخلوق ہے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو حق ملکیت جتانے یا اس کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، البتہ شریعت کی رو سے بچے کی نگہداشت و تربیت کا حق ہے، جسے ”حق حضانت“ کہتے ہیں، اور اس کی ترتیب یہ ہے، اس میں اولین حق بچے کی نسبی ماں کا ہے، اس کے بعد نانی کا ہے۔  
چنانچہ علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(ثم ای بعد الام بان ماتت اولم تقبل او اسقطت حقها او تزوجت باجنبی (ام الام)۔

ترجمہ: ”اگر ماں کا انتقال ہو جائے یا وہ اس ذمہ داری کو قبول نہ کرے یا وہ خود ہی (اپنی رضامندی سے) اپنے حق سے دست بردار ہو جائے، یا اس نے کسی اجنبی شخص سے شادی کر لی ہو تو پھر ماں کے بعد یہ حق بچے کی نانی کا ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 5، ص: 212، 211 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

پس قانون شریعت کی رو سے ماں کے انتقال کے بعد نابالغ بچوں کی پرورش کا حق نانی کو حاصل ہے، اگر نانی نواسوں کی تربیت قبول کرتی ہے تو اسے



دوسروں پر ترجیح دینی چاہئے۔ لہذا اگر نانی کے ہاں بچوں کی پرورش کی صورت میں کسی دینی یا دنیاوی ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو نانی کے شرعی حق تقدم کا خیال رکھتے ہوئے، بچوں کو ان کی پرورش میں دے دینا چاہئے، البتہ یہ حق سات سال تک ہے اس کے بعد والد بچے کو لے سکتا ہے۔ ہذا ما عندی والحق عند ربی۔

نماز جنازہ کی شرعی حیثیت

### سوال: 33

نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید میں ہے، یا نہیں، اگر ہے؟ تو کس مقام پر اور کونسی آیت میں ہے، اور یہ حکم کب نازل ہوا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں، (قاری محمد زمان چشتی، امام و خطیب جامع مسجد مصطفیٰ بلاک 14 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ط إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُورٌ O

ترجمہ: ”اور جو ان (منافقین) میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں اور نہ (کبھی) اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ کفر کیا اور یہاں فرمائی کی حالت میں مرے،“ (التوبہ:

اس آیت سے دلالت النص کے طور پر مومن کی میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، چنانچہ علامہ قرطبی اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں لکھتے ہیں:

یہ آیت کفار پر نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت میں نص ہے، لیکن اس میں مومنوں پر نماز جنازہ پڑھنے کے وجوب کی براہ راست دلیل نہیں ہے، اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے مومنوں پر نماز جنازہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اس مسئلے میں دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق اس سے نماز جنازہ کے وجوب پر استدلال کیا جاسکتا ہے، کیونکہ قرآن نے کافروں کی نماز جنازہ سے ممانعت کی علت ان کے کفر کو بتایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: ”بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر کیا“، تو جب (وجہ ممانعت یعنی) کفر زائل ہو جائے تو نماز جنازہ واجب ہو جائے گی، اس کی دوسری مثال قرآن میں یوں ہے کہ:

كَأَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ O

ترجمہ: ”حق یہ ہے کہ بے شک وہ کفار اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے“، (المطففين: 15)۔

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ غیر کفار یعنی مومن روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوں گے۔ جو لوگ آیات الاحکام میں مفہوم مخالف یعنی دلیل خطاب کے قائل ہیں، وہ اس آیت سے نماز جنازہ کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں، اس طرح

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ طَائِفًا مِّنْ صَلَوتِكَ سَكَنَ لَهُمْ طُورًا وَأَنْتَ أَهْلٌ بِالنَّبِیِّیْنَ (سورہ بقرہ: 255) کیلئے دعا فرمائیں، بے شک آپ کی دعا ان کیلئے (باعث) تسکین ہے، (التوبہ: 103)۔

علامہ قرطبی اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے منجملہ دیگر معانی کے ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں: ”وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَی الْجَنَائِزِ“ یعنی آیت میں صلوة کا ایک معنی میت کی نماز جنازہ پڑھنا ہے۔

احادیث صحیحہ مشہورہ، تعامل رسول، تعامل صحابہ، تعامل امت اور اجماع امت سے نماز جنازہ کا وجوب ثابت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام و صحابیات کا جنازہ پڑھنے اور فضائل جنازہ میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں صیغہ امر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

ان احوالکم قدمات فقوموا فصلوا علیہ۔

ترجمہ: ”بے شک تمہارے ایک (دینی) بھائی (اصحہ نجاشی) کا انتقال ہو گیا، پس کھڑے ہو جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو“۔

فقہی اعتبار سے میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور اس کا انکار کفر ہے،

کیونکہ ”اجماع امت“ مسلمہ طور پر اصول شرعیہ اور دلائل قطعیہ میں سے ہے

اور ”نماز جنازہ“ کی فرضیت پر تو بلا استثناء خیر القرون (یعنی وہ دور جس کے خیر

ہونے کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے دی) اور سلف سے لے کر خلف تک

سب کا اجماع قطعی ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکھی لکھتے ہیں:

(والصلوة عليه) صفتها (فرض كفاية) بالا جماع فيكفر منكرها لانه انكر الاجماع۔

اور میت پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ اجماع امت سے ثابت ہے تو جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، اس کی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ اس نے اجماع کا انکار کیا۔ ”بالاجماع“ کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں کہ بعض عبارات میں جو نماز جنازہ کے واجب ہونے کا ذکر ہے، وہاں واجب، فرض کے معنی میں ہے، (فتاویٰ شامی ج 3 ص 97)۔

ایک اور حدیث میں بھی صیغہ امر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”صلوا علیٰ کل برّ وفاجر“۔

ترجمہ: ہر نیکو کا اور گنہگار کی نماز جنازہ پڑھو، (سنن دارقطنی ج 2 ص 57 رقم الحدیث: 10)۔

میت کی باقیات کو نکلوا کر دوسری زمین میں منتقل کرنے کا حکم

### سوال: 34

عرض ہے کہ میرے والد کا انتقال 14 مارچ 2001ء کو ہوا تھا اور عزیز آباد قبرستان میں تدفین ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لیاری ایکسپریس وے بنا رہی ہے، تعمیری مراحل میں پلر بناتے ہوئے قبرستان سے ملحق مکانات اور کچھ قبریں اس کی زد میں آرہی ہیں، جنہیں بلڈوز کر دیا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب کی قبر کو

کھدائی کروا کر باقیات نکلوا کر دوسری زمین (اندرون قبرستان) منتقل کروالوں۔ کیا شرعاً یہ کام درست و جائز ہے؟ برائے مہربانی جلد جواب عنایت فرمائیں کیونکہ اس Project پر عنقریب کام شروع ہونے والا ہے، (سید نجم علی، مکان نمبر 1025/9 ڈیگیئرسوسائٹی فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

## جواب:

حدیث مبارک میں ہے:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: "لأن يحلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلدة خبيره من أن يحلس على قبر"۔

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کسی کا آگ پر بیٹھنا یہاں تک کہ وہ کپڑے جلا کر چڑے تک پہنچ جائے، زیادہ بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے"، (ابوداؤد، رقم الحدیث: 3220، مطبوعہ مؤسسۃ الریان بیروت)۔

عن عقبۃ بن عامر، قال: قال رسول اللہ ﷺ: لأن امشى على جمرة أو سيف، أو اخصف نعلی برجلی، أحب الی من ان امشى على قبر مسلم۔ وما أبالی اوسط القبور قضیت حاجتی، أو وسط السوق"۔

ترجمہ: "حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے زیادہ پسند ہے آگ یا تلوار پر چلنا یا پاؤں سے جوتے پر پیوند لگانا، بہ نسبت اس کے کہ قبر مسلم پر چلوں، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ قبر کے وسط میں میری

حاجت پوری ہوتی ہے یا بازار کے درمیان“، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 1568، مطبوعہ دارالفکر بیروت)۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

لانہم نصوا علی أن المرور فی سكة حادثة فیہا حرام۔

ترجمہ: ”علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ قبرستان کے اندر نو پیدا راستے پر چلنا حرام ہے۔“ (ردالمحتار جلد 1 صفحہ 482، دار احیاء التراث العربی بیروت)

میت کو دفن کرنے کے بعد پھر قبر کو کھودنا جائز نہیں مگر جب کسی آدمی کے حق کے لئے کھودنا ہو مثلاً زمین مغصوب میں دفن کیا گیا یا دفن کے وقت کسی کا مال قبر میں گر پڑا تو ایسی صورت میں قبر کھودنے کی اجازت ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(لا یتخرج منہ) بعد اہالة التراب (الا) لحق آدمی (کأن تکون

الارض مغصوبة أو أخذت بشفعة) و یخیر المالك بین اخراجه و مساواته بالارض۔

ترجمہ: ”میت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا (مٹی ڈال دینے کے بعد) مگر کسی انسان کے حق کی وجہ سے، مثلاً (زمین غصب کی ہو یا شفعہ کی وجہ سے لی گئی ہو) اور مالک کو اختیار ہوگا کہ مردے کو نکال دے یا قبر زمین کے برابر کر دے،“ (ردالمحتار جلد 3 صفحہ 135، 136، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”اور اگر وہ کسی کا مملوک نہیں ہے بلکہ

وقف ہے تو وقف میں دست اندازی کا کسی کو حق نہیں (الوقف لایملک) وقف کسی آدمی کی ملکیت نہیں ہوتا، (فتاویٰ رضویہ جلد 9 ص: 384 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

ولا یجوز تغیر الوقف عن ہیئته۔

ترجمہ: ”وقف کی ہیئت بدلنا جائز نہیں،“ (فتاویٰ عالمگیری جلد 2 ص: 490، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: مسلمانوں کا عام قبرستان وقف ہوتا ہے اور اس میں سوائے ذن کے اور تصرف کی اجازت نہیں اسے تجارت گاہ بنانا یا اس پر کھیت کرنا سب حرام ہے، ایشاہ وغیرہا میں ہے:

شرط الواقف کنص الشارع فی وجوب العمل بہ۔

ترجمہ: ”واقف کی شرط وجوب عمل میں شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نص کی مثل ہے۔“ (الفن الثانی، جلد 1 ص: 305 ادارۃ القرآن کراچی)

اور مسلمان کی قبر کو کھودنا تو نہایت سخت شدید جرم ہے، اسلامی سلطنت ہو تو ایسا شخص سخت تعزیر کا مستحق ہے یہاں تک کہ سلطان اسلام کی اگر رائے ہو تو جو ایسی حرکت کا مرتکب ہوا کرتا ہو اسے سزائے قتل دے سکتا ہے، جو شخص ناحق پر اس کی تائید کرتے ہیں سب اسی کی طرح مرتکب جرم و مستحق سزا ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَيِ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۝

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: گناہ اور ظلم پر تعاون مت کرو، (القرآن، المائدہ: 2)۔  
حدیث میں ہے نبی ﷺ فرماتے ہیں:

من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خلع من عنقه رقبة  
الاسلام۔

ترجمہ: ”جو دانستہ کسی ظالم کی مدد کو چلے اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال  
دی“۔ (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 540 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)  
مراقی الفلاح میں ہے:

(ولا يجوز نقله) ای: السمیت (بعد دفنہ) بأن أهبل عليه التراب، وأما قبله  
فيستخرج (بالاجتماع) بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت، للنهي عن  
نبشه، والنّيش حرام حقاً لله تعالى۔

ترجمہ: ”اور میت کا منتقل کرنا دفن کرنے کے بعد جائز نہیں ہے، اور اس پر مٹی ڈالے  
جانے سے قبل بالاجتماع نکالا جاسکتا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام، دفن کو طویل عرصہ گزرا  
ہو یا قلیل، نبشہ (انتقال میت) سے منع کرتے ہیں اس لئے کہ نبشہ، حق اللہ ہونے کے  
باعث حرام ہے“، (مراقی الفلاح جلد 2 صفحہ 265, 266 مکتبہ غوثیہ کراچی)۔

انتقال قبر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز  
لکھتے ہیں: صورت مذکورہ میں نبش حرام، حرام، سخت حرام، اور میت کی اشد توہین  
وہتک سز رب العالمین ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 9 ص: 405 رضا  
فاؤنڈیشن، لاہور)۔



مذکورہ دلائل و براہین کی روشنی میں چند امور واضح ہوتے ہیں: (1) قبورِ مسلمین کی تعظیم لازم ہے، (2) قبرستان کو راستہ بنانا حرام ہے، (3) مسلمانوں کا قبرستان وقف ہے، وقف کی تغیر ناجائز ہے، (4) بلا ضرورت شرعی قبر کا کھولنا ناجائز ہے، (5) نبشہ (انتقال میت) حرام ہے۔ ارباب اختیار کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لئے قبور کو چھوڑ کر متبادل راستہ اختیار کریں۔ تاہم اگر متعلقہ محکموں کے لوگ قبول حق پر آمادہ نہ ہوں اور حکومتی طاقت کے بل پر قبروں کو بلڈ وز کرنے پر تلے بیٹھے ہوں، تو جس قبر کے مسمار کرنے سے کسی میت کی باقیات برآمد ہوں تو انہیں احترام کے ساتھ دوسری محفوظ جگہ دفن کر دیں۔ لیکن محض اس خدشے کی بنا پر کہ قبر کو بلڈ وز کر دیا جائے گا، پیٹنگی قبر کو کھودنا اور میت یا باقیات میت کو منتقل کرنا درست نہیں ہے۔

سانحہ گھونگی میں جاں بحق ہونے والوں کی اجتماعی و امائتاً تدفین

### سوال: 35

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں گھونگی کے مقام پر جو ٹرینوں کا حادثہ ہوا اور اس میں سیکڑوں افراد ہلاک ہوئے جن کی شناخت بھی ممکن نہیں، حکومت پاکستان کی جانب سے ہلاک ہونے والے لاوارث اشخاص کی لاشوں کو اجتماعی قبر میں امائتاً دفن کر دیا گیا ہے۔ کیا شرعی طور پر اس طرح دفن کرنا درست ہے؟ اور اگر کسی میت کے ورثاء آجاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں تو کیا قبر کھود کر لاش کو نکالا جاسکتا ہے؟ وضاحت

فرمائیں، (محمد شعیب، سیکٹر 3-D/7 نارتھ کراچی)۔

## جواب:

اضطرار کی حالت میں ایک قبر میں ایک سے زائد مردوں کو دفن کیا جاسکتا ہے، مثلاً قبرستان میں جگہ نہ ہو، زمین قیمتاً دستیاب ہو لیکن قیمت ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو، زمین ہو لیکن مالک اجازت نہ دے یا ہنگامی صورت حال ہو جیسے غزوہ احد میں درپیش تھی وغیرہ۔ عام حالات میں جب کہ قبرستان میں جگہ موجود ہو، زمین کی قیمت ادا کرنے کی استطاعت ہو، یا کوئی صاحب خیر بلا معاوضہ زمین دے دے، تو ایسی صورت حال میں ایک قبر میں ایک سے زائد میتوں کا دفن کرنا درست نہیں ہے، گھونگی کے حادثے میں چونکہ محکمہ ریلوے اور حکومت کی حیثیت نامعلوم میتوں کے اولیاء کی تھی، اور حکومت کو قبروں کے لئے جگہ حاصل کرنا دشوار نہیں ہے، اس لئے اجتماعی قبر میں تمام مردوں کو دفن کرنا درست نہیں تھا اور شرعاً یہ نامناسب ہوا، لیکن چونکہ اب تدفین ہو چکی ہے اور امائٹا دفن کرنے کا تصور غیر شرعی ہے، اس لئے دفن شدہ میتوں کو دوبارہ دفن کرنے کے لئے نکالنا درست نہیں ہے، بطور ذیل میں ہم شرعی دلائل و حوالہ جات کے ساتھ مسئلے کو واضح کریں گے۔

عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما أخبرہ: أن رسول اللہ ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "آبهم أكثر أخذنا للقرآن؟" فإذا أشير له إلى أحد قتلته في المسجد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"۔ وأمر بدفنهم بدمائهم،

ولم یصل علیہم ، ولم یغسلوا۔

ترجمہ: ”عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: شہیدانِ احد میں سے دو حضرات کو رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے میں جمع فرمایا۔ پھر دریافت فرماتے کہ ”ان میں سے قرآن مجید کس کو زیادہ یاد تھا۔“ جب کسی ایک کی جانب اشارہ کر دیا جاتا تو آپ لحد میں پہلے اسے رکھواتے اور فرمایا کہ: قیامت کے روز میں ان سب پر گواہ ہوں، اور حکم فرمایا کہ: انہیں اسی طرح خون آلودہ دفن کر دیا جائے، نیز نہ ان پر نمازِ جنازہ پڑھی گئی اور نہ ان کو غسل دیا گیا“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 4079)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ولا یدفن اثنان أو ثلاثة فی قبر واحد الا عند الحاجة فیوضع الرجل مما یلی القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثی ثم خلفه المرأة ویجعل بین کل میتین حاجز من التراب کذا فی محیط السرخسی۔

ترجمہ: ”اور دو یا تین افراد کو ایک قبر میں دفن نہ کیا جائے مگر ضرورت کے وقت (مثلاً قبرستان میں مردوں کی تعداد کے برابر جگہ نہیں ہے اور ارد گرد جو زمینیں ہیں ان کے مالکان اپنی زمین میں تدفین کی اجازت نہیں دیتے لیکن اگر ضرورت کی بناء پر ایسا کرنا پڑے تو) مرد کی میت کو قبلہ کی جانب آگے رکھا جائے، پھر اس کے بعد لڑکے کی میت کو رکھا جائے، پھر اس کے بعد خنثی کی میت کو رکھا جائے، پھر اس کے بعد عورت کی میت کو رکھا جائے اور ہر دو میتوں کے درمیان مٹی کی ایک جَدّ فاصل قائم کر دی

جائے (تا کہ کوئی بھی دو میتیں ایک دوسرے سے مس نہ ہوں)؛ محیط سرخسی میں اسی طرح ہے؛ (عالمگیری جلد 1 ص: 166 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

والکراهة فيهما من وجوه علم المحدث ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجة۔

ترجمہ: ”اور جماعت کا ایک قبر میں دفن کرنا بلا ضرورت جائز نہیں، اور بغیر کسی حد فاصل کے مردوں اور عورتوں کی میتوں کو ملا کر دفن کرنا جائز نہیں“، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 3 ص: 129 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

مذکورہ حدیث اور فقہاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ دو یا تین افراد کی اجتماعی تدفین کی بھی اس وقت اجازت ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو، وسائل اور اسباب میسر نہ ہوں۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(لا ینتجج منه) بعد اہمالہ التراب (الا) لحق آدمی، (کأن تكون الارض مفضوۃ أو أخذت بشفعة) و ینتجج المالک بین اخراجه و مساواته بالارض۔

ترجمہ: ”(میت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا) مٹی ڈال دینے کے بعد (مگر) کسی انسان کے حق کی وجہ سے، مثلاً (زمین غصب کی ہو یا شفعہ کی وجہ سے لی گئی ہو) اور مالک کو اختیار ہوگا کہ مردے کو نکال دے یا قبر زمین کے برابر کر دے“، (رد المحتار

جلد 3 صفحہ 135، 136؛ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”اور مسلمان کی قبر کو کھودنا تو نہایت سخت شدید جرم ہے، اسلامی سلطنت ہو تو ایسا شخص سخت تعزیر کا مستحق ہے یہاں تک کہ سلطان اسلام کی اگر رائے ہو تو جو ایسی حرکت کا مرتکب ہوا کرتا ہو اسے سزائے قتل دے سکتا ہے، جو شخص ناحق پر اس کی تائید کرتے ہیں سب اسی کی طرح مرتکب جرم و مستحق سزا ہیں۔“

قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: گناہ اور ظلم پر تعاون مت کرو، (القرآن، المائدہ: 2)۔

حدیث میں ہے نبی ﷺ فرماتے ہیں:

من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خلع من عنقه

رقبة الاسلام۔

ترجمہ: ”جو دانستہ کسی ظالم کی مدد کو چلے اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد 16 ص: 540 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مراقی الفلاح میں ہے:

(ولا يجوز نقله) ای: الحمیت (بعد دفنہ) بأن أهبل عليه التراب، وأما قبله فيمخرج (بمالاتهم) بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت، للنهي عن نبشه، والنهب حرام حقاً لله تعالى۔

ترجمہ: ”اور میت کا منتقل کرنا دفن کرنے کے بعد جائز نہیں ہے، اور اس پر مٹی ڈالے جانے سے قبل بالاجماع نکالا جاسکتا ہے، اور ہمارے ائمہ کرام، دفن کو طویل عرصہ گزرا

ہو یا قلیل، نبشہ (انتقال میت) سے منع کرتے ہیں اس لئے کہ نبشہ، حق اللہ ہونے کے باعث حرام ہے،“ (مراقی الفلاح جلد 2 صفحہ 265, 266 مکتبہ غوثیہ کراچی)۔

انتقال قبر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: صورت مذکورہ میں نبش حرام، حرام، سخت حرام، اور میت کی اشد توہین و ہتک سز رب العالمین ہے، (فتاویٰ رضویہ جلد 9 ص: 405 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز سے سوال کیا گیا کہ: جو سفر میں مرتے ہیں ان کو ویسے ہی دفن کر دیتے ہیں لیکن امانت رکھتے ہیں، ایک مقررہ مدت کے بعد یہاں سے نکال کر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور اس کے برعکس لے جاتے ہیں، یہ فعل جائز ہے یا ناجائز؟

آپ نے جواب میں فرمایا:

”یہ حرام ہے، دفن کے بعد کھولنا جائز نہیں، اور دور مسافت تک لے جانا بھی روا نہیں۔ اور خدائے برتر خوب جاننے والا ہے،“ (فتاویٰ رضویہ جلد 9 ص: 406 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

سانحہ گھونگی میں غیر مسلم کی نماز جنازہ

سوال : 36

گزشتہ دنوں ایکسپریس کے کالم ”تفہیم المسائل“ میں سانحہ گھونگی کے ہلاک شدگان کی اجتماعی امینا تدفین سے متعلق سوال و جواب نظر سے گزرا، اسے پڑھ کر

اور حالات کو دیکھنے کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس میں ہلاک ہونے والے لوگوں میں یقیناً غیر مسلم (مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ) بھی ہوں گے۔ اور ان تمام ہلاک شدگان کی نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ مسلمانوں کی طرح کی گئی، آیا یہ عمل شرعاً درست ہے؟، (مرزا عمران بیگ، کراچی)۔

### جواب:

آپ کا یہ کہنا کہ یقیناً غیر مسلم بھی تھے، درست نہیں ہے، آپ کے پاس اس یقین کا کون سا ذریعہ ہے، ہم جب ٹرین یا بس میں سفر کرتے ہیں، تو عام مشاہدہ یہی ہے کہ بالعموم سب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر بفرض محال کوئی غیر مسلم تھا بھی، تو نماز جنازہ پڑھنے والوں نے مسلمان اموات کی نیت کی تھی اور دعا و جنازہ بھی مسلمان اموات کے لئے ہے، جب مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے کہ: ”اللہم اغفر لحنینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانثنا“۔

ترجمہ: ”اے اللہ! ہمارے زندوں کو، ہمارے وفات پانے والوں کو، ہمارے موجودین کو، ہمارے غائبین کو، ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بخش دے“۔ اس میں صراحۃً مسلمانوں ہی کے لئے دعائے مغفرت کی نیت ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی کافر یا مشرک کی میت ان اموات میں لائمی میں رکھ دی گئی ہو، تو وہ جنازہ پڑھنے والوں کا مقصود ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر قطعی طور پر معلوم ہو کہ میت غیر مسلم کی ہے اور کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہ قرآن کی صریح آیات بینات کا منکر ہے،

جن میں کافر و مشرک کے لئے جہنم کی ابدی و دائمی سزا کی وعید سنائی گئی ہے، اگر یہ انکار برہنئے عقیدہ ہے تو کفر ہے، اور تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔

دعاء بعد الجنازہ

### سوال: 37

ہمارے علاقے میں بعض لوگ عوام کو علی الاعلان یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر جو دعاء مغفرت کرتے ہیں اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں اگر ہے تو ہمیں ثبوت پیش کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں، نیز جو لوگ علی الاعلان اسے ناجائز کہہ کر عوام کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟، (مولانا محمد نصیر اللہ نقشبندی، نیریاں شریف، آزاد کشمیر)۔

### جواب:

اس سوال کا براہ راست جواب سننے سے پہلے ایک دو اصولی باتیں سمجھ لیجئے۔ اسلام اور دنیا کے ہر نظام قانون اور اصول قانون کا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اشیاء و امور میں اصل اباحت (یعنی جائز ہونا) ہے، لہذا کہیں بھی قوانین کی تشکیل میں مباحات (جائز امور) کا احاطہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر شعبے کے محرمات، ممنوعات اور مکروہات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر امور جائز ہیں، مثلاً جن خواتین سے نکاح شرعاً حرام ہے، قرآن نے ان کو سورۃ النساء آیات ۲۲ تا ۲۵ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اور پھر فرمایا:

وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ۔



ترجمہ: اور ان (مذکورہ محرمات) کے علاوہ باقی سب عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ (النساء: ۲۳)

اسی طرح قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۷۳ اور سورہ النحل آیت نمبر ۱۱۵ میں ماکولات میں سے محرمات (مردار، ذبح کے وقت پہنے والا خون، خنزیر اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے) کا ذکر فرمایا، احادیث میں اس پر درندے، شکاری پرندے اور گدھے کا اضافہ فرمایا گیا، بعض دیگر جانوروں کو قیاس و اجتہاد کے ذریعے فقہاء امت نے مکروہ تحریمی قرار دیا، ان کے علاوہ دیگر لاتعداد جانور جو حلال ہیں، کتاب وسنت اور ائمہ مجتہدین نے ان کا تفصیل سے احاطہ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کرنا عملاً ممکن ہے، ہماری عملی زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ جس سڑک پر دائیں یا بائیں مڑنا منع ہو، یا جس گلی یا سڑک پر گاڑی چلانا منع ہو ٹریفک کا عملہ وہاں مخصوص ممانعت کا نشان لگا دیتا ہے، باقی جس جس گلی یا سڑک پر گاڑی چلانا ممنوع نہیں ہے، وہاں کوئی مخصوص نشان نہیں لگایا جاتا، ممانعت کا نشان نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس گلی یا سڑک پر گاڑی چلانے کی عام اجازت ہے یعنی یہی اصول احکام شریعت کا ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن أشياء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا۔

ترجمہ: ”حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اشیاء (کی حلت و حرمت) کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (شرعی حکم) دریافت کیا گیا تو

آپ نے فرمایا: حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا ہے اور جس کے بارے میں (کتاب و سنت میں) سکوت فرمایا گیا تو وہ معاف ہے (یعنی جائز و حلال ہے) ، لہذا خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، (سنن ابن ماجہ، ص ۲۳۹، سنن ترمذی، ص ۲۱۹)۔

اس حدیث سے کتب تفاسیر و فقہ میں اس مفہوم پر استدلال کیا گیا ہے۔  
سنن بیہقی صفحہ ۱۲، جلد نمبر ۱۰، پر حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع ہے:

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا ثُمَّ قَرَأَ  
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔

ترجمہ: ”جس چیز (کی حرمت کے بیان) سے قرآن نے سکوت کیا وہ معاف ہے (یعنی جائز ہے) ، تو اللہ کی طرف سے معافی (یا جواز کی رعایت) کو (خوش دلی سے) قبول کرو، کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں، پھر آپ نے (سورہ مریم کی آیت نمبر ۶۳) تلاوت فرمائی (جس کا معنی یہ ہے کہ) اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔“

فتاویٰ شامی میں ہے:

المختار ان الاصل عند الجمهور من الحنفية و الشافعية الاباحة۔

ترجمہ: ”قول مختار یہ ہے کہ جمہور حنفیہ و شافعیہ کے نزدیک (امور و اشیاء میں) اصل اباحت (جائز ہونا) ہے،“ (جلد ۱، صفحہ ۹۸)۔

لہذا اگر کوئی شخص، کسی خاص موقع و مقام کے لیے یا علی الاطلاق، کسی چیز کی حرمت یا کراہت کا دعویٰ ہے تو بارشہوت اس پر ہے کہ وہ عدم جواز کی شرعی دلیل پیش کرے، نہ کہ فریق مخالف (قائل جواز) سے دلیل طلب کرے۔

دوسرا اصولی مسئلہ یہ کہ فی نفسہ دعاء اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ فعل ہے، مقاماتِ نجاست و کراہت کے علاوہ دعا کے لیے نہ کسی وقت کی پابندی ہے، نہ کسی خاص لب و لہجے اور زبان کی، یہ الگ بات ہے کہ مسنون دعاؤں کی برکات زیادہ ہیں۔ بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی مرغوب ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے احادیث مبارکہ میں فرمایا:

أَكثَرُوا الدُّعَاءَ - ”کثرت سے دعا کیا کرو“۔

(المستدرک، کتاب الدعاء ج ۱ ص ۵۲۹)

الدعاء مخ العبادة - ”دعاء عبادت کا مغز ہے“۔

(مشکوٰۃ، کتاب الدعوات)

لا یرد القدر الا الدعاء - ”دعا تقدیر کو نال دیتی ہے“۔

(مشکوٰۃ، کتاب الدعوات)

سَلُّوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُسَالَ -

ترجمہ: ”اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے“، (مشکوٰۃ، کتاب الدعوات)۔

اور وفات یافتہ اہل ایمان کے لیے دعا کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝  
 ترجمہ: ”اور جو ان کے بعد آئے وہ (اللہ کی بارگاہ میں) عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ!  
 تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان (دینی) بھائیوں کو بھی، جو ہم سے پہلے ایمان لائے  
 ہیں اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب! تو بہت  
 مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے“، (الحشر: ۱۰)

اس آیت کا سیاق و سباق (مورد) تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور اپنے  
 اسلاف و سابقین اہل ایمان کے لیے دعاء مغفرت کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا  
 گیا ہے۔ اب اس دعاء مغفرت کے لیے کسی وقت خاص کا تعین نہیں ہے، کسی  
 شخص کی زندگی میں بھی اس کے لیے دعاء مغفرت کی جاسکتی ہے، موت کے بعد  
 نماز جنازہ سے پہلے بھی کی جاسکتی ہے اور بعد میں بھی کی جاسکتی ہے، بطور خاص  
 بعد نماز جنازہ دعا کی ممانعت کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرے۔  
 مندرجہ بالا آیت کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں:  
 ”متعدد حضرات نے اس پر اجماع نقل فرمایا ہے کہ بلاشبہ دعاء میت کو فائدہ دیتی  
 ہے اور اس کی دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا ہے“، (شرح الصدور صفحہ

(۱۳۷)۔

علامہ محمود آلوسی بغدادی ”وَاللّٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اخر جمة ابن جریر وغیرہ من طرق عن ابن عباس انه قال ای اذا فرغت من

الصلوة فانصب فی الدعاء۔

ترجمہ: ”ابن جریر نے کئی طرق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب نماز سے فارغ ہو تو دعائیں مشغول ہو جاؤ“، (تفسیر روح المعانی ج ۳۰ ص ۱۷۲)۔

رہا یہ سوال کہ آیا دعا بعد نماز جنازہ کے لیے کوئی دلیل مثبت بھی ہے؟ تو حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے:

اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء۔

ترجمہ: ”جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو“۔  
(سنن ابی داؤد طبع مجیدی ۲/ ۱۰۰، سنن بیہقی طبع حیدرآباد ۴/ ۴۰، سنن ابن ماجہ اصح المطابع ص ۱۰۹)

اس حدیث میں نماز جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد دعا کا ذکر ہے کیونکہ اصول فقہ میں یہ طے ہے کہ ”ف“ ”تتعقب علی الفور“ کے لیے آتی ہے، یہ اس کے حقیقی معنی ہیں اور کسی عقلی، عادی یا شرعی دلیل کے بغیر حقیقی معنی سے عدول جائز نہیں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔

امام علاؤ الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی لکھتے ہیں:

ولنا: ماروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازة فلما فرغ، جاء عمرو معه قوم، فأراد ان یصلی ثانیاً فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصلوة علی الجنائز لا تعاد“ ولكن أدعُ للمیت واستغفر له و هذا نص فی

الباب، وروی ان ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فاتھما صلوة  
 علی الجنائزہ فلما حضرا ما زاد علی الاستغفار له وروی عن عبداللہ بن  
 سلام رضی اللہ عنہ: انه فاتتہ الصلاة علی جنازة عمر رضی اللہ عنہ، فلما  
 حضر قال: ان سبقتمونی بالجنائزہ فلا تسبقونی بالدعاء له۔

”یہ مسئلہ کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں ہے (اس میں ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ  
 نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی جب حضور جنازہ پڑھا کر فارغ ہو چکے تو اس وقت  
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ  
 کیا تو حضور نے (انہیں تکرار جنازہ سے روکتے ہوئے) فرمایا: نماز جنازہ دوبارہ نہیں  
 پڑھی جائے گی، لیکن میت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے استغفار کرو، یہ اس باب  
 میں (کہ نماز جنازہ کی تکرار نہیں) نص ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس اور  
 ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک نماز جنازہ نکل گئی (یعنی وہ دیر سے پہنچے)، پس جب وہ  
 میت کے پاس آئے تو صرف دعاء مغفرت پر اکتفا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ  
 حضرت عبداللہ بن سلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نکل گئی، جب وہ  
 آئے تو انہوں نے (جنازے پر موجود حاضرین سے) کہا کہ اگرچہ تم لوگ مجھ سے  
 نماز جنازہ میں پہل کر چکے ہو لیکن دعا میں مجھ سے پہل نہ کرو (یعنی دعا میں مجھے بھی  
 شریک ہونے دو)“، (بدائع الصنائع جلد ۳، ص ۳۳۸ دارالکتب العلمیہ بیروت)۔

مصنف ابن ابی شیبہ جلد ثالث صفحہ ۳۳۱ پر ہے:

عن عمیر بن سعید قال صلیت مع علی بن یزید بن مکلف فکبر علیہ

اربعمائتم مشى حتى اتاه وقال: اللهم عبدك و ابن عبدك نزل بك اليوم  
 فاغفر له ذنبه و وسع عليه مدخله فاننا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به۔  
 ترجمہ: ”عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ  
 یزید بن مکلف کی نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے ان پر (جنازے کی) چار تکبیرات  
 پڑھیں، پھر چلے یہاں تک کہ میت کے قریب آگئے اور عرض کیا: اے اللہ! (یہ) تیرا  
 بندہ ہے اور تیرے بندے کا فرزند ہے آج تیرے حضور حاضر ہے تو اس کے گناہوں کو  
 معاف فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما، ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ  
 نہیں جانتے اور تو اس (کے حال) کو بہتر جانتا ہے۔“

ان احادیث مبارکہ سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عہد رسالت و  
 عہد صحابہ میں نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا کا معمول تھا۔ مبسوط سرحدی  
 میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔

”دعاء بعد الجنازہ“ کے ثبوت کا مسئلہ ہم نے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ہم  
 اس کے فرض، واجب یا سنت قرار دینے کے مدعی نہیں ہیں بلکہ جواز اور استحباب  
 کے مدعی ہیں کہ جتنے زیادہ مواقع پر اور جتنی زائد بار میت کے لیے دعا کی جائے  
 وہ اس کے لیے مفید ہے اور خود دعا کرنے والے کے لیے بھی وسیلہ اجر ہے،  
 لیکن اگر کوئی شخص بطور خاص نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا مغفرت و  
 ایصالِ ثواب کو خلاف سنت یا بدعت قرار دیتا ہے تو وہ عدم جواز کی دلیل پیش  
 کرے۔ اصولاً ثبوت اس کے ذمے ہے کہ کہاں اور کب رسول اللہ ﷺ

نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے برعکس روایات و آثار سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ ایک خاص مسلک کے ائمہ، خطباء و علماء نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اصرار کرتے ہیں کہ بجلت تمام جنازہ اٹھالیا جائے تاکہ کوئی اس موقع پر دعا نہ کر لے یا دعا کیلئے نہ کہہ دے، اور اپنے اس فعل کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جنازہ خود دعا ہے، جنازہ تو عبادتِ مشروعہ ہے، فرض کفایہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ثناء، رسول اللہ ﷺ پر درود، میت کے لیے دعا اور تکبیراتِ اربعہ پر مشتمل ہے، دعائے محض نہیں ہے بلکہ عبادتِ کاملہ ہے، جیسا کہ متعدد احادیثِ کریمہ سے ثابت ہے، دعا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے اعترافِ عجز و نیاز، بے بسی و بے کسی اور اس کی ذات پر اعتمادِ کلی کا قولی و فعلی مظہر ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بلکہ بندے سے مطلوب ہے، خیر محض ہے، لہذا اگر کوئی اپنے عقیدے و نظریے کے تحت دعا نہیں کرتا تو نہ کرے، دوسروں کے لیے ”مَسْأَعِ لَيْلِ خَيْرٍ“ (خیر سے بہ صد اصرار روکنے والا) نہ بنے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی سورہ القلم آیت نمبر 12 میں ایک بہت بڑے دشمن رسول کی بیان کردہ متعدد صفاتِ ذمیمہ میں سے ایک ہے۔ لہذا جو لوگ میت کے لیے ایصالِ ثواب یا دعا کرنا چاہتے ہیں ان کا راستہ نہ روکیں، ہاں کسی حدیثِ مبارک میں دعا بعد الجنازہ کی ممانعت وارد ہوئی ہوتی تو آپ ضرور حجت کرتے، مگر ایسا نہیں ہے، اور اگر فریقِ مخالف کا اذعان یہ ہے کہ ایسی



روایت موجود ہے تو ہاتھ تو اب رہا انکم: اپنی دلیل پیش کرو، (البقرہ: ۱۱۱)۔

دعا بعد الجنازہ

ضرب مومن کے مفتی محمد کا جواب اور ہمارا جواب الجواب

**پس منظر:**

ہم نے ”روزنامہ ایکسپریس“ کے جمعہ المبارک 23، جولائی 2000ء کے ایڈیشن میں اپنے کالم ”تفہیم المسائل“ میں ایک سائل کے جواب میں ”دعا بعد الجنازہ“ کے جواز پر لکھا تھا، جو بعد میں ہماری فتاویٰ کی کتاب ”تفہیم المسائل“ جلد دوم میں بھی چھپا۔ اہلسنت کے نزدیک نماز جنازہ کا سلام پھیرنے اور تکمیل نماز کے کچھ دیر بعد صفیں توڑ کر اجتماعی دعا کرنا جائز اور مستحسن امر ہے اور احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور فقہاء امت سے اس کا جواز ثابت ہے۔ مذکورہ فتویٰ کے پانچ سال بعد حال ہی میں ”ضرب مومن“ کے جمعہ 27، مئی 2005ء کے ایڈیشن میں مفتی محمد صاحب کے قلم سے ”آپ کے مسائل کا حل“ کے عنوان کے تحت ہمارے اس فتویٰ کا رد چھپا ہے۔

ضرب مومن کے مفتی صاحب کو اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان کے ہم مسلک سائل نے انہیں ایک استفتاء ارسال کیا اور اس میں لکھا کہ:

”ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کے وقت وہ بدعات اختیار کی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان بدعات سے روکتا ہے تو پورا گاؤں اس کی مخالفت کرتا ہے، مگر پھر بھی

کچھ نوجوان ان بدعات کی مخالفت کرتے رہے اور ان بدعات کو روکنے کے لئے آواز بلند کرتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے گاؤں سے بہت سی بدعات اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ختم ہو گئیں۔“

”مگر افسوس روزنامہ ایکسپریس کی جمعہ 23/07/2000 کی اشاعت میں کسی صاحب نے ”دعا بعد الجنازہ“ کے بارے میں سوال کیا۔ اس سوال کا جواب پڑھ کر لوگ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔“

آگے چل کر سائل نے لکھا ہے: ”اب ان لوگوں کو جواب دینے کے لئے ہمارے پاس کوئی معقول جواب نہیں۔ مہربانی کر کے ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائیں ورنہ ہمارے گاؤں کے نوجوانوں نے جو محنت کی ہے، وہ سب ضائع ہو جائے گی“، (شاہنواز بلوچ۔ گڈاپ بلیر، کراچی)۔

چنانچہ پانچ سال کے وقفے سے ہمارے اس فتویٰ کا جواب تحریر کرنے پر مفتی محمد صاحب نے پورا زور علم و قلم صرف کیا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک دین کا واحد حل طلب مسئلہ یہی ایک رہ گیا تھا، بس یہی اصل الاصول اور روح دین ہے، کیونکہ ان حضرات کا شعار اول و اولیٰ یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت پر شرک و بدعت کا لیبل چسپاں کر دیا جائے۔ مفتی صاحب نے حسب عادت اس مسئلہ میں بھی مغالطہ آفرینی، خلط مبحث، عبارات میں قطع ویرید اور دو روز کار تاویلات کا سہارا لیا ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے اس نوع کے تمام مسائل میں ان

کے ہم مسلک علماء کا پسندیدہ طریق رہا ہے۔

لہذا ہمارے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم از سر نواصل مسئلہ کی وضاحت اور اس کی شرعی حیثیت کو دلائل و براہین کے ساتھ بیان کریں اور اس کے بعد ان کے قابل ذکر دلائل کا رد و ابطال کریں۔ اور جہاں کہیں فقہی عبارات میں تلبیس و تدلیس اور من پسند تاویلات کر کے ان کا غلط اطلاق کیا گیا ہے، اس کی نشاندہی کر کے اصل مسئلے کو از سر نو روشن دلائل اور حجت قاطعہ کے ساتھ بیان کریں، اور یہ بھی ضروری قرار پایا کہ ”اباحتِ اصلیہ“ اور ”بدعت“ کی تعریف و اطلاق کے مسئلے میں مفتی صاحب کی مغالطہ آفرینی کو بے نقاب کریں۔ آئندہ سطور میں ہم واضح دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ ضربِ مومن کے مفتی صاحب کا نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کو بدعت قرار دینا قطعاً بے بنیاد، باطل اور مردود ہے، ہم ان کے اس جواب کا اپنی ترتیب سے تجزیہ کریں گے۔ پہلے ہم نمازِ جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر (یعنی فرض نماز کی تکمیل کے بعد اس کی بیعت کو بدل کر) اجتماعی دعا کے متعلق اپنا موقف پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ از سر نو دلائل پیش کریں گے۔ اور ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے صورت مذکورہ بالا میں نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنے کو ناجائز اور بدعت ثابت کرنے کے لئے فقہاء کی جو غیر متعلق عبارات پیش کی ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ عبارات ہمارے موقف سے یا تو متعلق ہی نہیں اور اگر ہیں تو متصادم نہیں ہیں۔ پھر اباحتِ اصلیہ اور بدعت کے مسئلے

میں ضربِ مؤمن کے مفتی صاحب نے جو مغالطہ آفرینی کی ہے، اس کا تجزیہ کریں گے، فنقول وبالله التوفیق۔

### نمازِ جنازہ کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا کے مسئلے میں

#### اہلسنت کا موقف اور مرجحہ طریقہ:

اہلسنت کے نزدیک نمازِ جنازہ پڑھنے کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے اور ہم نمازِ جنازہ کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا نہ کرنے والوں کو نہ ہدفِ ملامت بناتے ہیں نہ ان کو روکتے اور ٹوکتے ہیں، البتہ ایک مکتبہ فکر کے علماء جو اس مستحب عمل کو بغیر کسی دلیل کے ناجائز، حرام اور بدعتِ سیئہ کہتے ہیں، جیسا کہ ضربِ مؤمن کے ”مفتی“ نے ایسا ہی کیا اور کہا ہے، تو ہم ان لوگوں کا رد اور ابطال کرتے ہیں۔

ہم نے جو یہ کہا ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی دلیل کے اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ نمازِ جنازہ کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا کرنے کے عمل کی حرمت پر نہ تو یہ لوگ قرآن مجید کی کوئی خصوصی آیت پیش کرتے ہیں اور نہ کسی حدیث متواتر سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کوئی دلیل پیش کی جائے جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس عمل کی ممانعت پر دلالت بھی قطعی ہو، اس کے بغیر کسی چیز کا حرام یا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہیں کہ ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مخصوص عمل، مکروہ تحریمی ہے، تو اس کے لیے بھی ایسی دلیل

ضروری ہے کہ جس کا یا تو ثبوت قطعی ہو یا اس کی ممانعت پر دلالت قطعی ہو۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ یہ مخصوص عمل، مکروہ تنزیہی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی ممانعت کے اوپر کوئی مخصوص دلیل پیش کریں۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:

ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذ لا بُد لها من دليل خاص -  
ترجمہ: ”ترک مستحب سے کراہت کا ثبوت لازم نہیں آتا کیونکہ اس کے لیے خصوصی دلیل ضروری ہے“، (البحر الرائق جلد دوم صفحہ 163، مطبوعہ المطبعة العربية، لاہور)۔  
علامہ ابن عابدین شامی متوفی 1252ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (رد المحتار علی الدر المختار جلد دوم صفحہ 367، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

سو جب تک مبتدعین دیوبند خصوصیت کے ساتھ نماز جنازہ کے کچھ وقفے کے بعد اجتماعی دعا کی ممانعت پر قرآن مجید کی کوئی آیت، حدیث متواتر یا حدیث مشہور یا کم از کم خبر واحد ہی پیش نہ کریں، اس کی ممانعت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔

### نماز جنازہ کے بعد مرقبہ دعا کا طریقہ:

اہلسنت کے یہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ نماز جنازہ میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ لیتے ہیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد امام اس میت کے لیے ایصالِ ثواب اور مغفرت کی دعا کرتا ہے اور نمازی اس پر آمین کہتے ہیں، تمام شہروں اور

دیہاتوں میں یہی معروف طریقہ ہے اور نمازِ جنازہ کے متصلاً بعد دعا نہیں کرتے۔

نمازِ جنازہ کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت پر اختصار کے ساتھ عمومی دلائل:

(1) اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط

ترجمہ: ”دعا کرو اپنے رب سے گڑگڑا کر اور آہستہ“، (سورۃ الاعراف: 55)۔

(2) اَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ ط

ترجمہ: ”مجھ سے دعا کرو میں (ضرور) قبول کروں گا“، (المؤمن: 60)۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ : من لم یسئل اللہ یغضب علیہ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہ کرے اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے“، (سنن ترمذی رقم

الحدیث: 3433)۔

عن سلمان قال قال رسول اللہ ﷺ : ان ربکم حتی کریم یتحیی من عبدہ  
اذا رفع یدیه الیہ ان یردہما صفرًا۔

ترجمہ: ”حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے“، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث 1488، سنن ترمذی رقم الحدیث: 3627)۔

عن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول اللہ ﷺ : ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوة

غائب لغائب -

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) بہت جلد قبول ہوتی ہے“، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 1533، سنن ترمذی رقم الحدیث 1980)۔

قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث مذکورہ میں مطلقاً اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں کسی وقت خاص کی قید نہیں ہے، جس وقت بھی اللہ سے دعا کی جائے خواہ اجتماعی ہو، خواہ انفرادی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی، سو نمازِ جنازہ پڑھنے کے کچھ وقفے کے بعد صفیں توڑ کر جب دعا کی جائے گی تو وہ بھی قرآن وحدیث میں مذکور دعا کے عام حکم پر عمل ہوگا۔

اور اگر منکرین یہ کہیں کہ یہ بتاؤ کہ خصوصیت کے ساتھ نمازِ جنازہ کے کچھ وقفے بعد دعا کرنے کا قرآن وحدیث میں کہاں حکم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ عموم اور اطلاق کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے ورنہ عموم اور اطلاق کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا، لہذا یہ کہ کسی خاص وقت یا مقام کے لئے خصوصی ممانعت ہو یا اس کا سبب موجود ہو، جیسے بیت الخلاء یا ناپاک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دن کے دس بجے نوافل پڑھ رہا ہے تو دوسرا شخص اس سے کہے: ”تمہارا یہ نفل پڑھنا ناجائز اور حرام ہے ورنہ تم

دکھاؤ کہ قرآن وحدیث میں دن کے دس بجے نفل پڑھنے کا کہاں حکم ہے؟، یا اسی طرح کوئی شخص منگل کے روز نفلی روزہ رکھے تو دوسرا شخص اس سے کہے: ”تمہارا یہ منگل کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے، ورنہ تم دکھاؤ کہ قرآن وحدیث میں منگل کے دن نفلی روزہ رکھنے کا کہاں حکم ہے؟“، اور اسی طرح کوئی شخص زید کو سو روپے نفلی صدقہ دے تو دوسرا شخص یہ کہے: ”تمہارا یہ عمل ناجائز ہے ورنہ تم دکھاؤ کہ قرآن وحدیث میں زید کو سو روپے نفلی صدقہ دینے کا کہاں حکم ہے؟“، یا اسی طرح کوئی شخص 1425ھ میں نفلی حج کرے تو دوسرا شخص اس سے کہے کہ ”تمہارا یہ نفلی حج ناجائز ہے ورنہ تم دکھاؤ کہ قرآن وحدیث میں 1425ھ میں نفلی حج کرنے کا کہاں حکم دیا ہے؟“، تو ایسے شخص کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ یہ فاتر العقل ہے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے مطلقاً نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی حج کا حکم دے دیا ہے، تو یہ اطلاق اور عموم ان مخصوص صورتوں کی نفلی عبادات کو بھی شامل ہے، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اطلاق اور عموم کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ حکم ہر وقت اور ہر جگہ دعا کرنے کو شامل ہے اور ہر صورت میں دعا کرنے کو شامل ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ کے کچھ وقفے کے بعد جو صفیں توڑ کر دعا کی جاتی ہے، اس کو بھی شامل ہے۔

نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور حدیث میں ہے کہ ”فرائض کے بعد دعا جلد قبول ہوتی ہے“، حدیث شریف میں ہے:



”عن ابی امامة قیل یا رسول اللہ ائی الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر  
ودبر الصلوة المكتوبات“

ترجمہ: ”حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا  
گیا کہ کس وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: رات کے آخری  
حصہ میں اور فرائض کے بعد“، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 3499)۔

اور مکتوبات یعنی فرائض کے عموم میں نماز جنازہ بھی شامل ہے، کیونکہ اصلاً تو نماز  
جنازہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، لیکن چند مسلمانوں کے نماز جنازہ پڑھ لینے  
سے باقیوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، اس لئے اسے فرض کفایہ کہتے ہیں  
، بہر حال مکتوبات کا عموم نماز جنازہ کو بھی شامل ہے، تاہم نماز جنازہ پڑھنے کے کچھ دیر  
بعد صفیں توڑ کر اجتماعی دعا کرنے کے ثبوت میں ہم خصوصی احادیث بھی پیش کر رہے  
ہیں۔

**نماز جنازہ کے کچھ وقفے بعد صفیں توڑ کر**

**اجتماعی دعا کرنے کے ثبوت میں خصوصی احادیث اور آثار:**

(1) عن ابی ہریرة قال: سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اذا صلیتم علی

المیت فاخْلِصُوا لَهُ الدَّعَاءَ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو  
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میت کی نماز (جنازہ) پڑھ چکو تو پھر اس کے لیے  
اخلاص سے دعا کرو“، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث: 3119، سنن ابن ماجہ رقم

الحديث: 1497)۔

اس حدیث میں فساخ لاصو پر ”فا“ ہے، یہ حرف عطف ہے اور یہ ”فا“، ”تعلیب علی الفور“ (یعنی اس کے ماقبل جس عمل یا بات کا تذکرہ ہو، اس کے فوراً بعد وہ کام کرنا جو ”فا“ کے بعد مذکور ہے) کے لیے آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد اس کے لئے اخلاص سے دعا کرو۔

ضرب مؤمن کے ”مفتی صاحب“ نے اس حدیث سے استدلال پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث میں مذکور دعا سے نماز جنازہ کا اندر پڑھی جانے والی دعا مراد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب مذکور کو یہ بھی معلوم نہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ مغائر ہوتے ہیں، لہذا اس سے مراد وہ دعا ہے جو نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے مغائر ہے اور اس کے بعد ہے، کیونکہ فاء تعلیب کے لئے آتی ہے۔

نیز مفتی صاحب مذکور نے اپنے استدلال کی تقویت میں ملا علی قاری کی یہ عبارت لکھی ہے: *ولا يدعوا للميت بعد صلوة الجنزة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنزة.*

ترجمہ: ”اور نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ کرے، کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کے مشابہ ہے“، (مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ 170)۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ معروف و مروج دعا سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ کر اور تلاوت قرآن کر کے مانگی جاتی ہے، اگر یہ دعا

نمازِ جنازہ کے متصل بعد مانگی جاتی تب تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نمازِ جنازہ میں کوئی عمل بڑھا دیا گیا ہے، لیکن جب دعا نمازِ جنازہ پوری ہونے کے کچھ دیر بعد مانگی جائے گی، تو اس سے کیسے یہ شبہ پیدا ہوگا کہ یہ عمل نمازِ جنازہ میں اضافہ کے مشابہ ہے، اس کی مزید وضاحت آرہی ہے، اس سلسلے میں دوسری حدیث یہ ہے:

”عن عبد اللہ بن ابی اوفی و کان من اصحاب الشجرة فماتت ابنة له وکان یمشی جنازتها علی بغلة خلفها ، ففعل النساء یمکین بفعل: لا ترثین ، فان رسول اللہ ﷺ نہی عن المراثی ففتفیض احدکن من عبرتها ماشاءت ، ثم کبر علیہما اربعاً ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بین التکبیرتین یدعوا ، ثم قال: کان رسول اللہ ﷺ یصنع فی الجنازة هکذا“۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما جو ”اصحابِ شجرہ“ (یعنی شرکاء بیعتِ رضوان میں سے ہیں، جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند قرآن میں عطا فرمائی ہے) وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہوگئی، وہ اس کے جنازہ میں نچر پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ عورتوں نے رونا شروع کر دیا، حضرت عبد اللہ نے کہا کہ تم مرثیہ مت پڑھو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مرثیہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، تم میں سے کوئی عورت اپنی آنکھ سے جس قدر چاہے آنسو بہائے، پھر انہوں نے جنازہ پر چار تکبیریں پڑھیں، پھر اتنا وقفہ کیا جتنا دو تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور اس وقفہ میں دعا کرتے رہے، پھر کہا رسول اللہ ﷺ نمازِ جنازہ میں اسی

طرح کرتے تھے۔“

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 1503، مسند احمد جلد 4 صفحہ 356 قدیم، مسند احمد جلد 31 صفحہ 480، رقم الحدیث: 19140، مؤسسة الرسالہ بیروت 1420، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: 6404، مسند الحمیدی رقم الحدیث: 718، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 303، المعجم الصغیر رقم الحدیث: 268 المستدرک ج 1 صفحہ 359-360، سنن بیہقی جلد 4 صفحہ 42-43)۔“

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے چوتھی تکبیر کے بعد دعا کی اور نماز جنازہ کے اندر جو دعا کی جاتی ہے، وہ تیسری تکبیر کے بعد کی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن ابی اوفی نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے، تو یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا واضح ثبوت ہے، باقی رہا یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راوی سلام کا ذکر کرنا بھول گیا ہو یا اس نے یہ سوچ کر اس کا ذکر ترک کر دیا کہ یہ تو ویسے ہی معروف اور مشہور ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت میں یہ حدیث بھی اس کی مثل ہے:

یزید بن رکانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جب میت پر نماز جنازہ پڑھتے تو چار تکبیریں پڑھتے، پھر یہ دعا کرتے اے اللہ! تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اس کو عذاب دینے سے غنی ہے، پس اگر یہ نیک ہے تو ہو اس کی نیکی میں اضافہ فرما، اور اگر یہ برا ہے تو ہو اس کی برائی

سے درگزر فرما، پھر جو اللہ چاہتا آپ اس کے لیے وہ دعا کرتے، (المعجم الکبیر ج 22 ص 249، رقم الحدیث: 647)۔

حافظ لکھنوی نے کہا اس حدیث کی سند میں ایک راوی یعقوب بن حمید ہے، اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، (مجمع الزوائد ج 4 ص 34)۔

اس حدیث میں بھی چار تکبیروں کے بعد دعا کا ذکر ہے، اس لیے اس دعا سے مراد بھی وہ دعا ہے جو نماز جنازہ کے بعد کی جاتی ہے، کیونکہ جو دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، وہ تین تکبیروں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں یہ تصریح ہے کہ یہ دعا چار تکبیروں کے بعد کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی مخالف اس پر اصرار کرے کہ چار تکبیروں کے بعد یہ دعا نماز جنازہ کے اندر پڑھی گئی تھی اور اس کے بعد سلام پھیرا گیا تو لازماً سلام سے پہلے بھی ایک تکبیر پڑھی جائے گی اور اس طرح نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں ہو جائیں گی اور یہ اجماع کے خلاف ہے، رہا یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں چار تکبیروں کے بعد سلام کا ذکر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ راوی نے اس کا ذکر اس لیے نہ کیا ہو کہ چار تکبیروں کے بعد سلام کا پڑھنا مسلمانوں میں بالکل ظاہر اور معروف تھا اس لیے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا، بہر حال چار تکبیروں کے بعد رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کا دعا کرنا ہمارے مطلوب پر بہت واضح دلیل ہے۔

**اور یہ حدیث بھی ہمارے مطلوب پر بہت واضح اور صریح دلیل ہے:**

”عن جبیر بن نغیر سمعہ یقول سمعت عوف بن مالک یقول صلی رسول

اللہ ﷻ علیٰ جنازۃ فحفظت من دعائہ وهو یقول اللہم اغفرلہ وارحمہ وعافہ  
واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من  
السخطایما کما نقیت الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ  
واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنة واعنہ من عذاب  
القبر ومن عذاب النار قال حتیٰ تمنیت ان اکون ذالک المیت “۔

ترجمہ: ”حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
ایک جنازے کی نماز پڑھی، میں نے اس جنازے میں آپ کی دعا کے الفاظ یاد رکھے،  
وہ یہ ہیں: ترجمہ: اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت میں رکھ  
اور اس کو معاف فرما، اس کی عزت کے ساتھ مہمان نوازی فرما، اس کی قبر کو وسیع کر  
، اس (کے گناہوں) کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اس کو گناہوں سے اس  
طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے صاف فرما دیتا ہے، اس کے  
(دنیوی) گھر کے بدلہ میں اس سے بہتر (آخرت کا) گھر عطا فرما، اس کے  
(دنیوی) گھر والوں کے بدلہ میں (اسے آخرت میں) بہتر گھر والے عطا فرما، اس کی  
(دنیوی) بیوی کے بدلے میں (جنت میں) اس سے بہتر بیوی عطا فرما، اس کو جنت  
میں داخل فرما، اس کو عذاب قبر اور عذاب نار سے محفوظ رکھ، حضرت عوف کہتے ہیں کہ  
اس وقت میں نے یہ تمنا کی کہ کاش وہ مرنے والا میں ہوتا (تا کہ یہ دعا مجھے مل جاتی  
)“ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 963، سنن ترمذی رقم الحدیث: 1045، سنن نسائی رقم  
الحدیث: 1984)۔

پھر نمازِ جنازہ کے اندر جو دعا ہو اس کو سراً (آہستہ) پڑھا جاتا ہے، اور اس دعا کو حضرت عوف بن مالک نے رسول اللہ ﷺ سے سن کر یاد کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا جبراً کی تھی اور جبراً دعا نمازِ جنازہ کے بعد کی جاتی ہے، لہذا یہ وہ دعا ہے جو نمازِ جنازہ کے بعد کی گئی، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ محدثین نے اس دعا کو نمازِ جنازہ میں پڑھی جانے والی دعا کے باب میں ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس پر دلالت کرتا ہو کہ یہ وہ دعا ہے جو نمازِ جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، بلکہ حضرت عوف بن مالک کا اس دعا کو رسول اللہ ﷺ سے سن کر یاد کرنا اس پر ظاہر اور واضح قرینہ ہے کہ یہ دعا نمازِ جنازہ کے بعد کی گئی تھی۔ اور محدثین کا اس دعا کو نمازِ جنازہ کے اندر پر محمول کرنا صرف ان کی رائے ہے، رسول اللہ ﷺ نے تو ان کو نہیں فرمایا تھا کہ تم اس حدیث کو اس باب میں درج کرو۔

نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنے کے ثبوت میں احادیث کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم آثارِ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں:

امام ابو بکر عبد اللہ بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن عمیر بن سعید قال صلیت مع علی بن یزید بن مکلف فکبر علیہ اربعاً ثم مشی حتی اتاہ فقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله ثم مشی حتی اتاہ وقال اللهم عبدك ابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله فاننا لا نعلم منه الا خيراً وانت

اعلم به۔

ترجمہ: ”عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید بن الکلف کی نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے اس پر چار تکبیریں پڑھیں، پھر کچھ چلے حتیٰ کہ جنازہ کے پاس آئے اور یہ دعا کی اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے آج اس پر موت طاری ہوئی ہے تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، پھر کچھ چل کر اس کے پاس آئے اور دعا کی اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج اس پر موت طاری ہوئی ہے، تو اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، کیونکہ ہم کو اس کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ علم نہیں ہے، اور اس کا خوب علم تجھ کو ہی ہے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ ج 3 ص 331، مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی، 1406ھ)

شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی متوفی 483ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک نماز جنازہ رہ گئی، جب وہ اس جنازہ پر آئے تو انہوں نے میت پر صرف استغفار کیا، اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی، جب وہ ان کے جنازہ پر آئے تو کہا: اگر تم نے نماز جنازہ پڑھنے میں مجھ پر سبقت کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں تو مجھ پر سبقت نہ کرو، (المبسوط ج 2 ص 101، دارالکتب العلمیہ بیروت، 1421ھ)۔

امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حنفی متوفی 587ھ لکھتے ہیں:

ہماری دلیل یہ روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی، جب آپ نماز



جنازہ پڑھ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور یہ ارادہ کیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھیں تو نبی ﷺ نے فرمایا نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی، لیکن تم میت کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو، اور یہ حدیث اس باب میں نص (صریح) ہے، اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک جنازہ کی نماز رہ گئی، جب وہ آئے تو انہوں نے میت کے لیے صرف استغفار کیا، اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ رہ گئی جب وہ آئے تو انہوں نے کہا: اگر تم نے ان کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں مجھ پر سبقت نہ کرو۔ (بدائع الصنائع ج ۲ ص ۳۳۸، دارالکتب العلمیہ بیروت، ۱۴۱۸ھ)

علامہ محمود بن احمد البخاری المتوفی ۲۱۶ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نماز جنازہ دوبار نہیں پڑھی جاتی لیکن تم میت کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو“، (المحیط البرہانی ج ۲ ص ۳۳۳، داراحیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۲۲ھ)۔

حضرت ابن عمر اور ابن عباس سے جو ایک جنازے کی نماز رہ گئی اور حضرت عبد اللہ بن سلام سے جو حضرت عمر کی نماز جنازہ رہ گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ تم نے نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت کر لی ہے لیکن تم دعا میں مجھ پر سبقت نہ کرنا، ضرب مؤمن کے مفتی مذکور نے اس کی توجیہ میں یہ کہا ہے کہ اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہیں وہ نماز جنازہ کے اختتام پر اجتماعی حالت میں دعا کریں، نیز ان

آثار میں یہ بھی مذکور نہیں کہ یہ حضرات نمازِ جنازہ کے کتنی دیر بعد تشریف لائے، دن سے پہلے یا دن کے بعد، پھر اسی دن یا کچھ دنوں کے بعد؟ تو ان کی اس دعا سے جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کب ہوئی؟ نمازِ جنازہ کے متصل بعد کی جانے والی دعا کے اثبات پر استدلال کیسے صحیح ہوگا (الخ)۔

ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مروجہ دعا نمازِ جنازہ کے متصل بعد نہیں کی جاتی، بلکہ صفیں توڑ کر کچھ دیر کے بعد کی جاتی ہے، اس لئے مفتی مذکور کا نمازِ جنازہ کے متصل بعد کہنا بالکل بے سود ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حضرات کچھ دنوں کے بعد نہیں آئے تھے بلکہ نمازِ جنازہ پڑھنے ہی کے لیے آئے تھے لیکن ان کو کچھ تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے وہ نمازِ جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے تو انہوں نے پہنچنے پر کہا کہ تم نے اگرچہ نمازِ جنازہ میں ہم پر سبقت کر لی ہے تو دعاء میں ہم سے پہلے نہ کرنا یعنی سب مل کر اجتماعی دعا کریں گے اور یہ ہمارے موقف پر واضح دلیل ہے، اور مفتی مذکور کا اس میں کچھ دنوں کے بعد کا احتمال نکالنا دفعِ وقتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

ان احادیث اور آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنا عہد رسالت اور عہد صحابہ میں معمول اور مشروع تھا، اس تفصیل اور تحقیق کے بعد ہم فقہاء کی ان عبارات کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں جن سے مخالفین نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنے کے عدم جواز پر استدلال کرتے ہیں۔

**نمازِ جنازہ کے بعد دعا سے ممانعت کے دلائل اور ان کے جوابات:**

ملا علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

نمازِ جنازہ کے بعد میت کے لیے دعائے کرے کیونکہ اس سے نمازِ جنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، (مرقات المفاتیح ج ۳ ص ۱۷۰، مکتبہ حقانیہ پشاور)۔

ہم نے نمازِ جنازہ کے بعد دعا کو احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ سے ثابت کیا ہے اور ملا علی قاری کی یہ عبارت نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے نہ اثر صحابی ہے، تو اس میں اتنی قوت کہاں سے آگئی کہ یہ احادیث صحیحہ کے مزاحم ہو سکے، تاہم اس کی توجیہ یہ ہے کہ ملا علی قاری نے نمازِ جنازہ کے بعد دعا کو اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے نمازِ جنازہ میں زیادتی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور زیادتی کا شبہ اس وقت ہوگا جب سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح صفیں قائم رہیں، اور لوگ اسی طرح اپنی جگہوں پر ہاتھ باندھے کھڑے رہیں پھر اسی حال میں میت کے لیے دعا کریں، تو یہ شبہ ہوگا کہ یہ دعا بھی نمازِ جنازہ کا جز ہے، لیکن جب سلام پھیرنے کے بعد صفیں ٹوٹ جائیں اور لوگ منتشر ہو کر جنازہ کے گرد جمع ہوں اور ایک بار سورۃ فاتحہ اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھ کر میت کے لیے ایصالِ ثواب کریں اور ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کریں تو پھر کوئی عقل و خرد سے عاری شخص ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یہ دعا نمازِ جنازہ کا جز ہے۔ ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے اس مفہوم کی جو دوسری فقہی عبارات پیش کی ہیں، ان کا بھی بعینہ یہی جواب ہے، اسی طرح بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ ظاہر الروایت میں ہے کہ نمازِ جنازہ کے بعد دعائے کرے اور نوا در میں ہے یہ دعا جائز ہے۔

علامہ محمود بن احمد البخاری متوفی ۶۱۶ھ لکھتے ہیں: ”نمازِ جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے اور نمازِ جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے اور

نوادری کی روایت میں ہے کہ یہ دعا جائز ہے، (المحیط البرہانی ج ۲ ص ۳۳۸، دار احیاء التراث العربی بیروت، ۱۳۲۳ھ)

علامہ زین الدین ابن نجیم متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں: ”نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہ کرے، اسی طرح خلاصۃ الفتاویٰ (ج ۱ ص ۲۲۵) میں ہے اور امام فضلی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

(البحر الرائق ج ۲ ص ۱۸۳، مطبوعہ مکتبہ ماجدہ کوئٹہ)

علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم ابن نجیم حنفی متوفی ۱۰۰۵ھ لکھتے ہیں:

”نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کوئی دعا نہ کرے یہ ظاہر مذہب ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ یہ دعا کرے: رَبَّنَا آتِنَا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور بعض نے کہا یہ دعا کرے: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْهَا آخِرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفُرْ لَنَا وَلَهُ، اور بعض نے کہا یہ دعا کرے: رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا إِلَى آخِرِهِ، (النهر الفائق ج ۱ ص ۳۹۲، قدیمی کتب خانہ کراچی)۔“

علامہ ابراہیم حلبی متوفی ۹۵۶ھ اور علامہ شیخ زاہد داماد آفندی متوفی ۱۰۷۸ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے، (غنیۃ المستملی ص ۵۸۶-۵۸۵، سھیل اکیڈمی لاہور، مجمع الأنھر ج ۱ ص ۲۷۱، مکتبہ غفار یہ کوئٹہ)

فقہاء کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ اگر نماز جنازہ کے سلام پھیرنے کے متصل بعد وہیں کھڑے کھڑے صفیں توڑے بغیر میت کے لیے دعا کی تو یہ ظاہر الروایت میں ممنوع ہے لیکن نوادری کی عبارات میں، امام فضلی اور دیگر متاخرین کی عبارات میں مذکور ہے کہ

اس کیفیت سے بھی نمازِ جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے۔ ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے جو نمازِ جنازہ کے متصل بعد اجتماعی دعا کو بدعت، ناجائز اور حرام کہا ہے، تو ہم عاجز بندوں کے علاوہ حضرت امام محمد اور یہ دیگر متاخرین اکابر امت رحمہم اللہ تعالیٰ بھی ان کے اس فتویٰ کی زد میں آرہے ہیں اور جو انہوں نے ہمیں کوسا ہے، وہ سب امام محمد اور ان فقہاء کی طرف بھی راجع ہو رہا ہے۔

اور اگر نمازِ جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر میت کے لیے دعا کی جائے جیسا کہ مرویہ طریقہ ہے تو پھر یہ کسی کے اعتبار سے بھی ممنوع نہیں ہے اور اس کے جواز اور استحسان میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ نے نمازِ جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت میں لکھا ہے:

سوال: (۳۰۷) نمازِ جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں ٹھہر کر دعا کرنا کیسا ہے؟

جواب: درست نہیں، لمعافی البزازیہ لا یقوم بالدعاء بعد صلوة الجنائزہ لانہ دعامة لان اکثرہا دعاء۔

ترجمہ: ”کیونکہ بزازیہ میں ہے کہ نمازِ جنازہ کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ ہو، کیونکہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے، کیونکہ جنازہ کا اکثر حصہ دعا ہے“، (بزازیہ علی ہامش العالمگیریہ ص ۹۰، ج ۴)، (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۲ (اعداد المفتین کامل) ص ۴۴۴، دارالاشاعت کراچی، ۱۹۷۷ء)۔

دراصل بزازیہ کی یہ عبارت عالم گیری ج ۴ ص ۸۰ کے حاشیے پر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: نمازِ جنازہ کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ رہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ دعا کر چکا ہے

اور نماز جنازہ کا اکثر حصہ دعا پر مشتمل ہے۔ اس ممانعت کا بھی وہی ماحمل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ سلام پھیرے اور صفیں توڑے بغیر دعا کرے، صفیں توڑنے اور لوگوں کے منتشر ہونے کے بعد ممانعت نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فصل کئے بغیر اسی جگہ دعا کرے، تو اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہوگا۔

نماز جنازہ کے متصل بعد اسی حال میں میت کے لئے مزید دعا کی ممانعت کی نظیر وہ احادیث ہیں، جن میں فرض نماز کے متصل بعد بغیر فصل کئے ہوئے نفل نماز پڑھنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے:

نافع بن جبیر نے ایک شخص کو سائب کے پاس بھیجا اور ان سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا جس کو حضرت معاویہ نے ایک شہر میں دیکھا تھا، سائب نے کہا ہاں میں نے ان کے ساتھ المقصورة میں جمعہ پڑھا تھا، جب امام نے سلام پھیرا تو میں اسی جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، حضرت معاویہ نے مجھے بلا کر فرمایا: تم نے جو کیا دوبارہ ایسا نہ کرنا جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اس وقت تک دوسری نماز نہ پڑھو، حتیٰ کہ تم کسی سے بات کر لو، یا وہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے، حتیٰ کہ ہم کسی سے بات کر لیں یا اس جگہ سے چلے جائیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۳، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۱۲۹)

نماز جنازہ میں اصل چیز میت کے لئے دعا ہے سو نماز جنازہ کی دعا کے بعد بغیر فصل کے دوسری دعا نہ کی جائے ہاں کسی سے باتیں کر کے یا اس جگہ سے فصل کر کے دوبارہ

دعا کی جائے تو پھر جائز ہے، جیسے فرض نماز کے بعد فصل کر کے نفل نماز پڑھنا جائز ہے اور متصلاً پڑھنا ممنوع ہے۔

اسی طرح امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں:

ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ایک امام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابو رمحہ تھی اس نے کہا میں نے نبی ﷺ کے ساتھ اس نماز کی مثل نماز پڑھی تھی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پہلی صف میں نبی ﷺ کی دائیں جانب تھے، اور ایک شخص نماز میں پہلی تکبیر کے ساتھ موجود تھا، نبی کریم ﷺ نے دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرا، حتیٰ کہ ہم نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی۔ پھر جس شخص نے پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ اٹھ کر فوراً دو رکعت نماز پڑھنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اور اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر کہا بیٹھ جاؤ کیونکہ سابقہ اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں فصل نہیں کرتے تھے، پھر نبی کریم ﷺ نے نظر اٹھا کر حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا: ”اے ابن الخطاب! اللہ تم کو صواب پر برقرار رکھے“، (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۰۰۷)۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فرض نماز اور نفل نماز میں فصل ہونا چاہئے خواہ کوئی بات کر لی جائے یا جگہ بدل لی جائے، اور نماز جنازہ کے متصل بعد اگر اسی جگہ دوبارہ میت کے لئے دعا کی جائے تو وہ بھی اسی حکم میں ہے، لہذا جن فقہاء نے نماز جنازہ کے متصل میت کے لئے دعا کرنے سے منع کیا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ اس سے نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہوگا، اور جب سلام پھیرنے، صفیں ٹوٹنے

اور نمازیوں کے جگہ بدلنے کے بعد دعا کی جائے گی تو پھر نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا بہر حال مستحسن ہوگا۔

دارالعلوم دیوبند کے مفتی اول مفتی عزیز الرحمن صاحب لکھتے ہیں:

سوال (۳۱۳۳) : بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں (نمازیوں) کا ایصال ثواب کے لئے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑھنا یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔

جواب: اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اس کو رسم کر لینا اور التزام کرنا مثل واجبات کے اس کو بدعت بنا دے گا، (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مدلل مکمل ج ۵ ص ۴۳۵-۴۳۴، دارالاشاعت کراچی)۔

اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد کچھ فصل کر کے دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب اور مسنون ہے، مثل واجبات کے التزام کرنا ہمارے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مثل واجبات کے التزام کا معنی یہ ہے کہ نہ کرنے والے کو ملامت کیا جائے اور اس کی مذمت کی جائے اور اس کو کبھی ترک نہ کیا جائے اور کبھی ترک ہو جائے تو اس کی قضاء کی جائے اور اہل سنت اس طرح نہیں کرتے۔

ضرب مومن کے مفتی صاحب نے اس بات کو کافی زور دے کر کہا ہے کہ نماز جنازہ میں سلام سے پہلے خود دعا مذکور ہے، جو اللہم اغفر لحنینا الخ۔ پڑھی جاتی ہے، اب اگر سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا پڑھی جائے تو یہ محض تکرار ہوگا، اس لئے نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ پانچوں



فرض نمازوں میں بھی سلام پھیرنے سے پہلے رب اجعلنی الخ یا انی ظلمت الخ دعا پڑھی جاتی ہیں جبکہ تمام مساجد میں پانچوں فرض نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ سوزرب مومن کے مفتی کو چاہیے کہ وہ اپنے مکتب فکر کی مساجد میں فرض نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کرنے سے منع کریں، حالانکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرض نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا فرماتے تھے۔

**ضرب مومن کے مفتی صاحب کی حوالہ جات میں تحریف اور خیانت:**

ضرب مومن کے مفتی صاحب نے ابادیتِ اصلیہ پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے:

یہ قاعدہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، فقہاء کرام اور علمِ اصول کے ماہرین کے ہاں اتفاق نہیں بلکہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد کا قول یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل توقف ہے، جب تک کسی جانب پر دلیل قائم نہ ہو، اسے جائز یا ناجائز نہیں کہا جاسکتا، شیخ ابو منصور ماتریدی، عام محدثین اور اشعریہ سب کا یہی مذہب ہے، (شامیہ: ۱۶۱/۳)۔

”علیٰ ماہو المنصور من أن الاصل فی الاشیاء التوقف“

مذہب منصور یہ ہے کہ اشیاء میں اصل توقف ہے، (در مختار: ۱۰۵/۱)۔

”أن الصحیح من مذہب اهل السنة أن الاصل فی الاشیاء التوقف“،

اہل سنت کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اشیاء میں اصل توقف ہے، (حوالہ بالا: ۱۶۱/۳)۔

ضرب مومن کے مفتی نے جو محمولہ بالا عبارت نقل کی ہے، وہ علامہ شامی کی

ردالمحتار میں نہیں ہے بلکہ علامہ علاؤ الدین حصکھی کی عبارت ہے، جو درمختار میں ہے، جبکہ انہوں نے شامی کا حوالہ دیا ہے، علامہ شامی درمختار کی اس عبارت کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اقول: نو صرح فی "التحریر" بان المختار أن الاصل الاباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ. وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في "الهداية" من فصل الحداد: وفي "الخانية" من اوائل الحظر والاباحة۔ وقال في "شرح التحرير" وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية واكثر الحنفية لا سيما العراقيين، قالوا: واليه اشار محمد فيمن هدد بالقتل على اكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما، لأن اكل الميتة وشرب الخمر لم يحرم الا بالنهي عنهما، فجعل الاباحة اصلا والحرمة بعارض النهي اهـ. ونقل ايضا انه قول اكثر اصحابنا واصحاب الشافعية الشيخ اكمل الدين في "شرح اصول البزدوى" وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الاباحة رأى المعتزلة: فيه نظر، فتدبر۔

ترجمہ: میں کہتا ہوں "التحریر" میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ جمہور احناف اور شوافع کے نزدیک مختار یہ ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور علامہ ابن ہمام کے شاگرد علامہ قاسم نے اس کی اتباع کی ہے۔ اور "الهدایہ" کی فصل الحداد میں بھی یہی ذکر ہے اور فتاویٰ قاضی خان کے "الخط والاباحة" کے اوائل میں بھی یہی ہے، اور تحریر کی شرح

میں مذکور ہے کہ یہ بصرے کے معتزلہ اور اکثر شوافع اور اکثر احناف، خاص طور پر عراقیین کا قول ہے اور امام محمد نے بھی اسی پر یہ مسئلہ متفرع کیا ہے کہ جس آدمی نے کسی کو یہ دھمکی دی کہ تم مردار کھاؤ یا شراب پیو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس شخص نے ایسا نہیں کیا لہٰذا کہ دھمکی دینے والے نے اس کو قتل کر دیا، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ شخص گناہ گار ہوگا کیونکہ مردار کھانا اور شراب پینا صرف قرآن کی ممانعت کی وجہ سے حرام ہیں، پس امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اباحت کو اصل قرار دیا اور کہا کہ تحریم ممانعت کے عارض ہونے کی وجہ سے ہے، شرح اصولی بزدوی میں بھی یہی لکھا ہے کہ:

”اباحت کا اصل ہونا ہمارے اکثر اصحاب اور شافعی کے اکثر اصحاب کا قول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شارح یعنی علامہ حصکفی نے استیلاء الکفار کے باب میں جو یہ لکھا ہے کہ اباحت معتزلہ کی رائے ہے، اس پر اعتراض ہے، ہمیں اس میں غور کرنا چاہئے۔“ (رد المحتار علی الدر المختار جلد ۱ ص: ۱۹۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے جو کہا ہے کہ اباحتِ اصلیہ کا قاعدہ عبادت میں جاری نہیں ہوتا، اس سے مراد اگر یہ ہے کہ اس قاعدے سے کسی فرض عبادت کو ایجاد نہیں کیا جاسکتا، تو یہ صحیح ہے اور علامہ شاطبی کی جو عبارت مفتی صاحب مذکور نے نقل کی ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرض عبادت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اباحتِ اصلیہ کے قاعدے سے اگر کوئی شخص پانچ نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز کو

ایجاد کرے تو بالاتفاق جائز نہیں ہے، کیونکہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، اور جب علامہ شاطبی نے چھٹی نماز ایجاد کرنے پر گفتگو کی ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ اباحتِ اصلیہ کے قاعدہ کو فرائض میں جاری کرنے سے منع کر رہے ہیں نہ کہ نوافل میں، لہذا اس قاعدے سے کسی فرض عبادت کو ایجاد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نوافل میں اس قاعدے کے جاری ہونے میں کوئی امر مانع نہیں ہے اور ہم بتا چکے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفیں توڑ کر کچھ وقفے سے دعا کرنا، نقلی دعا کے عموم میں آتا ہے لہذا اباحتِ اصلیہ سے بھی اس کے جواز پر استدلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اصل دلیل یہ نہیں ہے بلکہ یہ دلیل بالتبع ذکر کی گئی ہے اصل دلائل وہی ہیں، جن کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، نیز ضربِ مومن کے مفتی صاحب کا اباحتِ اصلیہ کے قاعدے کو رو د شرع سے پہلے کے ساتھ خاص کرنا اور رو د شرع کے بعد صرف اموال کے ساتھ خاص کرنا، یہ بھی باطل ہے، کیونکہ علامہ شامی نے جو امام محمد سے یہ نقل کیا ہے کہ:

”کسی شخص نے دوسرے کو یہ دھمکی دی کہ تم مردار کھاؤ یا شراب پیو ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا اور اس نے نہ شراب پی نہ مردار کھایا اور دھمکی دینے والے نے اس کو قتل کر دیا تو امام محمد نے فرمایا: وہ شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ جان بچانے کی خاطر اس کے لئے یہ مباح تھا کہ شراب پی کر اور مردار کھا کر اپنی جان بچالیتا۔ اور امام محمد نے یہ استدلال اباحتِ اصلیہ سے کیا ہے اور یہ جزئیہ رو د شرع کے بعد کا ہے اور اموال سے متعلق نہیں ہے، لہذا مفتی مذکور کا اس قاعدے کو رو د شرع سے پہلے کے ساتھ خاص کرنا یا

ورودِ شرع کے بعد اموال کے ساتھ خاص کرنا قطعاً باطل ہو گیا۔

**ضربِ مومن کے مفتی صاحب کا تجاہل عارفانہ:**

[ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے دعائیں سینے سے اوپر ہاتھ اٹھانے کو بدعت قرار دیا ہے

اور یہ حدیث نقل کی ہے، حدیث کا متن یہ ہے، جس کا ہم ترجمہ لکھ رہے ہیں:

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تمہارا دعائیں سینے سے اوپر ہاتھ اٹھانا بدعت ہے، رسول اللہ ﷺ نے سینے سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے،“

(مسند احمد جلد ۲ ص: ۶۱)

ضربِ مومن کے مفتی صاحب کی جہالت یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی سند پر غور نہیں کیا، علامہ شعیب الأرنؤوط نے اس حدیث کی تحقیق میں لکھا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، حضرت ابن عمر کے اس قول کو بشر بن حرب الأزدی نے روایت کیا ہے، اس کو ابن معین اور ابو زرعة اور نسائی اور ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا اور امام بخاری نے کہا کہ علی بن المدینی نے اس کو ضعیف قرار دیا، امام احمد نے کہا: یہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔

(حاشیہ مسند احمد جلد ۹ ص: ۲۰۲ رقم الحدیث: ۵۲۶۳ مطبوعہ مؤسسة الرسالة

، بیروت ۱۴۱۶ھ)

علاوہ ازیں یہ ضعیف حدیث احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، اس لئے یہ حدیث

منکر بھی ہے، ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے لکھا کہ:

اس سے واضح ہوا کہ سائل اور اس جیسے جتنے لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں، وہ اسے لازم سمجھتے ہیں، نہ کرنے والے کو گمراہ کہتے ہیں اور مختلف برے القاب سے یاد کرتے ہیں، ان سارے امور کے باوجود منسلک فتویٰ میں (مفتی صاحب) نے اس کو جائز ہی کہا ہے، ایسے مفتیوں پر یہ قول سو فیصد صادق ہے، من جہل باہل زمانہ فہو جاہل۔

اس عبارت میں ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے نہ صرف خود اپنی جہالت کو ظاہر کیا ہے بلکہ اپنے کذاب اور مفتری ہونے کا بھی ثبوت دیا، کیونکہ ہم نے اپنے فتویٰ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ نمازِ جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا لازم ہے، نہ ہم نے دعا نہ کرنے والوں کو گمراہ کہا تھا یا ان کا کسی برے لقب سے ذکر کیا تھا، البتہ ہم نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، جو بغیر شرعی دلیل کے نمازِ جنازہ کے کچھ وقفے بعد صفیں توڑ کر اجتماعی دعا کرنے کو ناجائز، حرام اور بدعت کہتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ مسند احمد کی یہ حدیث، درج ذیل احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے، اس لئے یہ حدیث منکر ہے۔

اب ہم چند احادیث صحیحہ پیش کر رہے ہیں:

”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی“، (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۰، صحیح مسلم باب الاستقاء، جلد ۵ (۸۹۵) ۲۰۴۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۷۲۸)۔

”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے اپنا اور حضرت ابو عامر کا ماجرا عرض کیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے کہنا

کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ نے پانی منگوایا وضو کیا اور دونوں ہاتھ بلند کئے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ! اپنے بندے ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے نبی ﷺ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے کہا: اے اللہ! قیامت کے دن اس کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما، میں نے عرض کیا: اور میرے لئے بھی مغفرت کی دعا کیجئے، آپ نے فرمایا: اے اللہ! عبد اللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کو قیامت کے دن عزت کی جگہ میں داخل کر دے، (بخاری رقم الحدیث: ۴۳۲۳، صحیح مسلم باب فضائل صحابہ: ۱۶۵ (۲۳۹۸) ۲۶۸۹، سنن کبریٰ للبیہقی جلد ۵ رقم الحدیث: ۸۷۸۱)۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اخلاص اس طرح ہے، آپ نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کیا اور یہ دعا ہے، آپ نے دونوں ہاتھ کندھوں تک بلند کئے اور یہ ابہتال ہے، پھر آپ نے اور زیادہ ہاتھ بلند کئے۔“ (کتاب الدعاء للطبرانی رقم الحدیث: ۲۰۸)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ دعا میں دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی“ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۷۱، مسند البزار رقم الحدیث: ۳۱۳۷، مجمع الزوائد جلد ۱۰، ص: ۱۶۸)۔

**ضربِ مومن کے مفتی صاحب کی بدعت کی تعریف میں تحریف:**

ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے لکھا ہے: ”عبادات کے متعلق اصل قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت جس طریقے سے ثابت ہو، وہ جائز ہوگی اور جو چیز بطور عبادت

رسول اللہ ﷺ، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوگی اور اس کا بطور عبادت انجام دینا بھی جائز نہ ہوگا، بعض اوقات کوئی چیز بطور عبادت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے لئے خاص جگہ یا وقت یا کیفیت کی تعیین کا ثبوت نہیں ہوتا تو ایسی عبادت کے لئے اپنی طرف سے ان چیزوں کی تعیین و تخصیص بھی ناجائز ہوگی، کسی غیر ثابت چیز کو بطور عبادت انجام دینے یا کسی ثابت شدہ عبادت میں اپنی طرف سے کیفیات و اوقات کی تعیین و تخصیص کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں جو باجماع امت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ علامہ ابواسحاق شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

لا یصح ان یقال فی ما یتعبد بہ : أنه مختلف فیہ علی قولین : هل هو علی الممنوع ام علی الاباحۃ -- لأن التعبدیات انما وضع الشارع، فلا یقال فی صلوة سادسة مثلا انها علی الاباحۃ ، فللمكلف وضعها علی احد القولین ، لیتعبد بها اللہ ، لأنه باطل باطلاق“، (الاعتصام: ۱ / ۳۰۱)

ترجمہ: ”عبادات کے متعلق یہ کہنا درست نہیں کہ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ اصل کے اعتبار سے (دلیل آنے سے پہلے) ممنوع ہیں یا مباح، کیونکہ عبادت کو شارع (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ) ہی نے مقرر کیا ہے (اور جو شریعت میں ثابت نہ ہو وہ عبادت نہ ہوگی بلکہ ناجائز و حرام کام ہوگا)، فرض کیجئے کہ اگر کوئی شخص چھٹی نماز ایجا کرے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”اصل اباحت ہے“ کے اصول سے اس کے لئے یہ کام جائز ہے اور اس کو اس طرح



ایجاد کا حق ہے بلکہ اس کا یہ فعل مطلقاً باطل (اور شرعی رو سے قطعاً ناقابل اعتبار) ہے۔“

ضربِ مومن کے مفتی صاحب نے بدعت کی تعریف میں حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی مخالفت کو بھی شامل کر لیا ہے، حالانکہ صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین غیر معصوم ہیں اور شارع نہیں ہیں، سو ان کے افعال یا احوال کی مخالفت کو بدعت قرار دینا غلط ہے، شارع صرف نبی ﷺ ہیں تو آپ ﷺ کے قول و فعل کی مخالفت تو بدعت ہے، لیکن صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین کے اقوال کی مخالفت بدعت نہیں ہے، دیکھئے!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہی کو جب پانی نہ ملے تو اس کے لیے تیمم کو جائز نہیں کہتے تھے (صحیح البخاری: ۳۳۷-۳۳۶) جبکہ پوری امت کے نزدیک جنہی کے لئے بھی تیمم کرنا جائز ہے، تو کیا اس مسئلہ میں حضرت عمر و حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پوری امت بدعتی ہوگی؟

اسی طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما ایامِ حج میں عمرہ کرنے سے منع کرتے تھے (صحیح البخاری: ۱۵۶۳، سنن ترمذی ۸۲۳) جبکہ پوری امت کے نزدیک ایامِ حج میں عمرہ کرنا جائز ہے اور ایامِ حج میں پوری امت عمرہ کرتی ہے، تو کیا حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پوری امت بدعتی ہوگی؟

اسی طرح حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کا انکار کرتی

تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حسب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے (صحیح مسلم ۱۷۷: ۱)، جب کہ امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حسب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو کیا امت کی اکثریت اس عقیدے کی وجہ سے بدعتی ہوگی؟

اسی طرح کئی مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دوسرے صحابہ سے اختلاف تھا اور خود صحابہ کا بھی آپس میں مسائل میں اختلاف تھا، مثلاً تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کرنے میں، آمین بالجبر میں، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے میں اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں، تو ایک دوسرے کی مخالفت کی وجہ سے یہ صحابہ کرام بدعتی ہو گئے؟، اسی طرح تابعین کے درمیان بھی بے شمار مسائل میں اختلاف رہا ہے، تو کیا وہ بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بدعتی ہوئے؟۔

نیز ضرب مؤمن کے مفتی صاحب نے ائمہ مجتہدین کی مخالفت کو بھی بدعت قرار دیا ہے جب کہ اکثر مسائل میں ائمہ مجتہدین کا ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح ان کے مقلدین کا بھی دوسرے ائمہ مجتہدین سے اختلاف ہوتا ہے، تو ضرب مؤمن کے مفتی صاحب کی اس تعریف کی بناء پر لازم آئے گا کہ پوری امت بدعتی ہو اور حرام اور گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو، العیاذ باللہ۔

نیز ضرب مؤمن کے مفتی صاحب نے اپنی خود ساختہ بدعت کی تعریف کی تائید میں علامہ ابواسحاق شاطبی کی جو عبارت نقل کی ہے، اس میں بھی صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی مخالفت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ عبادات صرف شارع کے مقرر کرنے سے ثابت ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ شارع صرف

نبی ﷺ ہیں، صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین شارح نہیں ہیں۔  
یہی وجہ ہے کہ جمہور محققین نے بدعت کی تعریف میں صرف رسول اللہ ﷺ  
کی مخالفت کرنے کو بدعت کہا ہے، علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز متوفی  
۱۲۵۲ھ بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں:

بما نھا ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن رسول اللہ ﷺ : من علم  
أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل ديناً قویماً و صراطاً  
مستقیماً اہ۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ سے جو برحق چیز منقول ہے، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو یا حال  
ہو، اس کے خلاف جس کام کو کسی قیاسِ خفی یا شبہ کی بناء پر ایجاد کیا جائے اور اس کو صحیح  
دین اور صراطِ مستقیم بنا لیا جائے، وہ بدعتِ سیدہ ہے“، (ردالمحتار علی  
الدرالمختار: جلد ۲، ص: ۲۵۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ سید احمد طحاوی حنفی متوفی ۱۲۳۲ھ نے بھی بعینہ بدعت کی یہی تعریف لکھی ہے۔  
(حاشیہ الطحاوی علی الدرالمختار جلد ۱، ص: ۲۳۳، مطبوعہ دار المعرفہ، بیروت ۱۳۹۵ھ)  
علامہ حسن بن عمار شرمبلی متوفی ۱۰۶۹ھ نے بھی بعینہ بدعت کی یہی تعریف لکھی ہے  
(مراقی الفلاح، ص ۱۸۱، مطبوعہ مصطفیٰ البابی مصر ۱۳۵۶ھ)۔

اور علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۰۶ھ نے لکھا ہے:

البدعة بدعتان : بدعة هدی و بدعة ضلال ، فما كان فيه خلاف ما امر الله  
به ورسوله ﷺ فهو في حيز النم والانكار۔

ترجمہ: ”بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سیدہ، جو کام اللہ تعالیٰ اور اس  
کے رسول اللہ ﷺ کے احکام کے خلاف ہو، وہ مذموم اور ممنوع ہے“، (النهاية

جلد ۱ ص: ۱۰۶ مطبوعہ مؤسسہ اسماعیلیان قم الطبعة الرابعة ۱۳۶۲ھ)۔  
 علامہ طاہر بیٹی متوفی ۹۸۶ھ نے بھی بدعت کی اسی طرح دو قسمیں بیان کی ہیں، (مجمع  
 بحار الانوار جلد ۱ ص: ۸۰ مطبوعہ مطبع نوکشمور ہند)۔

علامہ جمال الدین ابن منظور متوفی ۷۱۱ھ نے بھی علامہ ابن اثیر کی مذکورہ صدر پوری  
 عبارت نقل کی ہے، (لسان العرب ج ۸ ص: ۶ مطبوعہ نشر ادب الخوزہ قم ایران  
 ۱۴۰۵ھ)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: البدعة اصلها ما احداثت علی  
 غیر مثال سابق وتطلق فی الشرع علی مقابل السنة فتكون مذمومة۔  
 ترجمہ: ”لغت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں، جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اصطلاح  
 شرع میں سنت کے مقابلے میں بدعت کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے یہ مذموم  
 ہے“، (فتح الباری جلد ۲ ص: ۷۸۲ مطبوعہ دار الفکر ۱۴۲۰ھ)۔

شیخ محمد بن علی شوکانی نے بھی حافظ ابن حجر کی اس عبارت کو نیل الاوطار  
 (جلد ۳ ص: ۳۲۵ مطبوعہ مکتبۃ الکلیات الازہریہ طبعہ جدیدہ ۱۳۹۸ھ) میں نقل کیا  
 ہے۔

ان کثیر عبارات سے یہ واضح ہو گیا کہ تمام مستند اور محقق علماء نے بدعت کی تعریف میں  
 صرف رسول اللہ ﷺ کی مخالفت یا سنت کی مخالفت کا ذکر کیا ہے اور کسی نے بھی  
 صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مجتہدین کی مخالفت کو بدعت نہیں کہا، یہ صرف ضربِ مؤمن  
 کے ”مفتی“ کی خود ساختہ اور سینہ زادرائے ہے اور یہ ان تمام دلائل سے باطل ہے، جو  
 ہم نے اوپر ذکر کئے۔ نوٹ: علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو بدعت کی تعریف کی  
 ہے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کوئی عمل خیر جو اپنی موجودہ ہیبت کے ساتھ

رسول اللہ ﷺ سے منقول یا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا منشا سنت میں موجود ہے، تو اسے بدعت (ضالہ یا سنیہ) نہیں کہا جائے گا، مثلاً باجماعت نماز تراویح کا اہتمام اور ان میں قرآن مجید کی منزل کا پڑھنا، قرآن مجید کا ترتیب تو قیفی کے مطابق مصحف مقدس میں جمع کرنا اور پھر اسے صرف ایک لغت قریش پر عام کرنا وغیرہ۔ اسی طرح جو چیز یا عمل خیر اپنی موجودہ ہیئت کے ساتھ عہد خلافت راشدہ یا عہد صحابہ میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کا منشا سنت میں موجود تھا، تو اسے بدعت (ضالہ یا سنیہ) نہیں کہا جائے گا، جیسے مساجد میں محراب و مینار، ان تمام علوم کی ایجاد و تدوین (مثلاً) صرف، نحو، معانی، بلاغت، بیان اور بدیع وغیرہ)، جن پر فہم قرآن و سنت کا مدار ہے، احادیث کی تنقیح اور ان کی صحیح، حسن، خیر متواتر، مشہور، عجیب و غریب، ضعیف، منکر، شاذ، معلل وغیرہ میں تقسیم اور علم اسماء الرجال کی تدوین و ارتقاء وغیرہ، موجودہ انداز میں مدارس، دینی لٹریچر اور تبلیغی جماعتوں کا قیام، مداعی کے ساتھ تبلیغی اجتماعات کا قیام، فرق باطلہ ضالہ کا رد، مدارس کے سالانہ، صد سالہ و ڈیڑھ سو سالہ اجتماعات و جلسہ ہائے دستار بندی افتتاح بخاری و ختم بخاری و دیگر دروس کا اہتمام و اعلان وغیرہ۔

ضرب مومن کے مفتی صاحب نے علامہ حلبي کی عبارت لکھی ہے کہ:

”قال الحلبي في شرح المنية: ”وما يفعل بعد الصلوة فمكروه، لأن الجهال

يعتقدونها سنة او واجبة، و كل مباح يؤدي الى هنا فمكروه۔“

علامہ حلبي رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد جو لوگ سجدہ شکر

کرتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، اس لئے کہ جاہل لوگ اس اجتماعی ہیئت کو سنت یا

ضروری سمجھتے ہیں اور ہر مباح چیز جب اس کو سنت یا لازمی چیز کا درجہ دیا جائے،

وہ مکروہ بن جاتی ہے۔ (ص: ۶۱۷)

اس کا جواب یہ ہے:

علامہ حلبي کی یہ عبارت ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نمازِ جنازہ کا سلام پھیرنے اور صفیں توڑنے کے کچھ وقفے بعد اجتماعی دعا کرنے کو صرف مباح نہیں کہتے، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم باحوالہ اس کو ثابت کر چکے ہیں، اور اس بناء پر ہم اس کو مستحب عمل کہتے ہیں اور علامہ حلبي کی یہ عبارت صرف مباح عمل کے متعلق ہے، لہذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔

ہم نے جن جن کضررہ مومن کے مفتی صاحب کے تمام اعتراضات کے جوابات لکھ دیئے ہیں اور ضررہ مومن کے مفتی صاحب کے تمام شبہات کا ازالہ نامہ کر دیا ہے اور آفتاب سے زیادہ اس حقیقت کو روشن اور تابندہ کر دیا ہے کہ نمازِ جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد صفیں توڑ کر کچھ وقفے سے میت کے لئے ایصالِ ثواب کرنا اور اس کی مغفرت کی اجتماعی دعا کرنا جائز اور مستحسن ہے، بلکہ امام محمد کی کتب نوادر کے مطابق فقہاء متاخرین نے لکھا ہے کہ نمازِ جنازہ کے متصل بعد دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے باحوالہ بیان کر چکے ہیں، ہم اس کو فرض یا واجب یا لازم نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ اجتماعی دعا نہیں کرتے، ہم ان کو ملامت نہیں کرتے اور نہ برا کہتے ہیں، البتہ جو لوگ بغیر شرعی دلائل کے اس مستحب کام کو بدعت، ناجائز اور حرام کہتے ہیں، ان کا ردِ بلیغ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے اس جواب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

## ﴿کتاب الزکوٰۃ﴾ مسائل زکوٰۃ

سوال: 38

ایسی جائیداد جس کی کرایہ کی آمدن سے ذاتی اخراجات پورے کئے جائیں۔ اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، جبکہ کئی مرتبہ کچھ حصہ خالی بھی پڑا رہتا ہے، (میاں ظفر حسین E3 Evenu Town Clifton View, f2)۔

جواب:

صورت مسئلہ میں ایسی جائیداد (یعنی مکان یا دکان وغیرہ) جو کرائے پر دی ہوئی ہے، خواہ کبھی خالی بھی رہ جاتی ہو، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس کے کرائے سے جو آمدنی ہو رہی ہے، وہ آپ کی مجموعی آمدنی میں جمع ہو جائے گی، اور دورانِ سال تمام ذرائع سے جو آمدنی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور اس میں سے آپ کے اخراجات ہوتے رہتے ہیں، اختتامِ سال پر جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب نکالیں گے، تمام ذرائع کی آمدنی سے جو مجموعی رقم بچ رہے گی، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ہمارے ہاں تشخیصِ زکوٰۃ کے بارے میں ایک غلط تصور ذہنوں میں راسخ ہے کہ آمدنی یا جمع شدہ مال کی ہر ہر مد کے بارے میں الگ الگ سوال پوچھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کرایہ مکان، دکان، گودام، دکان و کاروبار، کارخانہ، انوسمنٹ کی نیت سے لئے ہوئے پلاٹس اور سونا، چاندی کے زیورات وغیرہ کی مالیت سمیت تمام ذرائع آمدن کو یک جا کر کے مجموعی مالیت نکالنا ہوتی ہے، سال کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ خود ہی منہا ہو جاتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ سال کے اختتام پر جو بچت ہے، اس پر ہوتی ہے۔

سوال: 39

مندرجہ بالا کے علاوہ خالی پلاٹ جو کاروباری نقطہ نظر سے خریدے اور فروخت کئے

جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں زکوٰۃ کا تعین کس طرح کیا جائے؟

**جواب:**

ان کی جو موجودہ ممکنہ قیمت فروخت ہے، اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔

**سوال: 40**

میرا ارادہ آبائی گاؤں میں ذاتی زمین پر دینی مدرسہ قائم کرنے کا ہے۔ کیا اس کی تعمیر میں ذاتی یا کسی عزیز، دوست کی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے؟، کیا کسی دینی مدرسہ کی تعمیر و توسیع میں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جاسکتی ہے؟۔

**جواب:**

مدرسہ کی تعمیر پر براہ راست زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا درست نہیں، اور اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہاں کسی نادار مستحق زکوٰۃ شخص کو زکوٰۃ کی رقم دے دی ہو، اور اس کا مالک بننے کے بعد اپنی آزادانہ مرضی سے اسے ان کاموں پر خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، تملیک کا مطلب یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو مال زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے اور جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے وہاں زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد یا مدرسہ یا ان کے علاوہ کوئی ادارہ خواہ یتیم خانہ ہو یا ہسپتال شرط تملیک کے فقدان کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اگر تعمیر مسجد یا مدرسہ کی ضرورت ہو اور تعمیری اخراجات کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو حیلہ کر کے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم سے مسجد اور مدرسہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ حیلہ کی صورت یہ ہے کہ کسی مستحق کو زکوٰۃ یا فطرے کی رقم دے دی جائے اور وہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد اپنی رضا و رغبت سے فقیر وہ رقم تعمیر مسجد یا مدرسہ کیلئے دے دے۔ پھر اس رقم سے مسجد اور مدرسہ تعمیر کرنا درست ہوگا۔

درمختار جلد دوم ص 12 پر ہے:

و حيلة التکفین بہما التصدق علی فقیر ثم ہو یکفن فی کون الثواب لهما



### مسئلہ زکوٰۃ

#### سوال: 41

مجھے آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسئلے کا حل درکار ہے، مفتی صاحب میری مالی حالت صحیح نہیں ہے اور گھر میں کوئی زیور وغیرہ بھی نہیں ہے اور میں 30,000 روپے کا مقروض ہوں۔ میری بچی ایک ادارے میں قرآن پاک حفظ کر رہی ہے، اور اس ادارے کی ماہانہ فیس ایک ہزار روپے ہے، جو کہ مجھے ادا کرنا ہوتی ہے، لہذا کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں؟، (فرید خان، گاؤں شرینگل ضلع دیر صوبہ سرحد)۔

#### جواب:

اگر آپ کا بیان درست ہے اور آپ کے پاس ضروریاتِ زندگی سے 612.36 گرام چاندی کی مرہبہ قیمت کے برابر بھی رقم فاضل نہیں ہے، تو آپ مستحق زکوٰۃ ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اور آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### مسئلہ زکوٰۃ

#### سوال: 42

میرے دو بڑے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے میری گھریلو زندگی بہت متاثر ہے گھر میں اکثر ناچاتی رہتی ہے۔ میری شادی کو اس ماہ 15 سال ہو جائیں گے لیکن میں نے آج تک اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے میرے پاس دونوں طرف سے ملا کر 35 40 تو لے سونا ہے۔ شروع میں ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے، میرے شوہر کی اُس وقت ساڑھے تین ہزار روپے تنخواہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے دو، تین بار کہا کہ آپ ہر ماہ مجھے (جتنی سہولت ہو) زکوٰۃ کے نام کے پیسے دے دیا کریں، سال کے آخر میں جتنی کمی ہوگی ہم کوئی زیور بیچ کر ادا

کر دیں گے لیکن وہ نہیں مانتے۔ ان کے والدین بھی ساتھ ہی تھے لیکن والد اچھا کھاتے تھے۔ دس سال تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں رہے گذشتہ 5 سالوں سے اللہ کا بہت کرم ہے اس کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہیں، لیکن میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں گذشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا، وہ مجھ پر فرض نہیں ہے، نہ میرا جیب خرچ دیتے ہیں، نہ ہی میرا کوئی ذریعہ آمدنی ہے، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں، اگر ہر سال زیور بیچتی رہی تو بچیوں کیلئے کیا رکھوں گی۔ برائے مہربانی شرعاً بتائیں کہ میرے اور میرے شوہر کے لئے کیا حکم ہے؟، (عالیہ، کراچی)۔

**جواب:**

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ط**

ترجمہ: ”(اے حبیب ﷺ!) آپ مومنوں کے مال سے صدقہ (زکوٰۃ) لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کریں“، (التوبہ: 103)۔  
اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مال ہی میں سے ہوگی، اگر نقد رقم موجود نہ ہو تو سونے، چاندی ہی میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

حدیث مبارک ہے: **عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله ﷺ، ومعها ابنة لهما، وفي يدي ابنتهما مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لهما: أتعمطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: "أيسرك ان يسورك الله بهما يوم القيمة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فالفتهما الى النبي ﷺ وقالت: هما لله ولرسوله“۔**

ترجمہ: ”عمرو بن شعيب اپنے والد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا ”نہیں“ حضور ﷺ نے فرمایا ”تو کیا تم اس بات پر خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ (زکوٰۃ نہ دینے کی بناء پر) ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ (وعدہ عذاب) سنتے ہی اس نے وہ کنگن اتار کر رسول اللہ ﷺ کو دے دیئے اور عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہیں (یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی راہ میں صدقہ ہیں)۔

(سنن ابی داؤد، جلد ۲، رقم الحدیث ۱۵۵۸، مطبوعہ موسسہ الریان، بیروت)

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، یہ خیال کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال گھٹتا ہے، زرا ضعفِ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ط

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، (البقرہ: ۲۷۶)۔

بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں، احمق نادان انھیں نہ تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، پر عاقل ہوشمند تو جانتا ہے کہ ان کے چھانٹنے سے یہ نونہال لہلہا کر درخت بنے گا ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا، یہی حساب زکوٰۃ مال کا ہے۔ حدیث میں حضور پر نور سید عالم ﷺ فرماتے ہیں، ”مما خالطت الصلقة و مال الزکوٰۃ مالا آلا افسدته

۔ رواہ البزار والبیہقی عن ام المومنین المصديقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ترجمہ: زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا اسے بزار اور بیہقی نے ام المومنین الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، (فتاویٰ رضویہ جلد 10 ص: 172، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)

جو مقدار سونے کی آپ نے بیان کی، آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ کی

اداائیگی کا کوئی دوسرا ذریعہ آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ اسی سونے میں سے چالیسواں حصہ (1/40 یا 2.5 فیصد) زکوٰۃ ادا کرتی رہتیں۔ قرآن کے صریح حکم کا مطلب یہ ہے کہ جو مال (سونے، چاندی، نقد یا مال تجارت کی صورت میں) آپ کے پاس ہے، ہر اسلامی قمری سال کے اختتام پر اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اس سونے کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ دیں، نقد رقم کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نقد رقم کی صورت میں اداائیگی تو ہم اپنی سہولت کیلئے کرتے ہیں، کیونکہ ہم سونے یا زیور کو اسی شکل میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، لہذا گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ بدستور آپ پر واجب الادا ہے۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی نقد رقم ان برسوں میں فاضل نہیں بچی تو آپ زکوٰۃ کا حساب اس طرح کریں گے کہ مثلاً سونا 100 گرام ہے تو سال اول کے اختتام پر 2.5 گرام زکوٰۃ لازم ہوگئی، اب اگلے سال 97.5 گرام کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے، اسی طرح سے سال بہ سال کا حساب ہوگا۔ بچیوں کیلئے زکوٰۃ روک کر بچانا آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے، اگر سونے کی ملکیت آپ کے نام ہے، تو زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ ہے، شوہر پر لازم نہیں، وہ اس سلسلہ میں آپ سے تعاون کریں تو ان کی مہربانی ہے، اور خوشگوار عائلی زندگی کا مدار باہمی مروت اور فضل و احسان پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں اور جن بچیوں کیلئے آپ سونا بچا کر رکھنا چاہتی ہیں، وہ ان کی بھی اولاد ہے، لیکن جس سونے کی زکوٰۃ دنیا میں ادا نہ کی گئی ہو تو اس کے بارے میں قرآن وحدیث میں سخت وعید ہے کہ اسے آگ میں گرم کر کے اس سے داغا جائے گا۔

زکوٰۃ بفطرہ، صدقات واجبہ اور قربانی کی کھال کے مصارف

### سوال: 43

زکوٰۃ، فطرہ، صدقات واجبہ اور قربانی کی کھالیں ایسے مدرسہ میں جس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ فی الحال اس میں محلے کے بچے پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں البتہ اس

میں باقاعدہ اقامتی طلبہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ جن کے تمام اخراجات کا مدرسہ ذمہ دار ہوگا۔ ایسے مدرسہ میں زکوٰۃ، فطرہ، صدقات واجبہ اور قربانی کی کھالیں دی جاسکتی ہیں، (علی زمان، اورنگی ٹاؤن کراچی)۔

### جواب:

زکوٰۃ کی ادائیگی کیلئے تملیک فقیر شرط ہے جہاں تملیک نہ پائی جائے وہاں زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ، مستحق زکوٰۃ کو مال زکوٰۃ کا مالک

بنایا جائے عالمگیری جلد اول ”صفحہ ۷۷۱“ پر ہے۔ ولا یحجز أن ینسی بالزکاة المسجد وکنا القناطرو السقايات..... وکل مالا تملیک فیہ الخ۔ صورت مسئلہ عنہا میں زکوٰۃ اور فطرہ کی رقم مذکورہ مدرسے میں نہیں لگ سکتی۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

## ﴿کتاب الصوم﴾

### اعتکاف رمضان المبارک

#### سوال : 44

دوران اعتکاف معتکف کا بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا منع ہے، کیا یہ درست ہے کہ وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ مسجد کی حدود میں شمار نہیں ہوتے؟، (عبدالرزاق، کونہ)۔

#### جواب :

وضو خانہ اور استنجا خانہ اگر مسجد سے متصل ہوں تو وہ فنائے مسجد میں داخل ہوں گے۔ اور فنائے مسجد کا بھی وہی حکم ہے، جو مسجد کا ہے۔ اگر معتکف فنائے مسجد میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد الخ۔

ترجمہ: ”فنائے مسجد، مسجد کے تابع ہوتی ہے اور اس کا حکم مسجد کے حکم میں ہے“، (فتاویٰ عالمگیری جلد دوم ص 462)۔

معتکف کا محراب مسجد میں جانا

#### سوال : 45

پنجاب، بلوچستان، سرحد وغیرہ میں سردی کافی پڑتی ہے اور دیہات میں کئی مساجد کا محراب آگے بڑھا ہوتا ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ حصہ خالی ہوتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کی خاطر معتکف جو تنہا ہوتا ہے اس اگلے حصہ میں محراب کے برابر بستر

لگا دیتا ہے، کیا ایسی حالت میں اعتکاف صحیح ادا ہو جائے گا، (عبدالرزاق، کوئٹہ)۔

**جواب:**

مسجد مجتمع اجزاء مسجد ہے اور محراب بھی مسجد کا حصہ ہے لہذا محراب میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح محراب کے دائیں بائیں جو حصہ خالی ہے، وہ بھی مسجد کا حصہ ہونے کی وجہ سے مسجد کے حکم میں ہے، لہذا وہاں لیٹنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔

حالت اعتکاف میں غسل مسنون کا مسئلہ

**سوال: 46**

دس دن اعتکاف کے دوران جمعۃ المبارک بھی آتا ہے، کیا جمعہ کیلئے غسل (اگر چہ واجب نہ ہو) کیا جا سکتا ہے؟، (عبدالرزاق، کوئٹہ)۔

**جواب:**

معتکف کیلئے غسل جنابت کے علاوہ غسل کیلئے مسجد یا فنائے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، اور معتکف یا تو شرعی ضرورت کے لئے مسجد سے نکل سکتا ہے، جیسے وضو کرنا، غسل واجب ادا کرنا یا طبعی ضرورت جیسے قضائے حاجت کے لئے جانا۔

مسجد کے اندر رہتے ہوئے معتکف کا ٹوٹی پر ہاتھ دھونا

**سوال: 47**

کھانا / افطار و سحری کے بعد اگر با وضو ہیں۔ کیا وضو کی جگہ جا کر ہاتھ

دھوسکتے ہیں اور کلی کر سکتے ہیں یا ایک پاؤں ممکن ہو تو مسجد کے اندر رہنا لازم ہے؟ (عبدالرزاق، کوئٹہ)۔

**جواب:**

مسجد کے اندر کھڑے یا بیٹھے ہوئے وضو خانے کی ٹوٹی سے ہاتھ دھونا یا کلی کرنا جائز ہے، بشرطیکہ مسجد سے باہر نہ جائے، واللہ اعلم بالصواب۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM



## ﴿کتاب الحج﴾

### حج کا بیان

سوال: 48

حج کن لوگوں پر فرض ہے؟، (یا سررحمن، نکلیال آزاد کشمیر)۔

جواب:

حج، ہر اُس عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جو اس کے ادا کرنے کی کامل استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ عَمَلِی السُّنَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۝

ترجمہ: ”اور بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جس نے (اس فریضہ ربانی کا تو لایا عملاً) انکا رکیا تو بلاشبہ اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے“، (آل عمران: 9۷)۔ اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

من لم يمنع من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا۔

ترجمہ: ”جس کو کسی ظاہری حاجت یا ظالم حاکم یا سفر سے رکاوٹ بننے والی بیماری نے حج سے نہ روکا ہو، اور (عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود) وہ حج کئے بغیر وفات پا گیا ہو تو (اس کی مرضی) چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔“

یہ وعید شدید وعید کے کلمات ہیں، یعنی عملاً اس میں اور کسی یہودی یا نصرانی میں کیا فرق ہے۔

استطاعت

سوال: 49

استطاعت سے کیا مراد ہے؟۔

جواب:

اگر کسی عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کی ملک میں اپنی حاجات اصلیہ (مثلاً رہائش کیلئے مکان مع بنیادی ضروریات، سواری، اگر وہ کسی پیشے سے وابستہ ہے تو اس کی ضرورت کے آلات اور ایام حج کے دوران اس کے زیر کفالت افراد کا نفقہ وغیرہ) کے علاوہ اتنا فاضل مال موجود ہے کہ وہ اس کی جائے اقامت سے حرمین طیبین روانگی اور واپسی تک کے مصارف سفر اور مدت حج کیلئے خوراک و رہائش اور سواری وغیرہ کیلئے کافی ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ شرعی طور پر یہ استطاعت ایام حج میں وجوب حج کیلئے معتبر ہے، لیکن چونکہ آج کل حکومت بہت پہلے حج کے لئے درخواستیں اور تمام مصارف پر مشتمل رقوم جمع کراتی ہے، لہذا اب اس وقت یہ استطاعت وجوب حج کیلئے معتبر ہوگی۔

اگر کوئی عاقل و بالغ مسلمان مرد یا عورت صاحب استطاعت ہے، لیکن وہ بعض موذی امراض یا جسمانی نقص کی وجہ سے (جیسے بینائی سے محرومی، کسی ایک یا دو ٹانگوں سے محروم ہونا یا دیگر امراض شدیدہ جن کی بناء پر) وہ سفر کے قابل نہیں ہے تو اس پر واجب

ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا حج بدل کرائے یا موت سے پہلے اس کی وصیت کرے، ورنہ  
 عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ فقہ حنفی کی رو سے عورت کیلئے استطاعت اور وجوب حج کی  
 دیگر شرائط وہی ہیں جو مردوں کیلئے ہیں، لیکن ایک شرط زائد ہے اور وہ شوہر یا  
 محرم (نسب، رضاعت یا مصاہرت کے رشتے سے ایسا قریبی مرد رشتہ دار جس سے  
 نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو) کی رفاقت کا میسر ہونا۔ اگر عورت صاحب استطاعت ہے  
 لیکن اسے شوہر یا محرم کی رفاقت حج میسر نہیں ہے تو اس پر حج کی فوری ادائیگی فرض  
 نہیں ہے۔ اس پر فقہاء نے بحث کی ہے کہ اگر استطاعت والی عورت کو زندگی بھر حج  
 کی ادائیگی کیلئے شوہر یا محرم کی رفاقت میسر نہیں آتی تو آیا اس پر فرض حج بدل کی وصیت  
 لازم ہے؟، اس سلسلے میں راجح اور مختار قول یہ ہے کہ اس پر حج بدل کی وصیت لازم  
 ہے، کیونکہ شوہر اور محرم کی رفاقت نفس وجوب حج کی شرط نہیں ہے بلکہ ”وجوب ادا“  
 کی شرط ہے۔ اس مسئلے پر بھی فقہاء نے بحث کی ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا فاضل مال  
 موجود ہے کہ وہ شوہر یا محرم کے مصارف حج ادا کر سکتی ہے تو آیا اس پر لازم ہے کہ  
 ایسا کرے؟، مختار قول یہ ہے کہ اس پر شرعاً ایسا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کو ان  
 کی مرضی کے برعکس جانے پر مجبور کرے تو ان کا خرچ دینا ہوگا۔ اگر ایام حج میں عورت  
 عدت طلاق یا عدت وفات میں ہے تو اس سال اس پر حج فرض نہیں ہے، اگر چلی گئی  
 تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن شرعی حکم کی خلاف ورزی پر گناہ گار ہوگی۔

عمرہ ادا کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا

### سوال: 50

جناب آپ سے عمرے کے بارے میں معلوم کرنا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں جن سے میں عمرہ کر سکتا ہوں، آگے امید بھی نہیں کہ ساری عمر میرے پاس حج کے لیے پیسے جمع ہوں، مجھے روضہ رسول ﷺ دیکھنے کا بہت شوق ہے، ایک حاجی صاحب نے مجھے بتایا ہے، کہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو اسی سال آپ کو حج بھی کرنا ہوگا جس سال آپ نے عمرہ کیا ہو، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ارشاد فرمائیں، (رستم خان، گاؤں کانگڑہ ڈاکخانہ کانگڑہ کالونی تحصیل ضلع ہری پور، ہزارہ)۔

### جواب:

اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو آپ عمرہ ادا کر لیجئے اور یہ سعادت حاصل کیجئے، لوگوں کا یہ گمان یا مفروضہ بالکل غلط ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے اسی سال حج ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، حج کی فرضیت کی شرط ”استطاعت“ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۝

ترجمہ: ”اور بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور جس نے (اس فریضہ ربانی کا قولاً یا عملاً) انکا رکھا تو بلاشبہ اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے“، (آل عمران: ۹۷)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عن عملي قال قال رسول الله ﷺ من ملك زاداً وراحلةً إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً او نصرانياً -

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کیلئے زادِ راہ (یعنی مصارفِ سفر) اور سواری کا مالک ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ (ترمذی، کتاب الحج، رقم الحدیث: ۸۱۲)

باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناامید نہ ہوں، بلکہ حرمینِ طیبین میں جا کر دعاء کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کا موقع نصیب فرمائے اور قبولیت دعاء کی بھی امید رکھیں۔ بلکہ بیت اللہ سے واپسی کے موقع پر الوداع کہتے وقت جو مستحسن دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

اللهم لا تجعل هذه الزيارة اخراً لزيارات -

”اے اللہ! ازراہِ کرم میری اس حاضری اور زیارت بیت اللہ کو آخری حاضری نہ بنانا۔“

یعنی مجھے زندگی میں بار بار زیارت حرمینِ طیبین کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔  
خواتین کا محرم کے بغیر حج

سوال : 51

کسی خاتون کو حج اور عمرہ کیلئے محرم کا ساتھ لے جانا کن شرعی احکامات کے

تحت ضروری ہے؟، (کامران خان، کراچی)۔

**جواب:**

خواتین کے لئے فرضیت حج کی جو شرائط ہیں، وہ وہی ہیں جو مردوں کیلئے ہیں، یعنی مسلمان، عاقل و بالغ اور صاحب استطاعت ہونا، یعنی مصارفِ سفر برداشت کرنے کی مالی استطاعت رکھنا اور اگر اس کی کفالت میں اہل و عیال ہیں تو حج کی روانگی سے لے کر واپس گھر پہنچنے تک ان کی ضروریات کیلئے بھی رقم موجود ہو۔ عورت کیلئے ایک شرط زائد ہے کہ اسے سفر حج کے دوران اپنے شوہر یا کسی محرم کی رفاقت میسر ہو۔ محرم سے مراد نسب، رضاعت (دودھ شریک کا رشتہ) یا مصاہرت (IN LAWS) کے رشتے سے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے باپ، چچا، ماموں، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، داماد، خسر، دودھ کے رشتے سے بھائی، باپ وغیرہ۔

یہ شرط محض سفر حج کیلئے نہیں ہے بلکہ مطلقاً ہر اس سفر کیلئے ہے جو قدیم ذرائع سفر کے اعتبار سے تین دن کی مسافت پر محیط ہے اور جس کی مقدار

61 میل 240 گز یا

734، 98 کلومیٹر ہے، لہذا اگر کوئی خاتون اس سے کم مسافت سے حج کیلئے جائے، مثلاً جدہ، مکہ المکرمہ یا دیگر قریبی مقامات سے، تو وہ تنہا بھی حج کر سکتی ہے، جیسے کسی اور مقصد کیلئے تنہا کم مسافت کا سفر کر سکتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے: عن ابن عمر؛ ان رسول اللہ ﷺ قال:

”لاتسافر المرأة ثلاثاً، الا ومعها ذو محرم“۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی عورت بغیر محرم کے تین دن کا سفر نہ کرے،“ (صحیح مسلم، حدیث نمبر: 3200)۔

شوہر یا محرم کی رفاقت کے بغیر براہ راست سفر حج کی ممانعت کا حکم بھی حدیث میں ہے:

عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ لا تحجن امرأة الا ومعها ذو محرم۔  
ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت بغیر محرم کے ہرگز حج نہ کرے،“ (سنن دار قطنی، جلد 2 ص: 223 مطبوعہ نشر السنۃ، ملتان)۔

فقہاء امت میں سے امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت، امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک ہے کہ عورت کسی بھی صورت میں محرم یا شوہر کی رفاقت کے بغیر سفر حج پر نہیں جاسکتی۔ امام مالک بن انس کے نزدیک وہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ اگر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے تو فرض حج پر جاسکتی ہے، نفلی حج پر نہیں اور امام محمد بن ادریس شافعی کے نزدیک اگر عورت خود کو محفوظ تصور کرے تو عورتوں کی جماعت کے ساتھ مطلقاً حج پر جاسکتی ہے، خواہ فرض ہو یا نفل۔

رواگئی حج سے پہلے اگر ماہواری کا خون آجائے تو کیا کرنا چاہئے

### سوال: 52

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کسی خاتون کو جو حج پر جانے کے لئے تیاری کر رہی ہے اگر رواگئی سے پہلے ماہواری کا خون آجائے تو وہ کیا کرے گی، آیا وہ احرام باندھ سکتی ہے یا نہیں؟، (مولانا زاہد اللہ عادل، جامع مسجد اقصیٰ ایف بی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے حیض و نفاس احرام سے مانع نہیں ہیں۔ ایسی عورت کو چاہئے کہ احرام باندھنے سے پہلے نہالے اور احرام باندھ لے اور حج کے لئے روانہ ہو جائے۔

فتاویٰ عالمگیری جلد: 1، ص: 222 پر ہے:

وإذا اراد الاحرام اغتسل أو توضأ و الغسل افضل الا ان هنا لغسل للتنظيف حتى تفرم به الحائض كذا في الهداية ويستحب في حق النفساء والصبى الخ۔

عمرہ ادا کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، بھائی کو نفلی عمرہ کرانا جائز ہے۔

بھائی سے قطع تعلق کرنا

### سوال: 53

میری عمر تقریباً چالیس سال ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں کورنمنٹ اسکول



میں پڑھاتی ہوں۔ والدین حیات نہیں ہیں۔ بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہوں، جنہوں نے ہماری پرورش، تعلیم اور دیگر اخراجات اٹھائے۔ ملازمت کے بعد میں بھی حتی الامکان مالی اور گھریلو کام میں تعاون کی کوشش کرتی ہوں، دو بھائی اور دو بھتیجے ہیں ایک کی عمر ۲۰ سال (زیر تعلیم) اور دوسرے کی نو (۹) ماہ ہے، ان کے علاوہ میرے اور کوئی محرم (چچا، ماموں، وغیرہ) نہیں ہیں۔ اس سال ۲۰۰۲ میں الحمد للہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، بڑے بھائی کے ساتھ۔ اب میرے چھوٹے بھائی جو کورنمنٹ ملازم (تنخواہ 6 ہزار) ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں بھی اپنے خرچے پر ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کچھ سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ صحیحین میں ہے: آپ ﷺ نے فرمایا! ”ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا درمیان کے گناہوں کے لئے کفارہ ہے“ یہ حکم حج کے ایام کے عمرے کے بارے میں ہے یا عام دنوں کے، کیا یہ صرف مردوں اور شادی شدہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ یا غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی استطاعت رکھنے پر ایک سے زائد بار عمرے کے لیے جاسکتی ہیں۔ عمرہ نفلی عبادت ہے یا سنت ہے۔ ۱۔ کیا حج ادا کرنے کے بعد غیر شادی شدہ لڑکی عمرہ نہیں کر سکتی؟، کیوں کہ آئندہ بہ ظاہر دونوں کے جانے کے کوئی امکان نہیں اور میری شادی کا بھی ابھی کوئی سلسلہ یا امکان نہیں ۲۔ کیا میں یا کوئی اور ثواب کی نیت سے بھائی کے عمرے کے اخراجات میں مالی تعاون کر سکتے ہیں؟۔

۳۔ کیا بھائی کے اوپر جو صاحب نصاب نہیں عمرہ ادا کرنے کے بعد حج فرض یا لازم ہو جائے گا؟، کیا وہ ابھی عمرہ کر سکتے ہیں؟

۴۔ چھوٹے بھائی کی شادی کو تین سال ہو گئے، کچھ گھریلو حالات کے سبب چھوٹے بھائی کو شادی کے ایک سال بعد علیحدہ کر دیا کہ ان کی دیکھ بھال اور ذمہ داری اٹھانے کا بڑے بھائی کا کوئی شرعی اور معاشرتی فرض نہیں (بڑے بھائی کا کہنا تھا)؟۔

۵۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے بھائی کے گھر زیادہ جانا اور ان کے گھر رہنا پسند نہیں کرتے (کہ وہ علیحدہ کیوں ہوئے، حالانکہ یہ شرعی حق ہے) وہ لوگ (چھوٹے بھائی) ہمارے گھر آتے ہیں، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔

۶۔ کیا بڑے بھائی کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے اپنے سگے بھائی کے گھر جانے سے صرف اس وجہ سے روکیں کہ وہ علیحدہ کیوں ہوئے؟، کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا میرے ساتھ حق تلفی ہے؟، (حصصہ بی بی، کراچی)۔

### جواب:

کسی غیر شادی شدہ خاتون پر حج سے پہلے اور حج کے بعد عمرہ ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرطیکہ اسے محرم کی رفاقت میسر ہو، اسی طرح غیر شادی شدہ لڑکیاں ایک سے زائد عمرے بھی ادا کر سکتی ہے۔

(۲) کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو حصول اجر و ثواب کے لئے عمرہ کرا سکتا ہے، حج بھی کرا سکتا ہے، ان کے درمیان قرابت کا رشتہ ہوتب بھی، نہ ہوتب بھی۔

(۳) جو شخص حج کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محض عمرہ ادا کر لے، تو محض عمرہ ادا کرنے سے اس پر حج فرض نہیں ہو جاتا،

تا وقتیکہ وہ حج کی مالی استطاعت کا مالک ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے:

عن سلیمان بن عامر قال قال رسول الله ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة و صلة -

ترجمہ: ”حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (عام) مسکین پر صدقہ کرنا، ایک صدقہ ہے (یعنی ایک نیکی ہے) اور قرابت دار (مسکین) پر یہی صدقہ کرنا دہری نیکی ہے، یعنی (ایک تو) صدقہ کی نیکی اور (دوسری) صلہ رحمی کی“، (مشکوٰۃ بحوالہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی، ص: 171)۔

(۴) چھوٹا بھائی عاقل و بالغ ہو تو اس کی کفالت کی ذمہ داری بڑے بھائی پر نہیں ہے، ہاں اگر ایک بھائی ضرورت مند ہو اور دوسرا اس کی بقدر ضرورت اعانت کرے تو وہ دہرے اجر کا مستحق ہوگا، ایک انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا صلہ رحمی کا۔

(۵) دو بھائیوں کا الگ رہنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، مگر قطع تعلق کرنا ”قطع رحمی“ ہے اور یہ شریعت میں منع ہے، مصروفیات کی بناء پر کم ملنا اور بات ہے اور جان بوجھ کر قطع تعلق کرنا جدا بات ہے۔

حدیث پاک میں ہے:

(1) عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة قاطع -  
ترجمہ: ”حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قطع رحمی کرنے والا (یعنی قرابت کے رشتے کو توڑنے والا) جنت میں داخل نہیں

ہوگا۔“ (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، ص: 419)

(2) عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال: لا يكون لمسلم ان يهجر مسلماً فوق ثلاثة فإذا لعقبة سلمه عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بائمه۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، لہذا جب وہ اس سے ملے تو اسے (یکے بعد دیگرے) تین بار سلام کرے، (اور اگر) ہر بار (دوسرا بھائی سلام کا) جواب نہ دے تو (سلام کرنے والا بری الذمہ ہو جائے گا اور) اب آئندہ جاری رہنے والے قطع تعلق کا سارے کا سارا گناہ اسی پر ہوگا (جس نے تین بار سلام کا جواب نہیں دیا)“، (مشکوٰۃ بحوالہ سنن ابو داؤد، ص: 428)۔

(۶) بڑے بھائی کا بہن پر چھوٹے بھائی سے ملنے پر پابندی عائد کرنا یا اس کے باعث ناراض ہونا، ناجائز بات ہے، انہیں اس روش کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا اصرار یا پابندی لگانا، رسول اللہ ﷺ کے فرمان کی صریح خلاف ورزی ہے اور دوسرے کو گناہ پر ابھارنا یا مجبور کرنا ہے۔

خواتین کیلئے حج و عمرے کی شرائط

## سوال: 54

آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں اور میری فیملی عمرے کیلئے جانا چاہتے ہیں، میرے

ہمراہ میری والدہ، میری بیوی اور میرا ایک بچہ جو 6 سال کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میری ساس اور میری سالی بھی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ نہ تو میرے سرزندہ ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بیٹا ہے، (اعجاز، 441/15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

خواتین کیلئے حج و عمرے کی وہی شرائط ہیں، جو مردوں کیلئے ہیں، ہاں! ایک شرط زائد ہے کہ اسے سفر حج کے دوران اپنے شوہر یا کسی محرم کی رفاقت میں ہو۔ محرم سے مراد نسب، رضاعت (دودھ شریک کا رشتہ) یا مصاہرت کے رشتے سے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو، جیسے باپ، چچا، ماموں، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، داماد، خسر اور دودھ کے رشتے سے بھائی، باپ وغیرہ۔

امام علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود لکھتے ہیں:

واما الذی یخص النساء فشرطان: احدهما: ان یکون معها زوجها او محرم لها فان لم یوجد احدهما لا یحب علیها الحج۔

ترجمہ: اور عورتوں کے لئے دو شرطیں خاص ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، پس اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو نہ پائے تو اس پر حج واجب نہیں، دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

ثم صفة المحرم أن یکون ممن لا یجوز له نکاحها علی التابید اما بالقرابة أو الرضاع أو الصهرية لأن المحرمة الممعة بملءة تزیل التهمة فی

المخلوطة، وللهناقوالوا: ان المحرم اذا لم يكن مأموناً عليه لم يعجز أن تسافر معه۔

ترجمہ: ”محرم وہ شخص ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو، خواہ حرمتِ نکاح رشتہ قرابت کی وجہ سے ہو یا رشتہ رضاعت کی وجہ سے ہو یا رشتہ سسرالی کی وجہ سے، کیونکہ دائمی حرمت سے خلوت میں تہمت کا اندیشہ زائل ہو جاتا ہے، اسی لئے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اگر محرم بھی قابلِ اعتماد نہ ہو (یعنی اس سے آبرو محفوظ نہ ہو) تو اس کے ساتھ بھی عورت کا سفر پر جانا جائز نہیں ہے“، (بدائع الصنائع، جز ثانی، صفحہ 187، 188 مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، کجرات، ہند) آپ کی ساس صاحبہ آپ کے ہمراہ حج یا عمرے کے سفر پر جاسکتی ہیں، کیونکہ آپ ان کے محرم ہیں، لیکن آپ اپنی خواہر نسبتی (سالی) کے محرم نہیں ہیں، اس لئے ان کا آپ کے ساتھ عمرے یا حج پر جانا درست نہیں ہے، محرّمات نکاح کے بیان میں قرآن مجید کے ارشاد ”وَأَنْ تَحْمَمَ عُرَايِنَ الْأُخْتَيْنِ“، ترجمہ: [اور (تم پر حرام کیا گیا ہے) یہ کہ تم دو بہنوں کو (نکاح میں) جمع کرو، النساء: 23] کے تحت اگرچہ سالی کے ساتھ نکاح حرام ہے، لیکن یہ حرمت دائمی نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ بیوی کا انتقال ہو جائے یا کوئی بد قسمتی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت گزرنے کے بعد سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔

والد کا حج بدل پہلے یا اپنا فریضہ حج؟

**سوال: 55**

میرے والد محترم کا چار ماہ قبل انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں حج

نہیں کر سکتے تھے، میں اس سال اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جانا چاہ رہا ہوں، دریافت یہ کرنا ہے کہ میں پہلے اپنے والد مرحوم کا حج ادا کروں یا پہلے اپنا حج ادا کروں؟۔ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں، (جاوید سعید خان، فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

**جواب:**

عبادات کی تین قسمیں ہیں:

1۔ خالص بدنی عبادات (جیسے نماز اور روزہ)، ان میں نیابت یا قائم مقامی جائز نہیں، ہر مکلف (عقل و بالغ) کو بذاتِ خود ادا کرنی لازمی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے:

عن مسالك انّ عبد الله بن عمر كان يُسئَلُ هل يصوم احد عن احد او يصلى احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلى احد عن احد۔

ترجمہ: ”امام مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی کسی کی جانب سے روزہ رکھے یا کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے، تو وہ جواب دیتے کہ کوئی کسی کی جانب سے روزہ نہ رکھے اور نہ کوئی کسی کی جانب سے نماز ادا کرے،“ (موطا امام مالک رقم الحدیث: 688 باب الزد رفی الصیام، والصیام عن المریت)۔

عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه۔“

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس

شخص کا انتقال ہو گیا اور اس پر رمضان کے روزے ہیں تو اس کا ولی ان روزوں کو ادا کرے۔“ (سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: 2392 مطبوعہ مؤسسة الريان، بیروت)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے وفات شدہ عزیز کے ذمہ روزے باقی ہوں اور اس نے وصیت کی ہو تو ایک تہائی ترکہ میں سے قضا روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے اور اگر اس نے وصیت نہ کی ہو تو اس کی اولاد یا ورثاء تمہرے اپنے مال میں سے فدیہ ادا کریں، یہ حکم وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے۔

2۔ خالص مالی عبادات (جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی اور نذر وغیرہ)، ان میں نیابت بالاتفاق جائز ہے۔

3۔ مرکب عبادت یعنی ایسی عبادت جس کی دونوں حیثیتیں ہیں، مالی بھی اور بدنی بھی (جیسے عبادت حج)، اس میں اگر مکلف خود ادا کرنے کی جسمانی قدرت رکھتا ہے، تو اسے خود ادا کرنا لازمی ہے ورنہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے، لیکن یہ شرط فرض حج کے لئے ہے، کوئی کسی کی طرف سے نفلی حج کرنا چاہے یا کسی سے کرانا چاہے، تو کسی شرط یا استثناء کے بغیر کر سکتا ہے، خواہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے، وہ زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے، اس نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو، وہ خود جسمانی طور پر قدرت رکھتا ہو یا مریض و معذور ہو، کوئی شخص اپنے زندہ یا مرحوم والدین یا عزیز واقارب کی طرف سے خود بھی حج کر سکتا ہے اور کسی کو بھی کر سکتا ہے، الغرض فرض کے مقابلے میں نفلی عبادت میں زیادہ وسعت اور سہولت ہوتی ہے، اس طرح ان عبادت کا ایصالِ ثواب بھی کر سکتا ہے۔



ایصالِ ثواب کیلئے جو حج بدل یا عمرہ کیا جائے، یہ نفلی عبادت ہے، والدین زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، انہوں نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، ان کے ایصالِ ثواب کے لئے آپ خود بھی حج اور عمرہ کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی چاہیں تو بھیج سکتے ہیں، جس کے ایصالِ ثواب کیلئے حج یا عمرہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ازراہِ کرم اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، جو بھیجنے والا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان شاء اللہ العزیز اجر پائے گا۔

صورتِ مسئلہ میں آپ کے بیان کے مطابق آپ کے والد صاحب زندگی میں حج نہیں کر سکے، آپ نے یہ نہیں لکھا کہ ان پر شرعاً حج فرض ہو چکا تھا یا نہیں، یعنی حج کی مالی استطاعت انہیں حاصل تھی یا نہیں؟، بہر صورت انہوں نے زندگی میں نہ حج کیا اور نہ اس کی وصیت کی، اس صورت میں آپ ان کی طرف سے جو حج کریں گے، یہ نفلی حج ہوگا، آپ اگر صاحبِ استطاعت ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا فریضہ حج ادا کریں، اس کے دوران آپ والد صاحب کے ایصالِ ثواب کے لئے نفلی طواف اور عمرے جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دے کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کے والد صاحب نے صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید توفیق دی ہے تو والد صاحب کی طرف سے حج بدل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی تقصیر کو معاف فرمائے اور آپ کے اس حج بدل کو ان کے فریضہ حج کے طور پر قبول فرمائے۔

## فتاویٰ در مختار میں ہے:

(بمختلف ما لہو اہل بحج عن ابویہ او غیرہما) من الاجانب حال کونہ  
(متبرعاً فعین) بعد ذلك جاز لانه متبرع بالثواب ، فله جعله لاحدہما  
اولہما۔ وفي الحديث ”من حج عن ابویہ فقد قضی عنہ حجته وکان لہ  
فضل عشر حجج، وبعث من الأبرار۔“

ترجمہ: ”بخلاف اس کے کہ اگر اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کیا یا ان کے علاوہ کسی  
اجنبی کی طرف سے (بطور نفل کے)، اور بعد میں (ثواب کو) کسی ایک کیلئے متعین  
کر دیا تو جائز ہے، کیونکہ وہ نفلی ثواب بخشا چاہتا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ کسی ایک  
کو ثواب بخش دے یا دونوں کو، اور حدیث میں ہے: جس نے اپنے ماں باپ کی طرف  
سے حج کیا تو اس کا اپنا حج (فرض) بھی ادا ہو گیا اور اسے دس حج کا مزید ثواب ملے گا،  
اور وہ (قیامت کے دن) نیکو کاروں میں اٹھایا جائے گا“، (ردالمحتار علی  
الدرالمختار، جلد 4، ص: 29-26 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔ اس کی  
شرح میں علامہ ابن عابدین شامی نے طویل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:  
1۔ اگر اولاد نے ماں باپ کی طرف سے نفلی حج کیا (یعنی والدین کے ذمہ فریضہ حج  
باقی نہ تھا، یا انہوں نے وصیت نہیں کی تھی) تو یہ بالکل جائز اور درست ہے، والدین کو  
بھی ثواب ملے گا اور مندرجہ بالا حدیث کی رو سے حج کرنے والے کو دس گنا ثواب  
ملے گا۔

علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا:

ولا اشكال في ذلك اذا كان متنفلاً عنهما، فان كان عليّ احدهما حج  
 الفرض و اوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بحال نفسه، وان لم  
 يوص به فتبرع الوارث عنه بما لا يحتاج او الحج بنفسه، قال ابو حنيفة:  
 يحجزه ان شاء الله تعالى الحج۔

ترجمہ: ”اگر کوئی والدین کی طرف سے نفلی حج کر رہا ہے تو اس کا ثواب ان کو پہنچنے یا ان  
 کی طرف سے ادا ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان (والدین) میں سے  
 کسی کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے اس کی وصیت کی تھی، تو وارث کی طرف سے نفلی  
 طور پر اپنے مال سے ادا کرنے میں ان کا فرض حج ساقط نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے  
 وصیت تو نہیں کی، لیکن وارث نے از خود اس کی طرف سے کسی سے حج کر لیا یا خود  
 کر لیا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان شاء اللہ اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے  
 گا“، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 4 ص: 27 - 26 مطبوعہ دار احیاء التراث  
 العربی، بیروت)۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس: ان امرأة جاءت الى النبي ﷺ فقالت: ان امي نذرت  
 ان تحج، فمما تست قبل ان تحج، افاحج عنها؟ قال: ”نعم، حجتى عنها،  
 ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضية“۔ قالت: نعم، فقال: ”فاقضوا  
 الله الذى له، فان الله احق بالوفاء“۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے

پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: (یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم!) میری ماں نے حج کی نذرمانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہوگئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟، آپ نے فرمایا: ہاں! اس کی طرف سے حج کرو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتیں؟، اس نے کہا: ہاں!، آپ نے فرمایا: پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ ادا کئے جانے کا زیادہ حق دار ہے، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 7315 مطبوعہ مکتبۃ العصریہ، بیروت)۔

آگے چل کر علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قال فی "الفتح": ولا اشکال فی ذلك اذا كان متنفلاً عنهما: ای لان غایة حال المتنفل ان یسجّل ثواب عمله لغيره وهو صحیح۔ اما وقوع عمله عن فرض الغير بغير امره فهو مشکل۔ والحجاب ما مرّ فی کلام الشارح من أن السوارث اذا حجج او أحجج عن مورثه جاز لوجود الأمر دلالة: أي فکأنه مأمور من جهته بذلك، وعليه فتقع الاعمال عن الميت لا عن العامل۔ فقوله فی "الفتح": ومبناه علی ان نیته لهما تلغو الخ، مخصوص بما اذا لم یکن علیهما فرض لم یوصیا به الخ۔

فتح القدر میں (علامہ کمال الدین ابن ہمام نے) فرمایا: اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سے نفلی حج کرتا ہے، تو ان کی طرف سے ادا ہونے (یا ان کو ثواب پہنچنے میں) میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادت کرنے والا زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ وہ

اپنے عمل خیر کا ثواب دوسرے کو پہنچانا ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن رہا یہ سوال کہ آیا اس کا عمل دوسرے کے حکم کے بغیر اس کے فرض کی جگہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اور جواب وہی ہے، جو کلام شارح میں گزرا کہ وارث اپنے مورث کی طرف سے (اس کی وصیت یا امر کے بغیر اپنے مال سے) حج کرے یا کسی اور سے کرائے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں دلالت امر موجود ہے، یعنی گویا وہ اس جہت سے مامور ہے، اور اسی توجیہ کے تحت اعمال حج میت کی طرف سے واقع ہوں گے، عامل کی طرف سے نہیں اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صاحب فتح القدر کا یہ قول کہ: ان (والدین) کی طرف سے (اسقاط فریضہ حج) کی نیت لغو ہے الخ، یہ اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب ان دونوں پر حج فرض تھا ہی نہیں، جس کی بنا پر انہوں نے وصیت بھی نہیں کی، الخ، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 4 ص: 27 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

فریضہ حج سے بری الذمہ ہونے کے لئے حج بدل کے شرائط

### سوال: 56

ایک شخص پر حج فرض ہے، وہ معذوری یا مرض کی وجہ سے بذات خود حج نہیں کر سکا اور اس نے کسی کو نامزد کیا کہ وہ اس کی طرف سے حج بدل ادا کرے یا اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ فلاں شخص اس کی طرف سے حج بدل ادا کرے، تو اس حج بدل کا، جو فرض کو ساقط کرنے یا فرض سے بری الذمہ ہونے کے لئے کیا جائے، کیا حکم ہے؟، (محمد عتیق الرحمن سیال، ساقی کوثر انسٹی ٹیوٹس، شہداد پور، ساکنگھڑ)

**جواب :** ”حج بدل“ یعنی بطور نائب یا قائم مقام کے دوسرے کی طرف سے حج

فرض ادا کرنا کہ اس کے ذمہ سے عند اللہ فرض ساقط ہو جائے، اس کی شرائط یہ ہیں:

(۱) جس کی طرف سے حج کیا جائے، حج کرنے سے پہلے اس پر حج فرض

ہو، اگر فقیر نے حج کرا دیا پھر غنی ہوا، اس پر خود دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔

(۲) جس کی طرف سے حج بدل ادا کیا جا رہا ہے، وہ نائب کے وقوفِ عرفہ کرنے

سے پہلے خود ادا سے عاجز ہو، اگر استطاعت کے باوجود حج کرایا، پھر عاجز ہو گیا، اس

پر از سر نو حج کرانا لازم ہوگا۔

(۳) صلاحیتِ استطاعت کا عجز اگر عارضی ہے، اور ظاہری علامات و قرائن سے

اس کے زائل ہونے کا ظن غالب ہے، مثلاً کوئی عارضی قابلِ علاج مرض یا معذوری یا

کسی حاکم یا رہزنوں اور لوٹ مار کرنے والوں کا رکاوٹ بن جانا تو شرط ہے کہ یہ عذر ”

تادم مرگ“ قائم رہے، اگر بعد ادائے حج بدل خود قادر ہوا، تو اس پر دوبارہ خود ادا کرنا

فرض ہوگا بخلاف اس عجز کے کہ قابلِ زوال نہیں، جیسے نابینا ہونا، اگر اس نے اپنا حج

بدل ادا کر دیا اور بعد میں اگر بطور خرقِ عادت وہ عجز زائل بھی ہو جائے، تو بہر حال

اعادہ ضروری نہیں۔

(۴) حج بدل کرنے والا، جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، صرف اس ایک کی

طرف سے تنہا حج کی نیت کرے، مثلاً میں نے فلاں کی طرف سے احرام باندھ لیا اے

اللہ! میں فلاں کی طرف سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر اس کی طرف سے نیت نہ

کی یا دو حج کی نیت کی یعنی ایک اُس کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے یا دو مختلف

شخصوں کی طرف سے نیت کی، مثلاً ایک اُس شخص کی جانب سے اور دوسری کسی اور کی جانب سے تو کافی نہ ہوگا۔

(۵) پانچواں یہ حج بدل جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، اگر اس کے حکم سے نہ کرے، بلکہ از خود تہماً کرے تو اسقاطِ فرض کیلئے یہ حج کافی نہ ہوگا، ہاں اگر وارث اپنے مورث کی طرف سے حج کرے یا کرائے ہو اس سے متوفی کا فریضہ حج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہے۔

(۶) مصارف آمد و رفت اور حج کے تمام مصارف یا اکثر مال حج کرانے والے کی طرف سے ہو۔

(۷) اگر حج بدل کرانے والے کی زندگی میں ادا کیا جا رہا ہے، تو جسے اس نے امر کیا وہی حج کرے، دوسرے سے کرا دے تو ادا نہیں ہوگا، اور اگر حج کرانے والے کی وفات کے بعد ہے، تو مامور (جس کو حج کرانے کا حکم دیا) دوسرے کو بھی اپنے قائم مقام کر سکتا ہے، اگر چہ میت نے اس کا نام لے کر وصیت کی ہو کہ فلاں میری طرف سے حج کرے، ہاں! اگر صراحتاً اس نے منع کر دیا تھا کہ وہی کرے نہ دوسرا، تو اب دوسرا کافی نہیں۔

(۸) حج بدل کرنے والا اکثر راستہ سواری پر طے کرے، اگر باوجود سواری کے پیدل حج کرے گا، اسے چاہئے کہ نفقہ واپس کر دے، کیونکہ اس حج سے بھیجنے والے کا فریضہ حج ساقط نہیں ہوگا۔

(۹) حج کرانے والا اگر اہل آفاق سے ہو یعنی حد و حرم و حلقہ اور میقات سے

باہر کا رہنے والا ہے، تو لازم ہے کہ اس کی طرف سے حج آفاقی کیا جائے، اگر جسے حج کیلئے بھیجا گیا ہے، اس نے عمرے کا احرام باندھا، پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد موسم حج میں حرم سے احرام حج باندھا، اس کی طرف سے (یعنی بھیجنے والے کی طرف سے یہ حج) حج نہ ہوگا کہ یہ حج مکہ کی ہوا نہ آفاقی، ہاں! اگر حج کے موقع پر میقات سے باہر نکل کر احرام حج میقات سے باندھے تو جائز ہے کہ حج آفاقی ہوا نہ مکی۔

(۱۰) مخالفت نہ کرے، مثلاً تنہا حج کے لئے امر کیا تھا، اس نے قرآن یا شائع کیا تو نفقہ واپس کرے، کیونکہ آمر کے حکم کی خلاف ورزی کی بنا پر اس سے فریضہ حج ساقط نہیں ہوگا۔

(۱۱) حج بدل کرنے والا ”حج صحیح“ اس بار ادا کرے، غیر عاقل، بچے یا مجنون کا حج کافی نہیں، ہاں مراہق (یعنی جو بلوغت کی عمر کے قریب ہے، جیسے بارہ سال کی عمر والا) کا کافی ہے، یونہی اگر اس نے ”حج فاسد“ کر دیا کافی نہ ہوگا، اگرچہ قضا بھی کرے۔ بیس شرطیں ”المہنسک المتقسط مع ارشاد الساری، باب الحج عن الغیر، صفحہ: ۲۹۲، مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت“ میں سے انہیں گیارہ میں آگئیں۔

(نوٹ): یہ فتویٰ مسئلہ نمبر 283 کے جواب میں، فتاویٰ رضویہ جلد 10 ص: 660-659 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور سے نقل کیا گیا ہے، صرف قارئین کی سہولت کے لئے عبارت کو آسان اور عام فہم بنایا گیا ہے، اصل مفہوم وہی ہے جو امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا ہے، تاہم کہیں قاری کو اسے اصل سے مطابقت معلوم نہ ہو تو اسے ہماری کوتاہی پر محمول کریں۔



## ﴿کتاب النکاح﴾

### حرمت نکاح

سوال: 57

کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ ایک آدمی حسن گل جس کی دو بیویاں (ہندہ، زینب) ہیں، جن سے دو بیٹے (ہندہ سے خان بہادر اور زینب سے عبدالقیوم) پیدا ہوئے۔ حسن گل کا دوسرا بھائی سمندر خان ہے، جس کی بیوی کا نام خائستہ جان ہے، خائستہ جان سے سمندر خان کے دو بیٹے (۱) شیر جنگ (۲) تاج محمد اور ایک بیٹی انور جان ہے۔ سمندر خان کی وفات کے بعد خائستہ جان نے سمندر خان کے بھتیجے عبدالقیوم سے نکاح کر لیا، جس سے تین بیٹے (۱) علی وارث (۲) فقیر محمد (۳) بنارس، ہیں۔ سوال دریافت طلب یہ ہے کہ ”خان بہادر کی لڑکی علیف جان کا نکاح عبدالقیوم کے بیٹے فقیر محمد کے بیٹے سے از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں؟“ (خان بہادر ضلع مانسہرہ تحصیل اوگی گاؤں کیا رہ)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں جن دو مرد و عورت کے مابین حلتِ نکاح کی بابت دریافت کیا گیا ہے، یہ نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کوئی اور سبب حرمت نہ ہو۔  
مہر مؤجل یا معجل کا حکم

سوال: 58

حضرت حق مہر کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں کہ مہر معجل اور غیر معجل

حق مہر میں کیا فرق ہے کیا دونوں قسم کے حق مہر معاف کرائے جاسکتے ہیں یا صرف مہر معجل معاف کرایا جاسکتا ہے یا غیر معجل، حق مہر ادا نہ کرنے کی صورت میں کیا گناہ لازم آتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں، (محمد کاشف، رجب علی، کورنگی، کراچی)۔

### جواب :

مہر عورت کا حق ہے، جب عقد نکاح کے وقت عورت کی طرف سے یہ شرط عائد کی گئی ہو کہ اس کی فوری ادائیگی لازم ہے تو اسے عرف عام میں مہر معجل کہتے ہیں، اس کی فوری ادائیگی لازم ہے، اور مہر معجل کی صورت میں عورت اپنی قربت یا مباشرت سے پہلے مہر کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، مہر مؤجل اسے کہتے ہیں جس کی فوری ادائیگی عقد نکاح کے وقت لازمی نہ قرار دی گئی ہو، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ادائیگی کے لئے مدت مقرر کر دی گئی ہو اور دوسری یہ کہ غیر معینہ مدت کے لئے رعایت دی گئی ہو، تاہم اگر مہلت ادائیگی کو غیر معین چھوڑا گیا ہے، تب بھی خدا نخواستہ شوہر کی وفات کی صورت میں اس دین مہر کی ادائیگی شوہر کے ترکے سے تقسیم وراثت سے پہلے لازم ہوگی اور بصورت طلاق بھی ادائیگی لازمی ہو جائے گی۔

مہر کسی بھی قسم کا ہو بہر کیف اس کی ادائیگی جلد یا بدیر لازم ہے، ہاں البتہ مہر معجل ہو یا مؤجل عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جب چاہے کلی یا جزوی طور پر معاف کر سکتی ہے، لیکن جبر کر کے معاف کرانا ظلم ہے اور یہ حق تلفی کے مترادف ہے، اگر مہر مؤجل ہو اور خدا نخواستہ عورت کی وفات ہو جائے تب بھی شوہر پر مہر کی

ادا یگی لازم ہے اور وہ دین مہراب اس کے ترکہ میں شامل ہوگا اور اس کے ورثاء کا حق ہوگا۔

شوہر کے کلمات کفر کہنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے

### سوال: 59

میں ایک مظلوم و مجبور سائلہ ہوں۔ والدین نے برضا و رغبت میری شادی لاہور کے ایک شخص سے کر دی جو کہ پہلے سے ہمارا عزیز تھا۔ بعد از رخصتی اس نے مجھ سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ میں کسی عاشق رسول ﷺ کو نہیں مانتا، جب میں خدا اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا تو کسی اور کو کیا مانوں گا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر میں ”نماز شام“ نہیں ہوتی، ہم دنیا دار ہیں۔ پھر وہ رخصتی کے بعد تائیں دم میرے ساتھ فعل شنیع یعنی فعل قوم لوط کرتا رہا، وہ ازدواجی تعلق جو شریعت میں جائز اور مشروع ہے، نہیں کیا۔ میں جب زخمی اور خوفزدہ ہو گئی تو اس نے کہا کہ ابھی سے ڈر گئی ہو؟ پھر گھر والے مجھے شادی کے 36 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے عزیزوں کے ہاں لے آئے اور پھر وہاں سے کراچی لے آئے۔ اب اس واقعہ کی بناء پر درج ذیل سوالوں کا جواب اسلام کی روشنی میں دیں تا کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں اور ہدایت پائیں۔ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہوں گے۔

### سوال: 60

کیا وہ شخص اس بیان کے بعد مسلمان رہا ہے یا نہیں؟ اور پہلے سوال کی دوسری شق یہ ہے کہ اب اس سے نکاح قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟

### سوال: 61

اب اس کے بعد اس سے ملاقات تنہائی اور حصول اولاد کا عمل زنا کے زمرے میں آئے گا؟۔

### سوال: 62

اگر برادری کے بڑے لوگ مل کر یہ کہیں یا وہ خود یہ کہے کہ مولویوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے کچھ نہیں ہوا؟ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ لہذا تم چھوڑو سب باتیں اور بچی کو بھیج دو۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو بندے کون ہوتے ہیں؟ کیا ایسی باتوں میں آکر بچی کو واپس وہاں بھیجنا صحیح ہے یا ہرگز نہیں بھیجنا چاہیے؟۔

### سوال: 63

اس کے اس فعل کے بعد اس سے خلع لینا میرا شرعی اور قانونی حق ہے یا نہیں؟۔

### سوال: 64

اگر وہ یہ کہے میں ان ”فتوؤں شتوؤں“ کو نہیں مانتا؟ بس تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا خاوند ہوں؟ تو تنسیخ نکاح کی صورت کیا ہوگی؟

### سوال: 65

اگر وہ معافی مانگے بغیر تو بہ کیے یا تو بہ کے ساتھ اور پھر یہ بھی کہے کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں؟ بات کر بھی جائے منکر بھی ہو جائے تو کل کلاں اس کی تو بہ پر بھی اعتبار کی کیا صورت ہوگی؟۔

## سوال : 66

میرے والدین مجھے اسی کے ساتھ ہی دوبارہ بسانا چاہیں تو اسلام کی روشنی میں اس کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ علماء کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ آمین  
(ایک مظلومہ و مجبور سائلہ معرفت عتیق علی گلشن اقبال، کراچی)

## جواب :

(۱) اس کا یہ قول کہ ”میں خدا اور رسول ﷺ کو نہیں مانتا تو کسی اور کو کیا مانوں گا؟“ اور اس کا یہ قول کہ ”میرے گھر میں ”نماز شام نہیں ہوتی“، یہ کفر صریح کے کلمات ہیں اور اس میں نہ صرف اللہ اور رسول کا انکار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ایک اہم رکن نماز کا بھی نہ صرف انکار ہے بلکہ اس کی توہین بھی ہے۔ لہذا یہ کلمات ادا کرنے سے وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس ارتداد کی بناء پر ان دونوں کا نکاح باطل ہو گیا۔

(۲) جب نکاح باطل ہو گیا تو ان کی آپس میں قربت اور ازدواجی تعلق حرام ہے، تا وقتیکہ وہ اعلانیہ تو بہ کرے اور پھر باہمی رضامندی سے وہ تجدید نکاح کریں۔

(۳) برادری کے لوگوں کا حقائق جاننے اور سننے کے بعد یہ کہنا کہ: ”اس سے کچھ نہیں ہوتا“ یا مولوی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رضا علی الکفر ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، جن لوگوں نے کفر صریح کے کلمات کو جاننے کے بعد یہ کہا ہے، وہ بھی تو بہ کریں اور تجدید نکاح کریں۔

(۴) جب نکاح خود ہی باطل ہو گیا تو خلع لینے کا کیا سوال؟۔ خلع تو اس سے لیا جاتا

ہے، جس سے رشتہء ازدواج بدستور قائم ہے، یہ پوزیشن تو دیناً اور عند اللہ ہے۔ لیکن قضاءءِ گلو خلاصی کیلئے اسے عدالت میں جانا پڑے گا۔ برادری کا دینی فریضہ یہ ہے کہ یا تو اس شخص سے اعلانیہ تو بہ کرا کے تجدید نکاح کرائیں اور یا اس سے طلاق صریح دلوائیں تاکہ اس خاتون کیلئے اپنی من پسند زندگی گزارنے میں کوئی قانونی یا سماجی رکاوٹ باقی نہ رہے اور وہ اس عمل پر عند اللہ ماجور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ترجمہ: اور تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور (حدود الہی کو توڑنے میں) اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، (المائدہ: ۲)۔

(۲) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ بِاللَّهِ۔

ترجمہ: ”تم (سب امتوں میں) بہترین امت ہو، تمہارا شعار یہ ہے کہ تم سب بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو“، (آل عمران: ۱۱۰)۔

کسی برادری، پنچایت اور کمیٹی کے ذمہ داران اور اکابر کا اصل دینی فریضہ یہ ہے کہ اپنی حدود میں منکرات کا سدباب کریں، اپنا پورا وزن معروف اور خیر کے پلڑے میں ڈالیں، نہ کہ شر اور منکر کو تحفظ دیں، ایسے لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی اس وعید سے

ڈرنا چاہیے، جو حدیث ذیل میں ہے:

”عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ اوحي اليه عز وجل الى جبرئيل ان اقلب مدينة كذا و كذا باهلها، فقال: يا رب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين، قال: فقال: اقلبها عليه و عليهم فان وجهه لم لم يتمعر في ساعة قط“۔

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے پروردگار: اس بستی والوں میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے، جس نے (زندگی میں کبھی) پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، (رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا: (اس کے جواب میں) اللہ عزوجل نے فرمایا: (ہاں) اس پار سا شخص سمیت اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ میری حدود شرع کو پا مال ہوتے دیکھ کر اس کی غیرت ایمانی کبھی بیدار نہ ہوئی اور میری خاطر اس کے چہرے پر کبھی ایک لمحے کیلئے بھی غیظ و غضب اور ناراضی کے اثرات ظاہر نہ ہوئے،“ (اللبیٰ فی شعب الایمان، رقم الحدیث ۷۵۸۷)۔

(۵) گذشتہ سطور سے واضح ہو گیا کہ شوہر کا مطلقاً یہ کہنا کہ: ”میں فتوؤں شنتوؤں کو نہیں مانتا“، حق کو رد کرنے، حق پر اپنی انا کو ترجیح دینے اور اس کی تہمید و سرکشی اور فکری غواہیت و ضلالت کی دلیل ہے، اسے اتنی باغیانہ جسارت کے ساتھ انکار حق پر اللہ کے عذاب اور ہولناک انجام سے ڈرنا چاہیے۔ مفتی تو حکم شرع بیان کرتا ہے، اور کسی قطعی دلیل

کے بغیر اس کے فتوے کو رد کرنا، حق سے ابا و انکار ہے، شرعاً تو نکاح بہر حال قائم نہیں رہا۔

(۶-۷) اگر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قبول حق کی توفیق دے، اسے حق کی جانب رجوع کی سعادت نصیب فرمائے اور وہ صدق دل سے اپنی کفریہ بات سے توبہ کر کے تجدید ایمان کر لے، تو اس سے عام مسلمانوں کا سا برتاؤ کیا جائے۔ کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم کسی کی نیت، قلبی کیفیت، باطن اور مستقبل کی بابت پیشگی فیصلہ صادر نہیں کر سکتے، شرعی احکام کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے، ہمارے لئے رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم ہے کہ:

”ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث“۔

ترجمہ: ”بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے“ اور مشہور مقولہ ہے: ”ظنوا المؤمنین خیراً“، ”یعنی مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو“، ہاں اگر وہ بار بار توبہ کرنے اور تجدید ایمان کے بعد پھر کفریہ کلمات کہتا ہے تو ایسا شخص زندیق ہے، آئندہ اس سے قطع تعلق لازم ہے، تاہم قول راجح کے مطابق اس کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔

باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ اعلان توبہ کے بعد اس کی تجدید نکاح کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس بارے میں رسول اللہ ﷺ فرمان ہے: ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ: لا یلدغ المؤمن من جُحرو احد مرتین“۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے



فرمایا: مومن ایک سو راخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔

(صحیح بخاری، رقم الحدیث: ۶۱۳۳، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۲۲۹۸، ابو داؤد

: ۳۸۶۲، ابن ماجہ: ۴۱۸۹، مسند احمد: ج ۲ ص ۳۷۹)

اور کسی مردانا کا مشہور مقولہ ہے:

”من جرب المعجرب فقد حلت به الندامة“۔

ترجمہ: جس نے آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمایا تو اسے شرمندگی اٹھانی ہوگی۔ اس

لئے یہ بہتر ہے کہ دوبارہ اس سے معاملہ کرنے سے بچا جائے۔

شوہر کے کلمہ کفر کہنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، شوہر کفر صریح کا ارتکاب کرے

تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ عمل معکوس اگرچہ حرام ہے، لیکن اس سے

نکاح باطل نہیں ہوتا۔

نوٹ: فعل قوم لوط حرام ہے، یہ غیر انسانی اور غیر فطری ہے، عمل قوم لوط انتہائی شنیع و قبیح

اور حرام فعل ہے، اس کی سنگینی اور شدت جانتا چاہیں تو یہ احادیث ملاحظہ فرمائیں:

(۱) عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال: من وجد تمره يعمل عمل قوم

لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جسے قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو

“، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۵۶۱، سنن ترمذی، رقم الحدیث: ۱۳۵۶)۔

نوٹ: واضح رہے کہ مفعول اس وعید کا مصداق تب ہوگا، جب وہ مرد خاں اور غبت اس گناہ

کبیرہ میں شریک ہو، لیکن اگر اسے (جان یا عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دے کر) اس پر مجبور کیا گیا ہو، تو وہ معذور ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استُكبرَ هوا عليه“۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور اس عمل کی اخروی جواب دہی سے صرف نظر فرمایا ہے، جس پر اسے (جان یا عضو تلف کرنے کی دھمکی دے کر) مجبور کر دیا گیا ہو، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۰۳۳)۔

(۲) ”عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ فی الذی یعمل عمل قوم لوط، قال: ارجموا الاعلیٰ والاسفل ارجموا جميعا“۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے، فرمایا: فاعل و مفعول دونوں کو سنگسار کر دو، (ایسے) سب لوگوں کو سنگسار کر دو، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۵۶۱)۔

(۳) ”عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ ان اخوف ما اخاف علي امتي عمل قوم لوط“۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اپنی امت پر امور حرام میں سے سب سے زیادہ جس گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، وہ قوم لوط کا عمل ہے، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: ۲۵۶۳)۔

(۴) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبر۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل اس مرد کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرماتا، جو مرد سے جنسی خواہش پوری کرے یا عورت سے عمل معکوس کرے“، (سنن الترمذی، رقم الحدیث: ۱۱۶۵، صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: ۴۱۹۱)۔

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ عمل قوم لوط کی یہ سزا بطور تعزیر اور اس سے بھی زیادہ وعید کے طور پر ہے، یہ زنا کی سزا کی طرح حد نہیں ہے، لہذا حاکم و قاضی کی صوابدید پر موقوف ہے کہ اپنے عہد اور حالات کے تقاضے کے تحت اس کی کیا سزا مقرر کرے۔ نیز خدانخواستہ کوئی شخص کسی کو اس جرم میں مبتلا دیکھے تو شخصی طور پر اسے سزا دینے کا حق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف حاکم اور قاضی کا حق ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر سزا تجویز کرے۔

اپنی منکوحہ بیوی سے عمل قوم لوط کرنا اگرچہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، شوہر جبر واکراہ سے ایسا کرے تو صرف وہ مجرم ہے اور اگر بیوی بھی اس پر رضامند ہے، تو وہ بھی برابر کی مجرم ہے، لیکن اس سے ان کا نکاح باطل نہیں ہوگا۔

حد و شرعی کے علاوہ جن کی سزا شارع نے قطعی طور پر مقرر کر دی ہے، باقی جرائم میں حاکم یا قاضی کو مصلحت اور سیاستاً تعزیر کے طور پر کسی جرم کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ سزا مقرر کرنے کا حق ہے اور احادیث رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں حاکم یا قاضی بطور تعزیر قوم لوط کی زیادہ سے زیادہ سزا یعنی سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔

## عقد ثانی کیلئے پہلی بیوی کی اجازت کا مسئلہ

### سوال: 67

ایک شخص جو کہ شادی شدہ ہے اور بیوی سے بچے بھی ہیں وہ شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کر لیتا ہے۔ پہلی بیوی کا مطالبہ ہے کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دو، تو جناب دریا فت طلب یہ ہے کہ:

- (۱) کیا دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟
- (۲) پہلی بیوی کا مطالبہ کہ دوسری کو طلاق دو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟، (طاہر قاسم، کراچی)

### جواب:

شرعاً دوسرا نکاح کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بشرطیکہ شوہر دونوں ازواج کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، دونوں کے درمیان عدل و مساوات قائم کرے، یعنی دونوں کو ایک معیار کی رہائش، ایک ہی معیار کی خوراک اور مصارف زندگی فراہم کرے اور دونوں میں ایام کی تقسیم بھی برابر برابر کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَإِنْ حِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْبِلُوا فِرَاجِدَةً“

یعنی اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ایک سے زیادہ ازواج کے درمیان تم عدل قائم نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ شرعاً، قیام عدل و مساوات کی شرط کے ساتھ، عقد ثانی کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لازمی اور ضروری شرط نہیں ہے، اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہو تو اس کے لیے وکیل سے رجوع کرنا مناسب ہوگا

، نہ پہلی بیوی ہی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کو مجبور کرے کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دو، اسی طرح دوسری بیوی کے لئے بھی ایسا مطالبہ کرنا شرعاً ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نفسا نیت اور انا نیت سے بالاتر ہو کر حد و دشرع کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، (آمین) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

نکاح پر نکاح کا شرعی حکم

سوال: 68

امریکہ میں رہنے والی ایک مسلمان لڑکی نے ایک دوسرے مسلمان لڑکے کو شادی کی پیشکش کی۔ تقریباً چار ماہ تک وہ لڑکی اور اس کی ماں لڑکے سے اصرار کرتے رہے کہ وہ جلد از جلد شادی کا انتظام کرے۔ اس اصرار کیلئے لڑکی اور اس کی ماں دوسرے شہر سے لڑکے کو راضی کرنے کیلئے آیا کرتے تھے۔ لڑکے نے بالآخر چار ماہ بعد 9 نومبر 1997ء کو منگنی کا انتظام کیا۔ تقریب میں بیس کے قریب رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔

منگنی کے بعد لڑکے نے شادی کی نیت سے پاکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور پاکستان آ بھی گیا۔ لیکن لڑکی کچھ کاموں کا عذر کر کے اس کے ساتھ نہیں آئی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی بھی پاکستان پہنچ گئی، اور 5 اپریل 1998ء کو لاہور میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔

ابھی حال ہی میں لڑکی نے اپنے شوہر پر انکشاف کیا کہ ”ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے جب تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور منگنی کی تقریب ہوئی تھی، تو اس

وقت میں کسی اور شخص کی منکوحہ تھی۔ لہذا اب ہمیں نئے سرے سے نکاح کرنا چاہیے۔“

تحقیق کرنے پر یہ صورت حال سامنے آئی کہ جب لڑکا پاکستان آ گیا تھا اور لڑکی اس وقت تک امریکہ ہی میں تھی، اس دوران 14 جنوری 1998ء ہی کو اس لڑکی نے پہلے شوہر سے منصوبہ بندی کے تحت کچھ جواز بنا کر طلاق حاصل کی تھی۔ کو یہ طلاق کے 80 دن بعد 81 ویں دن اس کا نکاح دوسرے شوہر سے ہو گیا۔

ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں شوہر، لڑکی کے نکاح میں ہونے کے باوجود دوسرے نکاح کے ارادے اور کوشش سے قطعی بے خبر تھے اور اس کے علاوہ لڑکی کی یہ دوسری کوشش اور تیسری شادی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بالارادہ کیا گیا تھا۔ یہاں امریکہ میں لڑکی کی طرف سے طلاق کے مطالبے پر لڑکے کو ایک بھاری رقم لڑکی کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شادی پیسے کی خاطر کی گئی تھی۔ لڑکی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ لڑکا مالدار طبقے سے متعلق ہے۔ لڑکی لڑکے سے عمر میں تقریباً آٹھ یا نو سال چھوٹی ہے۔

مندرجہ بالا صورت حال کے پیش نظر اسلامی شریعت کی روشنی میں درج ذیل سوالات کے باحوالہ جوابات مطلوب ہیں۔

- 1..... کیا ایک شادی شدہ عورت کسی غیر لڑکے کو نکاح کا پیغام دے سکتی ہے؟
- 2..... اس مخصوص صورت حال میں منگنی کی تقریب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
- 3..... حلالہ کی صورت میں جو طلاق پہلے سے منصوبہ بندی کر کے حاصل کی جاتی

ہے، ہمارے علم کے مطابق علماء نے اس کو جائز نہیں بتایا ہے تو کیا مذکورہ صورت میں منصوبہ بندی کے تحت ارادہ اور کوشش کے ذریعے طلاق حاصل کرنا اور دوسرے شخص سے نکاح کرنا بھی اس زمرے میں نہیں آئے گا؟

4..... کیا عدت کی مدت پوری کئے بغیر 81 ویں دن نیا نکاح کر لینا جائز ہے؟، کیا اس صورت میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟

5..... کیا تیسرے نکاح کی خواہش اور اس کو حتی الامکان منعقد کر لینے کی کوشش اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ پیشہ وارانہ سارویہ اختیار کیا گیا ہے؟ واضح رہے کہ عورت کی عادت ماہواری میں اس طرح تھی کہ دو مہینہ اس کو مسلسل ماہواری آتی تھی اور دو مہینہ پاک رہتی تھی، (سائل کمال، کراچی)۔

### جواب:

جب کسی شخص نے نکاح کا پیغام دیا ہو، تو اس پر دوسرے شخص کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخطب الرجل على خطبة ائحیه۔“

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص اپنے (دینی) بھائی کے پیغام نکاح کے اوپر پیغام نہ دے،“ (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1412, 1413، ابن ماجہ رقم الحدیث: 1868)۔

خطبہ کے معنی ہیں: ”منگنی کرنا یا نکاح کا پیغام دینا“۔ جب صرف پیغام نکاح پر دوسرا

پیغام بھیجنا پسندیدہ ہے، یعنی جب تک فریقین کا معاملہ زیرِ غور ہو، اور پیغامِ نکاح کے رد و قبول کا فیصلہ نہ ہوا ہو، اس وقت تک کسی فریق ثالث کی طرف سے نکاح کا پیغام دینے کو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی احادیث میں ”إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ“ اور ”حَتَّى يَذَرَ“ یعنی پہلا پیغامِ نکاح دینے والا دوسرے شخص سے خود کہہ دے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے، آپ اپنے لئے کوشش کر سکتے ہیں یا خود ہی ارادہ ترک کر دے، تو جب تک کوئی خاتون شوہر سے طلاق یا اس کی وفات کی صورت میں عدت گزار کر نکاح کی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد نہ ہو جائے، کسی دوسرے مرد کیلئے اسے نکاح کا پیغام دینا کیسے جائز ہوگا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب پیغامِ نکاح پر پیغام دینا حدیث میں صراحتاً منع ہے، تو شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کو نکاح کا پیغام دینا بطریقِ اولیٰ سخت حرام اور قبیح امر ہے۔ ہمارے یہاں جو منگنی کی مخصوص تقریب کی جاتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ نکاح کا پیغام منظور کرنے کے بعد عزیزوں کے سامنے علانیہ اظہار کرنا تا کہ تمام لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ کیا جائے گا، مستحسن امر ہے۔ نیز یاد رہے کہ منگنی نکاح نہیں بلکہ ”وعدہ نکاح“ ہے۔ صورتِ مسئلہ میں جو لوگ منگنی کی اس تقریب میں شریک تھے، اگر ان کے علم میں یہ بات تھی کہ لڑکی شادی شدہ ہے، تو سب لوگ حرام کے مرتکب ہوئے، ان تمام لوگوں کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ سائل نے زیرِ بحث مسئلہ کو حلالہ کے مشابہ قرار دیا ہے، اُس کا اس صورت پر تطبیق اور اطلاق کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صورتِ مسئلہ میں اس جیسی کوئی صورتِ حال نہیں



ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس پر شدید ظلم کرے، ضرب شدید کی حد تک مار پیٹ کرے، نان نفقہ نہ دے، حقوق زوجیت ادا نہ کرے، یہاں تک کہ اس کیلئے حدود شرع میں رہتے ہوئے ازدواجی زندگی گزارنا عملاً ناممکن بنا دیا جائے، ایسے شوہر کو فقہی اصطلاح میں ”زوج جمعیت“ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کا اپنے شوہر سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کرنا شرعاً درست ہے، ورنہ سازگار حالات میں عورت کی جانب سے طلاق کا مطالبہ کرنا یا بلا سبب شوہر کا از خود طلاق دینا شرعاً انتہائی ناپسندیدہ اور قبیح امر ہے، اور اس فعل کی ممانعت اور قباحت اس صورت میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جب بیوی یا شوہر اسے طلبِ زر کا ذریعہ بنالیں، یہ اگرچہ حقیقتہً تو نہیں لیکن صورتاً جنسی کاروبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ صورتِ مسئلہ میں بیان کیا گیا ہے۔

طلاق کے شرعاً انتہائی ناپسندیدہ ہونے پر چند احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں:

عن ابن عمر ان النبی ﷺ قال ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال امور میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔

(ابن ماجہ رقم الحدیث: 2018، ابوداؤد رقم الحدیث: 2170-2171)

عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ ﷺ یا معاذ ما خلق اللہ شیئاً علی وجه الارض احب الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئاً علی وجه الارض ابغض الیہ من الطلاق۔

ترجمہ: ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: اللہ نے روئے زمین پر غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب چیز کوئی پیدا نہیں فرمائی اور طلاق سے زیادہ قابلِ نفرت کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، (مشکوٰۃ رقم الحدیث: 3294 سنن الدار قطنی ج 4 ص 35)۔

ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ نیز باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے یا بلاوجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کو منافقات فرمایا اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو ان پر حرام ہے، حدیث پاک میں ہے:

عن ثوبان عن النبی ﷺ قال المختلعات هن المنافقات۔

ترجمہ: ”ثوبان بیان کرتے ہیں کہ (بلا جواز) خلع حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔“ (الترمذی رقم الحدیث: 1186؛ مشکوٰۃ رقم الحدیث: 3290؛ نسائی رقم الحدیث: 3461)

ان احادیث میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک ہی مفہوم بیان کیا گیا ہے اور مختلعات و ممتازعات کے کلمات استعمال کئے گئے ہیں، جن کے معنی محدثین نے یہ بیان کئے ہیں: ایسی حد دہجہ نافرمان عورتیں جو بلا جواز ہر صورت میں اپنے شوہر سے خلع، طلاق اور گلو خلاصی کا مطالبہ کریں۔

عن ثوبان عن رسول اللہ ﷺ قال ایما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غیر بأس فحرام علیہا رائحة الجنة۔

ترجمہ: ”ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی عورت اپنے

شوہر سے (کسی شرعی جواز اور حرج کے بغیر) طلاق کا مطالبہ کرے، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے،“ (ابوداؤد رقم الحدیث: 2221، ابن ماجہ رقم الحدیث: 2055)۔

ان روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ بیوی کا بلاوجہ اپنے شوہر سے طلاق لینا، جنت کی خوشبو سے محروم ہونے کا باعث ہے، اور صورت مسئولہ میں اگر مسائل کا بیان درست ہے تو عورت کا محض مالی منفعت کیلئے نکاح جیسے مقدس رشتے اور طلاق جیسے عند اللہ مبعوض اور قبیح امر کو کاروبار اور لذت کوشی کا ذریعہ بنانا حرام ہے، بلاوجہ بار بار طلاق لے کر نئی جگہ شادی کرنا احکام الہیہ کی صریح مخالفت ہے، اس پر سچے دل سے توبہ کرنا فرض ہے۔ عدت کی مدت پوری کیے بغیر کسی دوسری جگہ نکاح کرنا ناجائز و حرام ہے، ان دونوں میں فی الفور تفریق کرانی چاہیے اور اگر نہ مانیں تو ان کے ساتھ میل جول، کھانا پینا ترک کر دینا ضروری ہے۔

جو لوگ اس نکاح میں شریک ہوئے اگر انہیں اس بات کا علم تھا کہ لڑکی شادی شدہ تھی اور اب طلاق لے کر عدت کی مدت پوری کئے بغیر دوسرا نکاح کر رہی ہے تو ان سب لوگوں پر توبہ لازم ہے نیز لڑکی اور اس کی ماں صورت مسئولہ میں اس گناہ میں برابر کی شریک ہیں لہذا انہیں سچے دل سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

ترجمہ: ”اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض روکے رکھیں

“ (القرآن، البقرہ: 228)۔

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۔

ترجمہ: ”اور (ابھی ان سے) عقدِ نکاح کی بات کہی نہ کرو، یہاں تک کہ مقررہ مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے“، (القرآن، البقرہ: 235)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

والمعنى لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة (حتى يبلغ الكتاب اجلته) يريد تمام العدة والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة، حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح في زمان العدة۔ وهذا من المحكم المجمع على تاويله ان بلوغ اجله انقضاء العدة وقيل الثوري والكوفيون والشافعي، يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون مخاطبا من الخطاب۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ دورانِ عدت عقدِ نکاح کی بات پختہ نہ کرو۔۔۔۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ“ عدت کے اندر عقدِ نکاح کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا یہ مفہوم قطعی اور اجماعی ہے کہ ”بلوغِ اجل“ سے مراد عدت کا گزر جانا ہے، امام ثوری، حنفیہ اور شافعیہ نے کہا ہے: ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور یہ حرمت ابدی نہیں ہے، بلکہ وہ نکاح فسخ کر دیا جائے گا، پھر وہ عورت عدت گزارے گی، پھر وہ

شخص چاہے تو اسے نکاح کا پیغام دے، (احکام القرآن للقرطبی ج: 3 ص: 192, 193, 194)۔

علامہ ابو بکر حصاص اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قوله تعالى (و لا تعزموا عقدة النكاح) معناه ولا تعقدوه ولا تعزموا عليه ان تعقدوه في العدة (حتى يبلغ الكتاب اجله) یعنی به انقضاء العدة۔

ولا اختلاف بين الفقهاء ان من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة من غير ان المنكاح فاسد۔ فقال ابو حنيفة و ابو يوسف و محمد و زفر عليهم الرحمة يفرق بينهما ولها مهر مثلها فاذا انقضت عدتها من الاول تزوجها الآخر ان شاء وهو قول الثوري والشافعي عليهما الرحمة۔

”(منہوم عبارت): اس کے معنی یہ ہیں کہ مطلقہ عورت کی عدت جب تک گزر نہ جائے، اس سے نکاح کرنا اور یا نکاح کی بات چکی کرنا ممنوع ہے، اور اس مسئلے میں فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت سے اس حال میں نکاح کیا کہ وہ اپنے سابق شوہر کی عدت کے اندر تھی، تو یہ نکاح فاسد ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (ایسے نکاح کی صورت میں) ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور عورت مہر مثل کی حق دار ہوگی، اور جب پہلے شوہر کی دی ہوئی طلاق کی عدت ختم ہو جائے، تو اگر دوسرا چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، امام شافعی اور امام ثوری علیہما الرحمہ کا بھی یہی قول ہے، (احکام القرآن للجصاص: ج 1 ص: 425)۔

## امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں:

اخبرنا مالك اخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار انهما حدثا ان ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها ابا سعيد ابن منبة او الحلاس بن منبة فضر بها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات و فرق بينهما وقال عمر ايتما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ثم اعتدت ببقية عدتها من الاول ثم كان خاطبا من الخطاب وان كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت ببقية عدتها من الاول ثم اعتدت بعدتها من الاخر ثم لم ينكحها ابدا -

(مفہوم عبارت): "امام مالک نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی رشید ثقفی کے نکاح میں تھی، تو ان سے (طلاق کے بعد) عدت کے اندر ہی ابو سعید بن منبہ یا حلاس نے نکاح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ضربِ خفیف کے ساتھ تاً دیا مارا اور فرمایا: جو کوئی عورت (طلاق کے بعد) اپنے سابقہ شوہر کی عدت کے دوران نکاح کرے گی، اس صورت میں اگر اس شوہر (زوجِ ثانی) نے اس سے مباشرت نہ کی ہو، تو وہ اپنے سابق شوہر کی عدت پوری کرے گی، پھر یہ دوسرا شوہر چاہے تو اس سے نکاح کرے یا پیغامِ نکاح دے، (یعنی دورانِ عدت کیا جانے والا نکاح کالعدم ہے) اور اگر اس دوسرے شوہر نے اس سے مباشرت کر لی ہو، تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، پھر وہ پہلے شوہر کی بقیہ عدت گزارے گی اور اس کے

بعد دوسرے شوہر کی عدت گزارے گی اور اس شخص کو چاہیے کہ اس عورت سے کبھی نکاح نہ کرے“، (موطا امام محمد ص: 250، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)۔

عن معاھد قال رجع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی التی تنزوج فی عدتھا الی قول علی بن ابی طالب وذلك ان عمر قال اذ دخل بہما فرق بینہما ولم یجتمعا ابدا واخذ صداقھا فجعل فی بیت المال فقال علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ لھا صداقھا بما استحل من فرجھا فاذا انقضت عدتھا من الاول تزوجھا الاخر ان شاء فرجع عمر الی قول علی بن ابی طالب۔ وقال محمد وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا۔

(مفہوم عبارت): ”مجاہد نے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اپنے اس قول سے (کہ دوسرے شوہر کی مباشرت کی صورت میں ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور اس عورت کا مہر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور پھر ان دونوں کے درمیان کبھی نکاح نہیں ہو سکے گا) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف رجوع کر لیا کہ وہ عورت تفریق کے بعد مہر کی حقدار ہوگی، کیونکہ شوہر نے اس سے حلال جان کر مباشرت کی، اور جب پہلے شوہر کی عدت گزار جائے تو دوسرا شوہر چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، امام محمد نے کہا کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہاء کا یہی قول ہے“، (الموطا لامام محمد ص: 251)۔

محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علي بن ابي طالب  
 انه قال في المرأة تنزوج في عدتها قال يفرق بينهما وبين زوجها الاخر ولها  
 المصداق منه بما استحج من فرجها وتستكمل ما بقي من عدتها من الاول وتعد  
 من الاخر عدة مستقلة ثم يتزوجها الاخر ان شاء قال محمد وبهذا نأخذ  
 الا انما نقول تستكمل عدتها من الاول وتحتسب بما مضى من ذلك من  
 عدة الاخر الى استكمالها عدة الاول وتعد ما بقي من عدة الاخر۔

(مفہوم عبارت): ”امام محمد کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا  
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وہ عورت جس نے سابق شوہر کی عدت کے  
 دوران دوسرا نکاح کر لیا ہو تو ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور وہ مہر  
 کی (بھی) حقدار ہوگی، کیونکہ اس دوسرے شوہر نے حلال جان کر اس سے مباشرت  
 کی، پھر وہ پہلے شوہر کی عدت پوری کرے گی اور اس کے بعد دوسرے شوہر کی عدت  
 مستقل پوری کرے گی، پھر اگر دوسرا شوہر چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، امام محمد کہتے  
 ہیں: یہی ہمارا مسلک ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے کی عدت کو پورا کرے گی اور اس  
 تفریق کی تاریخ سے پہلی بقیہ عدت اور دوسری عدت ایک ساتھ شروع ہوں گی، گویا  
 دونوں عدتوں میں مداخل ہوگا، یعنی پہلی عدت کی بقیہ مدت، دوسری عدت کی ابتدائی  
 مدت شمار ہوگی۔“ (کتاب الاثار امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایت امام محمد  
 علیہ الرحمۃ ص: 256، اعلاء السنن: ج: 11 ص: 134)

واتفقوا على ان النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض او عدة حمل



اوعدة اشهر. وقال ابو حنيفة والشافعي والثوري يفرق بينهما واذا انقضت العدة  
بينهما فلا باس في تزويجه اياها مرة ثانية۔

مفہوم عبارت: ”اس مسئلے پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں  
ہے، خواہ وہ عدت حیض ہو یا عدت حمل ہو یا (آئسہ اور بیوہ غیر حاملہ ہونے کی صورت  
میں) مہینوں کے شمار کے اعتبار سے عدت ہو۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام ثوری  
نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور پھر عدت گزرنے کے  
بعد وہ شخص اس عورت سے حسب منشا دوبارہ نکاح کر سکتا ہے“، (الفصل الحادی عشر  
فی مانع العدة، بدایة المجتہد ونہایة المقتصد ج: 2 ص: 35)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(اذا وطعت المعتدة بشبهة وجبت عدة اخرى وتلا خلنا وعليها ان تتم) العدة  
الثانية ان تمت الاولى) وكننا لو بالاشهر۔

ترجمہ: ”معتدہ (یعنی جو عورت ایام عدت میں ہے) کے ساتھ وطی بالشبهہ (یعنی جسے وہ  
اپنی دانست میں جائز سمجھیں) کر لی گئی ہو تو (پہلی عدت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس  
پر) دوسری عدت پوری کرنا بھی لازم ہے، اور ان دونوں میں مداخل ہوگا (یعنی پہلی  
عدت کی بقیہ مدت اور دوسری عدت ایک ساتھ شروع ہوں گی)، خواہ عدت حیض ہو یا  
عدت ایام (غیر حائض ہونے کی صورت میں) یا عدت وفات یا عدت وضع حمل“۔

(رد المحتار علی الدر المختار ج: 5 ص: 159، مطلب فی وطی المعتدة

بشبهة، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

صورت مسئلہ میں بر تقدیر صدقہ سائل، عورت نے سابق شوہر سے طلاق کے 81 ویں دن نکاح کیا، جو اس کی عدت کے ایام تھے، کیونکہ وہ مستحاضہ ہے اور اس کی عدت تین ماہ ہوتی ہے، 10 دن حیض کے باقی 20 دن پاکی کے، لہذا عدت کے ایام پورے 90 نوے دن ہوں گے، عدت کے دوران جو نکاح ہوا وہ فاسد اور کالعدم ہے، جیسا کہ آیات و روایات اور فقہاء کرام کے اقوال سے ظاہر و باہر ہے۔ دورانِ عدت نکاح تو درکنار، نکاح کا پیغام دینا بھی سخت حرام ہے۔ عورت، اس کی ماں اور جو لوگ، یہ ساری حقیقت معلوم ہونے کے باوجود نکاح میں شریک ہوئے، سب پر تو بہ لازم ہے۔ لیکن چونکہ زوجِ ثانی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہذا اس پر کوئی گناہ اور الزام نہیں، تاہم دونوں کے درمیان فوری طور پر تفریق کر دی جائے گی، اگر عورت کے ساتھ زوجِ ثانی نے عملِ زوجیت (Sexual Intercourse) کر لیا ہو تو عورت پر پہلی عدت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دوسری عدت بھی لازم ہے، اگر مہر مقرر ہوا تھا تو عورت اس مہر کی حقدار ہے، جبکہ وہ مہرِ مثل سے کم ہو، ورنہ وہ مہرِ مثل کی حقدار ہوگی، پہلی عدت کی بقیہ مدت اور دوسری عدت، دونوں ایک ساتھ شروع ہوں گی۔ اگر دورانِ عدت نکاح کی صورت میں زوجِ ثانی نے عورت سے مباشرت نہیں کی، تو صرف پہلی عدت کی تکمیل لازم ہے اور عورت مہر کی حقدار بھی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں تکمیلِ عدت کے بعد وہ دونوں باہمی رضا مندی سے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر مسئلہ معلوم ہونے کے بعد وہ علیحدگی اختیار نہ کریں، تو مسلمانوں پر ان کا مقاطعہ (Social Boycott) لازم ہے۔

چونکہ صورت مسئلہ میں عورت حائض نہیں ہے، اور اگر وہ حاملہ بھی نہیں ہے، اور زوج ثانی کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہے، تو تفریق کی تاریخ سے نوے دن کی عدت اس پر لازم ہے۔ اور عورت اور اس کی ماں پر صدقہ دل سے تو بہ کرنا لازم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے صریح احکام سے بغاوت اور ان کے استخفاف و استہزاء پر انھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عاقبت کی بربادی کیلئے تیار رہنا چاہیے، انھوں نے ایسا کر کے ناپاک جسارت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی ہے، نحوذبا للذمنا ذالک۔

اگر عورت واقعی سچے دل سے تو بہ کر لے تو جدائی کے دن سے تین ماہ کامل عدت گزارنے کے بعد زوج ثانی سے نکاح کر سکتی ہے۔ عورت اور اس کی ماں کو چاہیے کہ ایسی فتیح حرکات اور لالچ سے سچی تو بہ کریں اور احکام الہیہ کا تمسخر کر کے غضب الہی کو دعوت نہ دیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

مہر مؤجل یا معجل کی شرعی حیثیت

### سوال: 69

مندرجہ ذیل دو مسئلوں کا حل مطلوب ہے۔

(1) کیا مہر مؤجل میں قبل از مباشرت عورت کو مہر میں سے کچھ حصہ دینا ضروری ہوتا ہے یا کہ نہیں؟۔

(2) کیا مہر کی مؤجل اور معجل میں تقسیم حضور ﷺ کے زمانے سے ہے یا آپ کے زمانے کے بعد شروع ہوئی؟، دلائل کی روشنی میں فتویٰ دے کر عند اللہ ماجور ہوں، (محمد سرفراز، نکاح آزاد کشمیر)۔

## جواب :

قرآن وحدیث میں مہر کے لئے صدق، صدق، صدق اور اُجور کے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کا مادہ اور ماخذ ”صدق“ ہے۔ ملا علی القاری مرقات شرح مشکوٰۃ شریف میں اس کی وجہ تسمیہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مہر کو ان الفاظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت کی جانب شوہر کے میلان کی صداقت کی دلیل اور علامت ہوتا ہے۔ اسلام کے سوا دنیا کے کسی بھی مذہب میں نکاح کے ساتھ مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ اسلام نے مہر عورت کی تکریم کی علامت کے طور پر مشروع کیا ہے، کیونکہ ایک اجنبی عورت جو نکاح سے پہلے حرام ہوتی ہے، عقد نکاح کے نتیجے میں شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ مہر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے تو دوسری جگہ نکاح ہونے تک یا گذر اوقات کا کوئی معاشی ذریعہ مقرر ہونے تک اس کے پاس اتنی رقم ہو جس سے وہ اپنی کفالت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو سخت تاکید کی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا مہر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً“ (القرآن)

ترجمہ: ”جن عورتوں سے (بذریعہ نکاح) تم فائدہ اٹھا چکے ہو، تو ان کا مقررہ مہر ادا کر دو۔“

فقہاء کرام نے اصول شرع سے استنباط کرتے ہوئے نکاح میں مہر مقرر کرنے کی تین قسمیں بیان کی ہیں: (1) مہر معجل (2) مہر مؤجل (3) مہر مؤخر

مہر معجل: اس مہر کو کہتے ہیں جو رخصتی سے قبل دینا قرار پایا ہو، اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ جب تک اسے مکمل وصول نہ کر لے، شوہر کے یہاں نہ جائے اور اس نہ جانے سے وہ نفقہ سے محروم نہ ہوگی۔ جو مہر معجل ٹھہرا وہ ہمیشہ معجل ہی رہے گا جب تک عورت اپنی رضا سے اسے مؤجل نہ کر دے، حتیٰ کہ کئی سال تک عورت کا مطالبہ نہ کرنا اس کے حق میں فرق نہیں لاتا۔ وہ جب اور جس وقت چاہے اپنے مہر معجل کا مطالبہ کر سکتی ہے اور جب تک نہ ملے تو وہ اپنے نفس کو شوہر سے روک سکتی ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(ولہا منعه من الرطی) و دو اعیہ (و السفر بہا ولو بعد و طئی و خلوة رضیتہما)۔

ترجمہ: بیوی کو مہر معجل کل یا بعض جتنا بیان ہو یا عرف میں جتنی مقدار معجل ہوتی ہے وصول کرنے کے لئے خاوند کو و طئی اور اس کے لئے دواعی سے منع کرنے کا حق ہے اگرچہ زوجہ کی رضا مندی سے پہلے و طئی یا خلوت ہو چکی ہو، (ردالمحار، جلد: 2، ص: 35)۔

مہر مؤجل: وہ مہر ہے جس کی ادائیگی کے لئے اجل یعنی ایک میعاد قرار پائی ہو، مثلاً سال بھر بعد یا دس برس بعد، میعاد جب تک پوری نہ ہو جائے تو عورت کو مطالبے کا اختیار نہیں، میعاد پوری ہونے کے بعد مطالبہ کر سکے گی اور میعاد آنے پر اگر شوہر دینے میں تاخیر کرے تو اس کے لئے اپنے نفس کو نہیں روک سکتی خصوصاً جبکہ رخصتی ہو چکی ہو۔

شرح جامع صغیر علامہ قاضی خاں میں ہے: ترجمہ: اگر مہر مؤجل ہو تو مقررہ مدت ختم ہونے سے قبل یا بعد بیوی کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور فتاویٰ شامی میں ہے: (ترجمہ) بحر میں فتح سے ہے: یہ جب ہے کہ مقررہ مدت پوری ہونے سے قبل دخول کی شرط نہ لگائی گئی ہو اور اگر یہ شرط لگائی گئی ہو اور بیوی کی رضامندی سے دخول ہو چکا ہو تو پھر بالاتفاق اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: ترجمہ: اور ہمارے علاقہ کا عرف یہ ہے کہ مہر کا حصہ ادا کرنے سے قبل دخول ہوتا ہے، تو معروف مشروط کی طرح ہوتا ہے اس لئے ہمارے علاقہ میں بالاجماع بیوی کو منع کا حق نہیں ہوگا، (جد الممتار)۔

مہر مؤخر: اس مہر کو کہتے ہیں جو نہ تو رخصتی سے پہلے دینا قرار پایا ہو، نہ اس کی ادائیگی کیلئے میعاد مقرر ہوئی ہو، اس کا مطالبہ موت یا طلاق سے قبل نہیں ہو سکتا، نہ اس کے لئے کسی وقت اپنے نفس کو روک سکتی ہے۔ مختصر الوقایہ میں ہے: (ترجمہ) معجل یا مؤجل مہر کو بیان کیا گیا ہو تو بہتر و زور نہ عرف میں جو مراد ہو وہی ٹھہرے گا۔ اس کی شرح میں ہے: (ترجمہ) یہی مختار ہے کیونکہ متاخرین نے مہر کو عرف پر مبنی قرار دیا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: (ترجمہ) اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مہر کے لئے مدت مقرر کی جا سکتی ہے مثلاً مہینہ یا سال وغیرہ، یہ صحیح ہے اور اگر مدت معلوم نہ ہو تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض نے فرمایا: صحیح ہے، اور یہی اصح ہے کیونکہ انتہا معلوم ہے کہ وہ طلاق ہے یا موت ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

ترجمہ: ”مہر مؤخر میں بیوی کو مطالبے کا حق موت یا طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، نکاح کے وقت سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔“

ہمارے یہاں عرف میں مؤجل سے مراد مہر مؤخر ہوتا ہے کیونکہ مہر مؤجل میں مدت کی تعیین ہوتی ہے اور مدت کی تعیین کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لئے اس مہر کے مطالبے کا حق عورت کو شوہر کے موت یا طلاق دینے پر ہی ہے، اس سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ مہر مؤجل، جس میں مدت معلوم ہو یا مہر مؤخر کی صورت میں شوہر پر وطی سے پہلے مکمل مہر یا کچھ حصہ دینا واجب نہیں ہوتا، نہ ہی مہر ادا کئے بغیر وطی حرام ہوتی ہے۔ البتہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے: کچھ حصہ اگر شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لئے اپنی مرضی سے دے دے تو یہ اس کے لئے مستحب ہے۔

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن ہمام لکھتے ہیں:

پسندیدہ امر یہ ہے کہ دخول سے پہلے کچھ دے دیا جائے اور بغیر دیے بھی دخول جائز ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایک عورت کو اس کے خاوند کے کچھ دینے سے پہلے اس کے پاس کچھ بھیج دوں، (سنن ابی داؤد حدیث: 2128 سنن بیہقی ج: 7 ص: 253)۔

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو دخول سے پہلے کچھ دینا مستحب ہے، واجب نہیں تاکہ عورت کا دل دخول کے وقت خوش ہو اور اس کی تالیف قلب ہو، (فتح القدر: ج: 3، ص: 306 مطبوعہ مرکز اہلسنت برکات رضا، ہند)۔

دکتور وہبہ الزحیلی لکھتے ہیں:

فقہاء نے ادا بیگی مہر کیلئے مدت مقرر کرنے کو جائز قرار دیا ہے، حنفیہ نے کہا: مہر کا مہجل ہونا یا مہجل ہونا درست ہے، خواہ سارے کا سارا مہجل ہو یا اس کا کچھ حصہ، اور ادا بیگی کی میعاد قریب ہو یا دور، یا یہ قرار دیا ہو کہ دو میعادوں میں سے جو قریب ہو (وہ مراد ہے)، جیسے طلاق یا وفات، اسلامی ممالک میں ان امور میں عرف اور عادت پر عمل ہوگا، بشرطیکہ یہ میعاد جہالت فاحشہ پر مشتمل نہ ہو، جیسے شوہر یوں کہے کہ میں نے ایک ہزار درہم مہر کے عوض تم سے نکاح کیا، جب مجھے آسانی ہوگی ادا کروں گا یا جب ہوائیں چلیں گی یا جب بارش برسے گی وغیرہ، تو ایسی میعاد مقرر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جہالت فاحشہ ہے۔ اور جب مہر کی بالاقساط ادا بیگی پر صراحت کے ساتھ (فریقین کا) اتفاق ہو جائے، تو اس پر عمل (لازمی) ہوگا، کیونکہ (فریقین کا) اتفاق صراحت کی مانند ہے اور عرف دلالت کے قبیل سے ہے اور صریح دلالت سے زیادہ قوی ہے۔ اور جب مہر کے مہجل یا مہجل ہونے پر کوئی اتفاق نہ ہو تو پھر مقامی عرف کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جو چیز عرفاً معروف (و معہود) ہو وہ مشروط ہی کی طرح ہوتی ہے۔

اور اگر مہر کے مہجل یا مہجل ہونے کے بارے میں مقامی طور پر کوئی عرف طے شدہ نہ ہو تو عورت فوری طور پر مہر کی حقدار ہوگی، کیونکہ مسکوت (یعنی جس کے بارے میں عقد کے وقت سکوت اختیار کیا ہو) کا حکم مہجل ہی کا ہے، کیونکہ اصل اور قاعدہ یہی ہے کہ عقد کے پورا ہوتے ہی مہر لازم ہو جاتا ہے۔

کیونکہ ہر عقد کا اثر لازم ہے، اور جب صراحتاً یا عرفاً کوئی میعاد مقرر نہ ہو تو اصل پر عمل



ہوگا، کیونکہ (بنیادی طور پر) نکاح مبادلے کا عقد ہے تو (لازمًا) جائیں سے مساوات کا تقاضا کرتا ہے، (الفقہ الاسلامی والادلۃ، جلد نمبر: 7 ص: 248-247)۔

جہیز و بری کے سامان کی ملکیت کا مسئلہ اور ایام عدت کا نفع

### سوال: 70

بوقت نکاح اور اس کے بعد شوہر بیوی کو جو زیور، کپڑے اور دیگر ذاتی استعمال کی اشیاء دیتا ہے، تین طلاقوں کی صورت میں مذکورہ اشیاء کیا واپس لے سکتا ہے؟۔ (احتشام الحق، کراچی)

### جواب:

صورت مسئلہ میں معلوم ہو کہ شادی کے موقع پر دلہن کو شوہر یا سسرال والوں کی جانب سے جو زیورات، لباس، سامان اور تحائف وغیرہ ملتے ہیں، اسے عرف عام میں ”بری“ کہا جاتا ہے۔ بری کے سامان کی ملکیت و استحقاق کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں نارمل حالات میں اٹھتا ہی نہیں ہے، اگر عائلی و ازدواجی زندگی خوشگوار ہے، باہم محبت ہے، سب معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں تو اس طرح کے سوالات خواب و خیال میں بھی نہیں آتے چہ جائے کہ عملی زندگی میں ان کو چھیڑا جائے۔ تاہم ان کی ممکنہ صورتیں اور ان کے احکام درج ذیل ہیں:

(1) یہ کہ کسی علاقے، کمیونٹی یا برادری میں یہ معروف اور طے شدہ اصول ہو کہ بری کا سامان شوہر یا اس کے خاندان کی ملکیت ہوتا ہے، تو عرف بھی نص شرع کی طرح ہوتا ہے اور اسی پر معاملات کا فیصلہ ہوگا اور عورت کے لئے محض تصرف و استعمال

کی اجازت ہی سمجھی جائے گی اور طلاق کی صورت میں وہ سامان شوہر کا ہوگا اور اس کی وفات کی صورت میں وہ اس کے ترکے میں شمار ہوگا۔

(۲) شادی کے موقع پر باقاعدہ تحریری طور پر یا زبانی طے کر لیا جائے کہ بری کا سامان کس کی ملکیت ہوگا تو بعد میں اسی کے مطابق عمل ہوگا اور بہتر یہی ہے کہ شادی کے موقع پر نکاح نامے میں یہ درج کر دیا جائے کہ بری کے زیورات اور سامان کس کی ملکیت ہوں گے تاکہ بعد میں خدانخواستہ طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں تنازع نہ پیدا ہو۔

(۳) شادی کے موقع پر یہ سامان دلہن کو ہبہ (GIFT) کر دیا گیا ہو، لیکن بعد میں زوجین میں اختلافات رونما ہونے کی بناء پر نیت میں فتور آ جائے تو ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے کو حدیث پاک میں ایک معیوب اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے اور یہ مکروہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) العائد فی ہبته کالعائد فی قبیئہ۔

”ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو تے کر کے دوبارہ اسے چاٹ لے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4062)۔

(۲) مثل المذی یرجع فی صلقتہ کمثل الکلب یقی ثم یعود فی قبیئہ فیما کلہ۔

”جو شخص صدقہ کر کے اس سے رجوع کرتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی ہے جو تے کرتا ہے، پھر لوٹ کر اسے کھا لیتا ہے“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4058)۔

امام احمد رضا قادری فرماتے ہیں:

”دلہن کا گہنا جوڑا جو بری میں جاتا ہے، اگر نصاباً یا عرفاً اس میں بھی تملیک ہوتی ہو، جیسے شکر، میوہ، عطر پھللیل وغیرہ میں مطلقاً ہوتی ہے، تو وہ بھی قبضہ منکوحہ، ملک منکوحہ ہوگا، ہمارے یہاں شرفاء کا عرف ظاہر یہی ہے، ولہذا بعد رخصت اس کے واپس لینے کو سخت معیوب و موجب مطعونی جانتے ہیں، اور اگر لے لیں تو طعنہ زن یہی کہتے ہیں کہ دے کر پھیر لیا یا صرف دکھانے کو دیا تھا، جب دلہن آئی چھین لیا، یعنی یہ ان کی رسم معہود کے خلاف ہے، اس صورت میں تو اس کے لئے بعینہ وہی احکام ہوں گے جو دولہا کے جوڑے میں گزرے کہ بعد ہلاک دلہن سے تاوان لینے کا اصلاً اختیار نہیں، جیسے شکر، میوہ کا تاوان بٹنے کے بعد نہیں مل سکتا، اگر چہ ہنوز کھانے میں نہ آیا ہو.....

آگے چل کر لکھتے ہیں..... ہاں جہاں عرف تملیک نہ ہو بلکہ صرف پہنانے کے لئے بھیجا جاتا اور پہنانے والوں ہی کی ملک سمجھا جاتا ہو، وہاں دلہن کی ملک نہیں، ایک عاریت ہے کہ بحالت بقا جس سے رجوع ہر وقت جائز و حلال“، (فتاویٰ رضویہ، ج ۱۲، ص ۲۰۸، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ میری دانست میں ہمارے یہاں بھی معزز خاندانوں اور شرفاء کا معمول اور عرف یہی ہے کہ بری کا سامان و زیورات وغیرہ دلہن کو بطور ملک دیئے جاتے ہیں اور وہ ان پر مالکانہ تصرف کرتی رہتی ہے، تاہم جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، اگر کسی خاندان، برادری، کمیونٹی یا علاقے کا رواج اور عرف یہی ہے کہ بری کے زیورات اور سامان دلہن کو عاریتاً محض استعمال کے لئے دیئے جاتے ہیں نہ کہ ملکیت کے طور پر، تو وہ اپنے عرف پر ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔

## بیوی کا الگ جائے رہائش کا حق

سوال: 71

کیا از روئے شریعت بیوی کو الگ مکان یا جائے رہائش کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اگر شوہر صاحب حیثیت ہو تو کیا کرے، اور اگر وہ کسی مشترک فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور بیوی کو الگ مکان دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اس کے لئے کیا حکم ہے، (مولانا نصیر اللہ نقشبندی، آزاد کشمیر)۔

جواب:

بیوی کے نان نفقہ اور رہائش یعنی مصارف ضروریہ کی فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

”اور والد کے ذمے ان (دودھ پلانے والی ماؤں) کی خوراک اور لباس دستور کے موافق لازم ہے“، (البقرہ: 233)۔

(۲) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ط  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ط

ترجمہ: ”کشادہ روزگار والا اپنی حیثیت کے مطابق (اپنی بیوی کو) نفقہ دے اور جس پر روزی تنگ کر دی گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے (اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو) نفقہ دے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی بساط سے بڑھ کر کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا“، (الطلاق: 7)۔

(۳) اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ط

ترجمہ: ”(اپنی حیثیت کے مطابق) عورتوں کو وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان پر تنگی کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ“، (الطلاق: 6)۔

ان آیات کے تحت علامہ قرطبی مالکی اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں لکھتے ہیں کہ قاضی شوہر کی حیثیت اور بیوی اور بچے کی ضرورت کی مناسبت سے نفقے کی مقدار مقرر کرے گا۔

علامہ برہان الدین المرغینانی ”المہدایہ“ میں باب النفقہ کے تحت لکھتے ہیں:

(ويفرض لها على الزوج النفقة اذا كان موسر ونفقة خادماها)۔

”اگر شوہر مالدار ہے تو اس پر بیوی کا نفقہ اور اس کے خادم کا نفقہ بھی واجب ہے“، وہ مزید لکھتے ہیں:

(وعلى الزوج ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله الا ان تختار ذلك) لان السكنى من كفايتها فتحب لها كالنفقة وقد اوجبه الله تعالى مقروناً بالمنفقوا اذا وجب حقها ليس له ان يترك غيرها فيه لانها تنضرر فيه فلها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع الا ان تختار لانها رضيت بانتقاص حقها۔

شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھے، جہاں اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ رہتا ہو، ہاں اگر بیوی کو ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تو پھر دوسروں کے

ساتھ رکھنا بھی درست ہے، کیونکہ ”جائے رہائش“ بیوی کی ضروریات میں سے ہے تو اس کا یہ حق اس طرح واجب ہے جیسے نفقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوب کا حکم نفقہ کے وجوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور جب الگ ”جائے رہائش“ بیوی کے حق کے طور پر واجب ہے تو اس پر دوسروں کو اپنے ساتھ ٹھہرانا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لئے باعث تکلیف ہو سکتا ہے اور اس کا سامان بھی اس طرح محفوظ نہیں رہے گا، اور شوہر کے ساتھ بلا تکلف میل جول میں بھی (مشتز کہ رہائش) رکاوٹ بنے گی اور وہ آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے لطف نہیں اٹھا سکیں گے، ہاں اگر وہ خود ایسی صورت حال پر راضی ہے تو درست ہے کیونکہ اس نے خود ہی اپنا حق باطل کر دیا۔“

علامہ محمود احمد نسیمی کنز الدقائق میں ”باب النفقہ“ کے تحت لکھتے ہیں: ”بیوی کا نفقہ اور لباس دونوں کے حالات کی مناسبت سے شوہر پر لازم ہے۔“ النہر الفائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۵۰۴ پر ہے: ”شوہر پر وجوب نفقہ کا جو صریح حکم شرعی ہے وہ گھر خوراک و لباس اور نقد ضروریات سب پر مشتمل ہے۔“ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے اور نفقہ کی اصطلاح خوراک، لباس اور جائے رہائش سب کو شامل ہے۔ نفقہ کا معیار مقرر کرتے وقت شوہر پر اس کی مالی حیثیت سے زیادہ معیار کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، عربی میں ”دار“ مکان کو کہتے ہیں اور ایک ”دار“ میں کئی ”بیت“ ہو سکتے ہیں۔ عورت ایک مشتز کہ ”دار“ میں الگ ”بیت“ کا مطالبہ کر سکتی ہے، جس کا الگ دروازہ ہو اور جہاں اس کا سامان محفوظ ہو اور جسے وہ اپنی حسب منشاء کھول سکے اور بند کر سکے، جہاں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو اور جہاں میاں بیوی

کے ازدواجی تعلقات کے قیام اور بے تکلف میل جول میں کوئی حسی یا طبعی رکاوٹ نہ ہو، الگ گھر کے ساتھ ساتھ اس کے متعلقات (باورچی خانہ و ہیٹ الخلاء) بھی الگ ہونا ضروری ہیں یا نہیں یہ حالات پر منحصر ہے۔ اگر شوہر مالدار ہے تو بیوی الگ مکان کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، علامہ ابن عابدین شامی نے اپنے فتاویٰ ردالمحتار میں یہ تمام امور تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

مہر کا معاہدہ اور مہر کی رقم میں اختلاف

## سوال: 72

میں مسمی افتخار احمد ولد سلیم خان، ساکن ہڈہ، جیل روڈ، کوئٹہ آپ کی خدمت میں مندرجہ ذیل تفصیل پیش کر رہا ہوں، جس کی روشنی میں اٹھائے گئے سوالات پر آگاہی فرمائیں اور فتویٰ صادر فرمائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے مجھے کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو اور مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو اور حقدار کو اس کا پورا پورا حق ملے، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔

تفصیل نمبر: مؤرخہ 17-06-1993 کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ یا اقرار نامہ بنوایا گیا، جس پر میری زوجہ مسماة مسرت نور دختر نور محمد کے بھائی مسمی ارشد خان نے دستخط کئے اور میرے جعلی دستخط کر کے اپنے جانے والے دو کوہان بنا کر دستخط کروا کر ایگریمنٹ یا اقرار نامہ رکھ لیا۔ جس میں شادی سے متعلق مختلف شرائط درج تھیں۔

مؤرخہ 18-06-1993 کو نکاح کی رسم قرار پائی۔ نکاح نامہ کے شرائط میں

ایگریمنٹ یا اقرارنامہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ ایگریمنٹ میں لکھی گئی حق مہر کی رقم 50,000/- روپے (پچاس ہزار روپے) تھی جبکہ نکاح نامے میں حق مہر کی رقم 5000/- روپے (پانچ ہزار روپے) لکھی گئی تھی۔ ایگریمنٹ اقرارنامے کی کاپی منسلک ہے۔ نکاح نامے (مؤرخہ 18-06-1993)، میں لڑکی کے والد اور لڑکی کے دستخط موجود ہیں، لیکن لڑکی کے بھائی جس نے ایگریمنٹ اقرارنامہ تیار کیا اس کے کہیں بھی اور کسی بھی حیثیت سے دستخط نہیں ہیں۔ نکاح نامے کی کاپی منسلک ہے، مندرجہ بالا تفصیل کی روشنی میں درج ذیل سوال پیش خدمت ہیں۔

### سوال: 73

اگر لڑکی یا اس کے والد نے ایگریمنٹ اقرارنامہ پر دستخط نہ کئے ہوں بلکہ صرف اس کے بھائی نے دستخط کئے ہیں تو ایسی صورت میں ایسے ایگریمنٹ اقرارنامے کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہوگی۔

### سوال: 74

کیا لڑکی اور اس کے والد کی موجودگی میں لڑکی کا بھائی ایک طرفہ طور پر لڑکے سے کوئی معاہدہ یا اقرارنامہ کرنے کا مجاز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی جبکہ لڑکے نے نکاح نامے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، (یہاں مندرجہ بالا لڑکے سے مراد لڑکی کا بھائی ارشد خان ہے)۔

### سوال: 75

اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایگریمنٹ پر لڑکی کے شوہر نے دستخط کئے تھے تو



ایسی صورت میں ایگریمنٹ / اقرارنامے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، جس میں لڑکی نے خود دستخط نہ کئے ہوں اور نہ ہی لڑکی کے والد نے۔

تفصیل نمبر ۲: لڑکی اپنے شوہر سے علیحدہ ہو کر اس بنیاد پر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی کہ لڑکے نے اس کو اس کی بڑی بیٹی جوڑکے کی پہلی بیوی سے ہے، جس کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی، کی موجودگی میں طلاق دے دی ہے۔ لڑکی کے والد نے ایک مفتی صاحب کو بتلایا کہ لڑکے نے میری بیٹی کو بہ ہوش و حواس تین بار طلاق دے دی ہے، جس پر مفتی صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ لڑکی کو طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور اب لڑکی بغیر حلالہ کے لڑکے پر حرام ہوگئی فتویٰ منسلک ہے۔

لڑکی نے اس فتوے کی بنیاد پر فیملی کورٹ میں نان نفقہ، حق مہر اور جہیز کے سامان کا کیس داخل کیا۔ فیملی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا کہ طلاق کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، کیونکہ فریقین نے اس پر نہ کوئی گواہی پیش کی ہے۔ اور نہ ہی لڑکے نے طلاق کو قبول کیا ہے۔ دیگر ایگریمنٹ / اقرارنامہ کی رو سے اس میں درج حق مہر کی رقم - / 50,000 روپے (پچاس ہزار روپے) کو اس بنیاد پر ختم کر دیا گیا کہ چونکہ نکاح نامہ میں - / 5000 روپے (پانچ ہزار روپے) لکھے گئے، لہذا حق مہر - / 5000 روپے (پانچ ہزار روپے) تسلیم کیا جائے گا۔ لڑکے نے جواب دعویٰ میں کہا کہ - / 5000 روپے حق مہر اس کے والد نے بوقت نکاح لڑکی کے والد کو ادا کر دیئے تھے۔ لیکن فیملی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ - / 5000 روپے لڑکی کو دینا ضروری ہیں لہذا اس کے والد کو دیئے گئے - / 5000 روپے حق مہر کی مد میں تسلیم نہیں

کئے جاسکتے۔

ایگریمینٹ کی شرائط میں یہ لکھا تھا کہ لڑکے کے دیئے گئے -/80,000 روپے کے زیورات لڑکی کی ملکیت تصور ہوں گے۔ ایگریمینٹ میں جہیز سے متعلق جو لڑکے نے دیا کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن فیملی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ چونکہ لڑکے نے لڑکی کو مارپیٹ کر نکال دیا ہے لہذا لڑکی کو وہ سامان بھی واپس کیا جائے جو لڑکے نے دیا تھا اور وہ سامان بھی واپس کیا جائے، جو لڑکی خود جہیز میں لائی تھی۔ فیملی کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ جہیز میں جو برتن تھے، ان کی حیثیت دس سالہ شادی کے دوران استعمال کی وجہ سے ختم ہو گئی لہذا وہ واپس نہ دیئے جائیں، لیکن اس کے علاوہ لڑکے کا دیا گیا عام سامان اسی مالیت میں دیا جائے، جس مالیت کا لڑکی نے اپنے کیس میں لکھا تھا۔ جبکہ وہ سامان بھی دس سال سے زائد استعمال میں رہا ہے۔ فیملی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ چونکہ لڑکی لڑکے کی مارپیٹ کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، لہذا جب تک طلاق کا مسئلہ طے نہ ہو جائے تب تک لڑکا لڑکی کو -/1000 روپے ماہوار کے حساب سے جو کہ ایگریمینٹ / اقرارنامے میں لکھا گیا تھا ادا کرے گا۔ اقرارنامہ کی کاپی منسلک ہے۔

مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں درج سوال پیش خدمت ہیں۔

**سوال: 76**

اگر طلاق کا مسئلہ واضح نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ حکم جاری کیا جاسکتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو جہیز کا تمام سامان جو کہ لڑکی جہیز میں لائی تھی یا لڑکے نے جہیز میں دیا تھا

واپس کیا جائے، شرع کیا کہتی ہے۔

### سوال: 77

جیسا کہ ایگریمنٹ/اقرارنامے کی حیثیت پہلے واضح کی جا چکی ہے اس کی روشنی میں -/80,000 روپے کے لڑکی کو لڑکے کی جانب سے دیے گئے زیورات لڑکی کو ملنا چاہئیں، شرع کیا کہتی ہے۔

### سوال: 78

اگر طلاق کا مسئلہ طے نہ ہوا ہو تو کیا لڑکی کو نان نفقہ کی مد میں 1000 روپے ماہانہ دینے کا فیملی کورٹ کے حکم پر لڑکا پابند ہے، شرع کیا کہتی ہے۔

### سوال: 79

اگر لڑکا واضح طور پر حلف اٹھا کر یہ کہہ رہا ہو کہ اس نے لڑکی کو طلاق نہیں دی ہے تو اس کی اس بات کی شرعی کیا حیثیت ہے۔

### سوال: 80

اگر وہ بچی جو کہ 12 سال کی تھی جس کو کوہ کی حیثیت کسی نے نہیں دی اور نہ ہی عدالت میں بلوایا گیا، وہ بھی یہ کہے کہ اس کے والد نے اس کی دوسری ماں کو اس کی موجودگی میں طلاق نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کے لگائے گئے الزام پر کہ اس کو طلاق دے دی گئی تھی، شرع کیا کہتی ہے۔

### سوال: 81

اگر یہ واضح ہو جائے کہ لڑکے نے لڑکی کو طلاق نہیں دی ہے اور پھر بھی لڑکی

اپنے شوہر کے گھر واپس آنے پر راضی نہ ہو اور نہ ہی خلع کا حق استعمال کرے ایسی صورت میں لڑکے کو شرعاً کیا کرنا چاہیے۔

### سوال: 82

اگر لڑکی خود اپنی مرضی سے علیحدگی چاہے تو لڑکے پر دونوں طرف کے جہیز سے متعلق اور حق مہر سے متعلق اور نان نفقہ سے متعلق کیا کیا پابندیاں شرعاً لازم ہوں گی۔

### سوال: 83

ایگر یمینٹ کی رو سے حق مہر -/50,000 روپے کی اور نکاح نامے کے مطابق -/5000 روپے حق مہر کی شرعاً کیا حیثیت ہوگی اور کس حق مہر کی رقم کو شرعی طور پر درست تسلیم کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا مقدمہ ہائی کورٹ کی دورکنی بینچ کے سامنے آئینی پیشین کی شکل میں زیر سماعت ہے، جس میں 19 رتاریخ مقرر رہے، جس میں دونوں فریقین کو سنا جائے گا، یہ پیشین لڑکے کی طرف سے دائر کی گئی ہے، لہذا مندرجہ بالا سوالات اس معزز عدالت میں جواباً پیش کئے جائیں گے، لہذا اس کی شرعی حیثیت اور فتویٰ کی شکل میں جوابات اس پیشین میں نہایت معاون اور مددگار ثابت ہوں گے اور معزز بینچ کو اس پیشین پر فیصلہ کرنے میں نہایت آسانی ہوگی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کا فتویٰ اور شرعی حیثیت دلائل کے ساتھ عنایت فرمائیں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ میرا پتہ حسب ذیل ہے۔ (افتخار احمد، معرفت سلیم جنرل اسٹور، جیل روڈ، حدہ، کوئٹہ)

## جواب:

شریعت اسلامیہ کی رو سے عاقلہ بالغہ عورت پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، ایسی عورت اپنے معاملات میں خود مختار ہے، صورتہ مسئلہ میں اگر مذکورہ خاتون کے بھائی نے ایگریمنٹ کی کارروائی اور مہر کا تعین اپنی طرف سے کیا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے، اگر مذکورہ کارروائی عورت کی رضا اور اجازت سے کی گئی ہے اور مہر کی مقدار میں عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اختلاف ہے تو عورت کو زیادتی مہر کا دعویٰ کو اہوں سے ثابت کرنا پڑے گا، کو اہی کا نصاب از روئے شرع دو عادل مرد ہیں اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو ثقہ عورتیں ہیں، محض دستاویزات حجت نہیں ہیں۔

فتاویٰ قاضی خان جلد دوم ص ۳۷۰ پر ہے:

رجل ادعی علی رجل مالا فانکر المدعی علیہ فاخرج المدعی خطا باقرار المدعی علیہ بثلک المال وقال لهذا خط المدعی علیہ فانکر المدعی علیہ ان یکون خطه فاستکب فکتب وکان بین الخطین مشابہة ظاهرة اختلفوا فیہ وقال بعضهم لا یقضی هو الصحیح۔

ترجمہ: ”ایک شخص نے دوسرے شخص پر مال کا دعویٰ کیا تو ”مدعی علیہ“ نے اس دعوے کا انکار کر دیا، تو اس پر مدعی نے ایک تحریر نکالی، جس میں ”مدعی علیہ“ کی جانب سے اس مال کا اقرار درج تھا اور اس نے کہا کہ یہ مدعی علیہ کی تحریر ہے تو ”مدعی علیہ“ نے اس تحریر کا انکار کر دیا، پھر اس (مدعی علیہ) کو لکھوایا تو اس نے لکھا، بظاہر دونوں تحریروں میں مشابہت تھی، (علماء کا) اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا، اور بعض نے کہا کہ (محض

تحریر کی بناء پر مدعی کے حق میں (فیصلہ نہیں دیا جاسکتا، اور یہی بات صحیح ہے۔“

فتاویٰ شامی جلد چہارم ص ۳۵۳ پر ہے:

وبہذا عرف ان قولہم فیما اذا ادعی رجل مالا واخرج بالمال خطا وادعی  
انہ خط المدعی علیہ فانکر کون الخط خطہ فاستکتب فکتب وکان بین  
المخطین مشابہة ظاهرة تدل علی انہما خط کاتب واحد اختلف فیہ  
المشائخ والصحیح انہ لا یقضی بملک۔

ترجمہ: ”اس سے معلوم ہوا کہ فقہاء کا یہ قول کہ: ایک شخص نے (دوسرے شخص پر) مال  
کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں تحریر پیش کی اور دعویٰ کیا کہ یہ خود ”مدعی  
علیہ“ کی تحریر ہے، لیکن ”مدعی علیہ“ نے اسے اپنی تحریر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اس  
(مدعی علیہ) کو تحریر لکھوائی گئی اور اس نے تحریر لکھی، اور دونوں تحریروں میں بظاہر ایسی  
مشابہت تھی کہ لگتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں، اس مسئلے میں  
مشائخ کا اختلاف ہے اور صحیح قول یہی ہے کہ محض اس تحریر کی بناء پر مدعی کے حق میں  
(ثبوت دعویٰ کا) فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔“ فتاویٰ رضویہ جلد ہفتم ص ۳۵۷ پر ہے  
(مطبوعہ قدیم):

**جواب:**

حکم اللہ اور رسول کے لیے ہے، جل جلالہ و علیہ السلام ان الاحکام الا للہ  
، جب ہندہ منکر ہے تو شہادۃ عادلہ شرعیہ دو مرد یا ایک مرد و دو عورت ثقہ درکار ہے، فقط  
دستاویز اگرچہ خود ہندہ کے دستخط بقلم خود اس پر لکھے ہوئے یا اہلکار رجسٹری کی تحریر کہ

میرے سامنے اقرار کیا اصلاً کافی نہیں۔ فتاویٰ امام قاضی خان میں ہے:

القماضی انمما یقضی بالحجة والحجة هی البینة او الاقرار اما الصک فلا یصلح حجة۔

ترجمہ: ”قاضی حجت کی بناء پر مدعی کے حق میں فیصلہ کرے گا اور حجت یا تو کواہ ہیں یا خود مدعی علیہ کا اقرار، محض تحریر حجت نہیں بن سکتی۔“

الاشباه والنظائر ص ۱۱۶ پر ہے:

لا یعمد علی الخط ولا یعمل بہ۔ الخ

ترجمہ: ”محض تحریر پر نہ اعتماد کیا جاسکتا ہے اور نہ سے حجت مان کر ثبوتِ دعویٰ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔“

ان مذکورہ بالا فقہی حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ تحریری دستاویزات کواہوں کے بغیر حجت نہیں ہیں، صورتِ مسئلہ عنہا میں اگر عورت زیادتی مہر کی دعویٰ دے رہے، تو شرعی نصابِ شہادت کے مطابق وہ اپنا دعویٰ ثابت کر دے تو اس کا دعویٰ معتبر ہوگا، اگر عورت کواہ پیش کرنے سے قاصر ہو اور مرد کواہ پیش کرے تو مرد کا دعویٰ معتبر مانا جائے گا اگر کسی کے پاس بھی کواہ نہ ہوں تو مرد کے ذمے مہر مثل واجب ہوگا۔

فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص ۳۱۹ پر ہے:

اذا اختلف الزوجان فی قدر المہر حال قیام النکاح عند ابی حنیفة  
ومحمد بن حنبلہ اللہ تعالیٰ یحکم مہر المثل فان شہد لاحدہما کان

القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر - الخ -

2- شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق حدود و قصاص کے علاوہ دیگر

معاملات میں نصاب شہادۃ دو عادل مرد یا ایک مرد اور دو ثقہ عورتیں ہیں -

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ، الْآيَةُ -

ترجمہ: ”اور دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو  
عورتیں“۔ (البقرہ: ۲۸۲)

فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے اولاد کی گواہی والدین کے حق میں اسی طرح  
والدین کی اولاد کے حق میں حجت نہیں ہے، فتاویٰ عالمگیری جلد سوم ص ۳۷۹ پر  
ہے:

لا تسجوز شهادة الوالدين لولدهما وولد ولدهما وان سفلوا ولا شهادة  
الولد لوالديه واجدادهم وجداتهم وان علو - الخ

ترجمہ: ”اور والدین کی گواہی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے حق میں جائز نہیں  
ہے، اور اسی طرح اولاد کی گواہی اپنے باپ اور دادا دادیوں کے حق میں جائز نہیں  
ہے“۔

اس تمہید کے بعد صورتہ مسئلہ میں عورت طلاق کی دعویٰ دے رہی ہے اور مرد طلاق کا منکر ہے  
، قانون شریعت کی رو سے عورت کو چاہیے کہ نصاب شہادت کے مطابق اپنا دعویٰ



ثابت کر دے جبکہ عورت کے پاس صرف ایک گواہ ہے، اور وہ بچی جو گواہ کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، وہ مدعی علیہ یعنی شوہر کی فروع میں سے ہے اور یہ شہادۃ کئی وجوہ سے مردود ہے، ایک تو اس لیے کہ نصاب شہادت مکمل نہیں ہے اور دوسرا اس لیے کہ وہ گواہ مدعی علیہ کے فروع میں سے ہے بالفرض اگر نصاب شہادت مکمل ہوتا تو بھی چونکہ فروع اپنے اصول کے حق میں گواہی نہیں دے سکتی اس لیے یہ شہادت حجت نہ ہوتی، اور تیسرا اس لیے کہ بقول سائل وہ بچی انکار کر رہی ہے، اگر عورت کے پاس اور گواہ نہیں ہیں تو مرد سے قسم لی جائے گی، اگر مرد قسم کھالے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے تو نکاح علیٰ حالہ قائم ہے، صورتہ مسئلہ میں شوہر نے حلیہ بیان لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے لہذا شوہر کے حلف یعنی قسم کھانے کا اعتبار کر کے عدم وقوع طلاق کا فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، شوہر اگر جھوٹی قسم کھالے تو وبال اسی پر ہوگا، اگر عورت اپنے دعویٰ میں سچی ہے تو اسے چاہیے کہ مرد کو اپنے اوپر قدرت نہ دے، تاہم قضاء نکاح بحال ہے۔

3۔ اگر عورت مرد کی طرف سے کسی ایذا رسانی کے بغیر مرد کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو اور مرد کے حقوق کا خیال نہ رکھے ایسی عورت فقہاء کرام کی اصطلاح میں ”ناشزہ“ یعنی نافرمان کہلاتی ہے، اور ایسی عورت کا نان نفقہ، رہائش علاج معالجہ وغیرہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے جب تک کہ وہ مرد کے ساتھ رہنے پہ آمادہ نہ ہو جائے، عالمگیری جلد اول ص ۵۴۵ پر ہے: وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله الخ۔

ترجمہ: ”اگر عورت نافرمان ہو تو جب تک وہ واپس گھر لوٹ کر نہ آجائے۔ اس کا نان

فقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔“

صورتِ مسئلہ میں اگر مذکورہ فی السوال خاتون بغیر کسی تکلیف اور عذر کے اپنے شوہر کے گھر سے چلی گئی ہے تو وہ خرچے کی مستحق نہیں ہے، اگر شوہر اس پر جسمانی تشدد کرنا تھا یا اس کے دیگر حقوق کا خیال نہیں رکھتا تھا تو اس میں مرد قصور وار ہے اور ایسی صورت میں شوہر کے ذمے عورت کا خرچہ لازم ہے اور شوہر کو چاہیے کہ اپنا رویہ بدل لے اور بیوی کو حسن سلوک سے رکھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، الْآيَةُ

ترجمہ: ”اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ تم (ان پر) زیادتی کرنے لگو اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا“، (البقرہ ۲۳۱)۔

مرد عورت کو اس کے والدین کے ہاں جانے سے نہیں روک سکتا، یہ صلہ رجمی کے خلاف ہے، اگر والدین بیمار ہوں تو ان کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔

(ولا يمنعهما من الخروج الى الوالدین) فی کل جمعة ان لم يقدر علی اتيانها علی ما اختاره فی الاختيار ولو ابوها زمتا مثلا فاحتاجها فعليها تعاہده الخ۔

ترجمہ: ”اور شوہر بیوی کو ان کے والدین کے پاس جانے سے نہیں روکے گا، ہفتے میں ایک بار جب کہ اس کے والدین اس کے پاس نہ آسکتے ہوں جیسا کہ اختیار میں ہے اور اگر لڑکی کا والد پاٹھ ہو اور اس کو لڑکی کی خدمت کی ضرورت ہو تو لڑکی پر اس کی تیمار داری کرنا واجب ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد: 5، ص: 257، مطبوعہ: دار احیاء

التراث العربي، بيروت)۔“

3۔ شادی کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو جو زیور اور تحائف دیے جاتے ہیں، اگر شوہر نے محض استعمال کے لیے دیے ہیں تو عورت کی ملکیت ثابت نہ ہوگی، علیحدگی کی صورت میں وہ زیورات واپس لے سکتا ہے، اگر مرد نے وہ زیورات عورت کے ملک کر دیئے ہیں تو عورت کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اور اب مرد واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

صورتمسئولہ میں اگر مرد نے وہ زیورات عورت کے ملک کر دیے ہیں اور عورت کے پاس ثبوت ہے تو وہ زیورات عورت کے ملک متصور ہوں گے اور مرد واپس نہیں لے سکتا۔

عالمگیری جلد اول ص ۳۲۷ پر ہے:

وإذا بعثت الیٰ اهل زوجتہ اشیاء عند زفافها منها دیماج فلما زفت الیہ اراد ان یسترد من المرأة الدیماج لیس له ذلک اذ بعث الیها علیٰ جهة التملیک۔  
ترجمہ: ”اور جب اپنی بیوی کے گھر والوں کے ہاں کچھ چیزیں شب زفاف کیلئے بھیجی ہوں، اس میں ریشمی لباس بھی شامل ہے، تو شب زفاف کے بعد اس نے چاہا کہ ریشمی چادریا لباس واپس لے لے۔ تو اب اسے یہ حق نہیں ہے، جبکہ یہ ( چیزیں) تملیک کے ارادے سے بھیجی تھیں۔“

اگر مرد کی طرف سے تملیک یعنی عورت کی ملکیت میں دینے کی تصریح نہ ہو لیکن اگر اس علاقے یا برادری میں عرف یہی ہو کہ زیورات وغیرہ جو شادی کے موقع

پر دیے جاتے ہیں، وہ محض استعمال کے لیے نہیں دیے جاتے، بلکہ بطور تملیک دیے جاتے ہیں، تو بھی عورت کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔

فتاویٰ شامی جلد دوم ص ۳۶۴ پر ہے:

قلست ومن ذلك ما يبعثه اليها قبل الزفاف في الاعياد والمواسم من نحر ثياب وحلى و كذا ما يعطيها من ذلك او من دراهم او ذنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبيحة فان كل ذلك تعرف في زماننا كونه هدية لا من المهر ولا سيما المسمى صبيحة الخ -

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں اور ان میں سے وہ اشیاء بھی ہیں، جو رخصتی سے پہلے عیدین یا دیگر مواقع پر لڑکی کے ہاں بھیجی جاتی ہیں، جیسے لباس، زیور وغیرہ، اسی طرح شب زفاف کو جو درہم و دینار (یعنی نقد رقم) وغیرہ دلہن کو دیئے جاتے ہیں، جنہیں عرف میں ”صبحہ“ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ سب ہدیہ بھیجی جاتی ہیں، مہر کا حصہ نہیں، اسی لئے ان کا نام الگ سے ”صبحہ“ ہے، لهذا ما عنلى في هذا الباب والحق عند ربى عز وجل۔

لے پالک کے نکاح کے وقت ولدیت کا مسئلہ

گزارش ہے کہ عرصہ 24 سال پہلے میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، بچی کی پیدائش سے قبل میں اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ جو بھی اولاد ہوگی میں اُسے اپنی بڑی بہن (جو کہ عرصہ 8 سال سے لا ولد تھیں اور اُن کے ہاں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی) کو دو دوں گا۔ سو ایسا ہی ہوا اور اس بچی کی پیدائش کے بعد میں نے یہ اپنی بہن کو

کو دے دی۔ اس وقت اس معاملے کے شرعی پہلو اور قانونی مسائل سے میں واقف نہیں تھا۔ اپنے بہنوئی کے اصرار پر میں نے اس بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ منہ بولے والد کے نام پر بنوایا تا کہ اس کے تعلیمی معاملات میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مفتی صاحب! مسئلہ یہ ہے کہ خاندان والوں کو تو اس بات کا علم تھا کہ یہ بچی میری بہن کی نہیں بلکہ میری اولاد ہے، مگر میری بہن نے اپنے حلقہ احباب اور اڑوس پڑوس میں ہمیشہ اس بات کو چھپائے رکھا کہ یہ بچی ان کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ اس سال دسمبر میں میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ بات انہوں نے بچی کے سسرال سے بھی چھپائی ہے۔

عرصہ 12 سال سے میرے اپنی بہن سے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری بیٹی کے دل و دماغ میں اس کے منہ بولے والدین نے یہ بات نقش کر دی ہے کہ تمہارے ماں باپ کو بیٹیوں سے نفرت تھی، اسی لئے انہوں نے تمہیں ہمارے حوالے کر دیا۔ جبکہ حقیقتاً میری نیت صرف یہ تھی کہ میری بہن جو اولاد سے مایوس ہو چکی تھیں، ان کی ممتا کی تسکین ہو جائے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ مفتی صاحب! اس معاملے پر میرے چند سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دے کر ممنون فرمائیں۔

### سوال: 84

کیا ہم نے اولاد دے کر گناہ کیا ہے؟، کیونکہ کسی نے ہم سے کہا کہ ”جس کو اللہ نے محروم رکھا، اُسے دینے والے تم کون ہوتے ہو“، اس بات نے ہمیں خلش میں مبتلا کر رکھا ہے کہ شاید ہم سے گناہ ہوا ہے۔

**سوال : 85**

لے پالک اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟، تفصیلی جواب عنایت کریں۔

**سوال : 86**

ہماری بیٹی کے نکاح میں شرعاً اس کا ولی کون ہے؟۔

**سوال : 87**

لڑکی کے نکاح نامے میں کس کی ولدیت درج کی جائے، حقیقی باپ کی یا منہ بولے باپ کی؟۔

**سوال : 89**

کیا صرف ایجاب و قبول میں لڑکی کے حقیقی والد کا نام لے لیں تو کافی ہوگا؟۔

**سوال : 90**

بچی کے سسرال والوں سے کیا یہ بات چھپائی جاسکتی ہے، خصوصاً اس کے شوہر سے کہ اس کے اصل والدین کون ہیں؟۔

**سوال : 91**

یہ بات چھپانے سے ہماری بیٹی کا نکاح جائز ہوگا؟۔

**سوال : 92**

غلط ولدیت کے ساتھ پڑھائے جانے والے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟۔

**سوال : 93**

غلط ولدیت کے ساتھ ہونے والے نکاح میں شریک رشتہ داروں

خصوصاً چچا اور پھوپھی کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟۔

**سوال: 94**

اگر ایسے نکاح کی حیثیت مشکوک ہے، تو اس صورت میں حقیقی والدین کے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟۔

**سوال: 95**

ہماری بیٹی عاقل و بالغ ہے اور اپنے حقیقی والدین سے واقف بھی، ایسی صورت میں کیا خود اس پر بھی اپنے نکاح کے حوالے سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟۔

**سوال: 96**

نکاح کے حوالے سے منہ بولے والدین پر کیا شرعی اور اخلاقی فرائض عائد ہوتے ہیں؟۔

**سوال: 97**

کیا بچی کے ولی کے علم میں لائے بغیر کوئی دوسرا اس کی شادی کر سکتا ہے؟، نیز کیا منہ بولا باپ یعنی پھوپھی والی ہو سکتا ہے اور نکاح کی اجازت دے سکتا ہے؟۔

**سوال: 98**

کیا اولاد دینے کے بعد اس پر سے ہمارے سارے حقوق ختم ہو گئے؟، کیونکہ میری بہن یہ کہتی ہیں کہ ”بیٹی دے دی اب اُسے بھول جاؤ“۔

**سوال: 99**

ہماری بیٹی ہمارا ذکر نفرت سے اور بدتمیزی سے کرتی ہے، سلام سے گریز

کرتی ہے، کیا وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی اس لئے وہ کسی بھلائی کے مستحق نہیں؟۔

### سوال: 100

میری بہن بہنوی اس مسئلے کے بارے میں موجود واضح قرآنی آیات اور احادیث کے منکر ہیں اور ان پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں، ان کے بارے میں شریعت کی کیا رائے ہے؟ ان سب سوالوں کے تفصیلی جواب دے کر شکرِ یے کا موقع دیں، نیز براہِ مہربانی متنبی کے بارے میں قرآن میں موجود آیات کی نشاندہی بھی فرمادیجئے۔ (میر احمد علی، کراچی)۔

### جواب:

عربی زبان میں جو اپنا نسب اپنے حقیقی باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے، اسے ”ذعی“ کہتے ہیں اور اس کی جمع ”ادعیاء“ ہے، عرف عام میں اسے ”لے پالک“، ”متنبی“ یا ”Adopted Child“ کہتے ہیں۔ اسلام کی رو سے اپنے نسب کو اپنے حقیقی باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ط ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝ اَدْعُوْهُمْ لَاۤ اَبْنَاۤيَهُمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ جۢ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبۡۤاءَهُمْ فَاِخۡوَانُكُمْ فِى الدِّيۡنِ وَمَوَالِيۡكُمْ ط وَاِلَیۡسَ عَلَیۡكُمْ جُنَاحٌ فِیۡمَاۤ اَخۡطَاۡتُمْ بِهٖ لَا وَلٰكِنۡ مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوۡبُكُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ۝



ترجمہ: ”اور اس (اللہ) نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (حقیقی) بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہاری خود ساختہ باتیں ہیں، اور اللہ حق (بات) ارشاد فرماتا ہے اور وہ راہ (حق) کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، ان (لے پالکوں) کو ان کے (حقیقی) باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بات انصاف پر مبنی ہے، پس اگر تمہیں ان کے (حقیقی) باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم نے غیر ارادی طور پر کوئی بات کہہ دی ہو تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن جو بات تم نے قصداً کہی ہو، وہ (بہر حال گناہ ہے) اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے،“ (الاحزاب: 4, 5)۔

حدیث پاک میں ہے: عن سعد رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: مَنْ ادَّعىٰ اِلٰی غیر اَبیہ وھو یعلم انه غیر اَبیہ فالحنۃ علیہ حرام۔

ترجمہ: ”حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے (اپنا نسب) اپنے (حقیقی) باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا (حقیقی) باپ نہیں ہے، تو جنت اس پر حرام ہے“ (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6766)۔

”حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روایت کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں نے اس ارشاد رسول ﷺ کو براہ راست اپنے دونوں کانوں سے سنا اور میرے ذہن نے اس بات کو محفوظ رکھا“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6768)۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، جس نے اپنے باپ سے منہ موڑا تو یہ کفر ہے“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 6768)۔

بچے کی کفالت کرنا، نگہداشت کرنا بلاشبہ ایک نیک عمل ہے اور جو رضاء الہی کیلئے ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ ہمارے ہاں عرف عام میں اپنے کسی عزیز یا کسی اجنبی شخص یا لاوارث بچے کو کو دلایا جائے تو، اسے لے پا لک یا تہنئی کہتے ہیں، اس کا حکم حقیقی بیٹے یا بیٹی کا نہیں ہوتا۔

یہاں تک کہ اگر اس بچے یا بچی کے مری والدین کے درمیان نسب یا رضاعت کے حوالے سے حرمت نکاح کا کوئی رشتہ پہلے سے موجود نہیں ہے، تو یہ لڑکا جب بالغ ہو جائے گا، تو اس کی مریہ ماں اور اس کے درمیان شرعی حجاب لازم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر وہ لے پا لک بچی ہے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کے اور اس کے مری باپ کے درمیان شرعی حجاب لازم ہوگا۔ فقہ حنفی کی رو سے بالغ مرد یا بالغ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، یعنی نکاح کیلئے ان کی رضامندی ضروری ہے، ان کی مرضی کے خلاف جبر و اکراہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن والد یا ولی کے توسط سے ہو تو یہ طریقہ زیادہ شریفانہ، عفت، حیا اور عزت و آبرو کا مظہر ہے۔ البتہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ولی کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرنا چاہے تو ولی کو اس پر اعتراض کا حق ہے۔

بٹی کا اپنے والدین سے نفرت کرنا یا اپنے نسب سے انکار کرنا، نہایت معیوب اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے، انہیں اپنے والدین اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے۔

حدیث پاک میں ہے:

عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ ﷺ ارضى الرب في رضى الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے“، (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)۔

اس تمہید کے بعد یہ جاننا چاہئے کہ نکاح کی صحت کے لئے لڑکے اور لڑکی (یعنی دولہا و دلہن) کا ایک دوسرے کے لئے اور کوہانِ نکاح کے لئے شخصی طور پر معین ہونا ضروری ہے، علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

”ولا المنكوحة مجهولة“

ترجمہ: ”اور منکوحہ مجہولہ (یعنی نامعلوم اور غیر معروف) نہیں ہونی چاہئے۔“

اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح الا اذا كانت احدهما متروجة

فينصرف الي الفمراغة كما في البزازيه نهر، وفي معناه ما اذا كانت

احدهما محرمة عليه فيترجع الخ۔

ترجمہ: ”اگر ایک شخص کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے کسی تعین کے بغیر ایک بیٹی کا نکاح کیا (یعنی کسی سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی) تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ان دو بیٹیوں میں سے ایک پہلے سے شادی شدہ ہے، تو اس نکاح کے لئے غیر شادی شدہ از خود متعین ہو جائے گی (اور نکاح صحیح ہو جائے گا)، جیسا کہ ”بزازیہ“ اور ”تہر“ میں ہے۔ اسی طرح اگر ایک کسی سبب سے اس پر ویسے ہی حرام ہے (مثلاً وہ اس شخص کی رضاعی بہن ہے تو دوسری نکاح کے لئے متعین ہو جائے گی) الخ۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں:

قلست و ظاہرہ انہما لوجرت المقدمات علی معینۃ و تمیزت عند الشہود  
ایضاً یصح العقد۔

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں: اس عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ اگر مقدمات نکاح ایک معینہ لڑکی پر جاری ہوئے (مثلاً لڑکی کی طرف اشارہ کر کے باپ نے کہا کہ: ”میں نے اپنی یہ لڑکی تیرے نکاح میں دی“) اور وہ گواہوں کے نزدیک بھی ممتاز ہوگئی تو نکاح صحیح ہے“، (ردالمحتار: جلد 4 ص 66، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

آگے چل کر پھر درمختار میں ہے:

(غلط و کیلہا بالنکاح فی اسم ابیہا لغير حضورہا لم یصح)۔

ترجمہ: ”(نکاح کے وقت) لڑکی کے وکیل نے لڑکی کے باپ کا نام غلط لیا اور وہ لڑکی ذاتی طور پر وہاں موجود بھی نہیں ہے تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے“۔

اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

راجع الى المسئلتين اى فانها لو كانت مشارا اليها وغلط في اسم ابیها  
او اسمها لا یضر بان تعریف الاشارة الحسية اقوى من التسمية الخ۔

ترجمہ: ”یہ دونوں مسئلوں کی طرف راجع ہے، یعنی اگر وہ لڑکی بذات خود موجود ہو اور  
اس کی طرف تعین کیلئے اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا یا اس کے باپ کا نام لینے  
میں غلطی ہوگئی، تو یہ صحت نکاح کے لئے مضر نہیں ہے، اس لئے کہ اشارۃً حسیہ سے جو  
معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ نام لینے کی معرفت سے زیادہ قوی ہے“، (ردالمحتار علی  
الدرالمختار جلد 4 ص: 78, 79، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وفی فتاویٰ ابی الملیث رجل قال لقوم اشهدوا انی تزوجت هذه  
المرأة التي فی هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع الشهود مقالتها  
ولو يروا شخصها فان كانت فی هذا البيت وحدها جازا للنكاح وان  
كانت فی البيت معها اخرى لا يجوز۔

ترجمہ: ”اور فتاویٰ ابواللیث میں ہے: ایک شخص نے لوگوں سے (عورت کا نام لئے  
بغیر) کہا: تم کوواہ ہو جاؤ، میں نے اس عورت کا، جو اس گھر کے اندر ہے، نکاح (فلاں  
سے) کر دیا، تو اس عورت نے (اندر سے) کہا: مجھے قبول ہے، اور کوواہوں نے اس کی  
بات سنی حالانکہ اسے شخصی طور پر دیکھا نہیں، تو اگر گھر میں صرف وہی ایک عورت موجود  
تھی، تو نکاح صحیح ہے (کیونکہ وہ عورت شخصی طور پر متعین ہے)، اور اگر گھر میں اس کے  
علاوہ کوئی اور عورت بھی تھی تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہے، (کیونکہ اب وہ شخصی طور پر

متعین نہیں ہے)۔“ (فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۳۶۸، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

مولانا مفتی وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی متعدد سوالات کے جواب میں لکھا:  
”نسب کا دار و مدار ولدیت پر ہوتا ہے، اس لئے ہر جگہ جو حقیقی باپ ہے، اس کا نام لکھنا چاہئے تھا دستاویزات میں جو سوتیلے باپ کا نام لکھا، وہ غلط ہے۔ حدیث میں باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا سخت ممنوع ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے۔ نکاح کی صحت کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کے نزدیک متعارف ہونا شرط ہے، لہذا لڑکی سے جب وکالت حاصل کی جائے گی اور وکیل خاص شوہر کو بتائے گا تو لڑکی جس نام سے مشہور ہے اور پہچانی جاتی ہے، اس نام سے بتائے گا اور سوتیلے باپ کی نسبت سے مشہور ہے تو اس نام کی طرف نسبت کر کے ایجاب کر سکتے ہیں، پھر بھی مناسب یہ ہے کہ اس کی سوتیلی بیٹی بتا کر تعارف کروا دیا جائے اور اگر اپنے اصل باپ کی نسبت سے مشہور ہے تو اس کا نام لے کر قبول کر لیا جائے۔ نکاح نامہ میں اصل باپ کا نام لکھا جائے اور سوتیلے باپ کی پرورش کردہ بیٹی لکھ دیا جائے۔“

نوٹ: قرآن کی اصطلاح میں پرورش کردہ بیٹی کو ”رَبِیْبَةٌ“ کہا گیا ہے لہذا ”رَبِیْبَةٌ فَلَانٌ“ (مرئی کا نام) کہہ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔

ایک اور موقع پر ان سے دریافت کیا گیا کہ لڑکے نے اپنی دنیوی اغراض (یعنی ہندوستانی تھا مگر پاکستانی قومیت حاصل کرنے) کے لئے تمام دستاویزات میں باپ کے بجائے چچا کا نام لکھا، اب نکاح کے وقت مجبوری ہے کہ اگر اصل باپ کا نام لکھتا

ہے تو دستاویزات (پاسپورٹ، شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد وغیرہ) میں تضاد ہوتا ہے اور بہت سے معاملات میں قانونی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ تو اب کیا کرے۔ وہ جواب دیتے ہیں:

”اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف بیٹے ہونے کی نسبت کرنا حرام ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں لعنت آئی ہے۔ نکاح میں لڑکی سے وکالت حاصل کرتے وقت بڑے کا تعین ضروری ہے۔ اگر لڑکا اسی طرح جانا پہچانا جاتا ہے کہ چچا کو باپ ہونے کے اعتبار سے لوگ جانتے ہیں تو وکالت صحیح ہو جائے گی اور نکاح بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی یا لڑکے کے گھر والے اس کو حقیقی باپ کے اعتبار سے جانتے ہیں اور چچا کا بیٹا نہیں سمجھتے، تو پھر وکالت چچا کا بیٹا بنا کر حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگی اور جب وکالت صحیح نہیں ہوگی، تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔“

اسی طرح کے ایک اور سوال کے جواب میں وہ لکھتے ہیں:

” (۲) نکاح صحیح ہونے کے لیے شوہر اور بیوی کے نام اس طرح لئے جائیں گے، جس طرح وہ پہچانے جاتے ہیں اور معروف ہیں، تا کہ وہ معین ہو جائیں۔ لڑکا جب مشہور اس طرح سے ہے کہ سوتیلے باپ کا بیٹا بنا کر لوگ پہچانتے ہیں اور اس کے حقیقی باپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے تو لڑکی سے وکالت حاصل کرتے وقت سوتیلے باپ کا نام لے کر وکالت حاصل کی جائے تا کہ وہ معین ہو جائے۔ اس صورت میں نکاح نامہ پر یہ لکھنا مناسب ہوگا کہ وکالت میں حقیقی باپ کا نام لکھنے کے بعد یہ لکھ دیں: ”معروف ولد فلاں“، یعنی سوتیلے باپ کی طرف نسبت کر دیں۔“

ایک اور سوال میں جب ان سے دریافت کیا گیا کہ کسی لڑکی کی پرورش ماموں نے کی اور پھر ہر جگہ ولدیت کے ریکارڈ میں اپنا نام لکھ دیا اور شادی کے موقع پر لڑکی سے اجازت بھی اس کے ماموں کی ولدیت کی نسبت سے لی گئی، حالانکہ ایک گواہ کو اصل صورت حال بھی معلوم تھی کہ اس کا حقیقی والد فلاں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں:

”قبول کرنے کے لیے شوہر چونکہ خود ہوتا ہے، وہ خود قبول کرتا ہے، اس لئے شوہر کے نام لینے یا اس کے والد کے نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لڑکی سے وکالت کے لیے شوہر کو معین کر کے وکالت لینا ضروری ہے۔ لہذا شوہر اگر ماموں کا بیٹا ہونے سے مشہور ہے اور لوگ اس کا بیٹا سمجھتے ہیں اور لڑکی سے ماموں کا لڑکا بتا کر وکالت حاصل کی گئی ہے تو یہ وکالت صحیح ہوگی۔ اور وکیل نے اسی کے ساتھ نکاح کر دیا تو یہ نکاح صحیح ہو گیا۔ اور اگر لڑکی شوہر کو ماموں کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے نہیں جانتی تھی نیز شوہر اس طرح مشہور بھی نہ تھا بلکہ اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت سے مشہور تھا اور وکالت ماموں کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ حاصل کی گئی تو جس سے نکاح کرنے کے لیے لڑکی نے وکیل مقرر کیا، وکیل نے اس کے ساتھ نکاح نہ کیا تو یہ نکاح فضولی ہوا تھا۔

آپ کے بیشتر سوالات کے جوابات مندرجہ بالا تفصیل میں آچکے ہیں، آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے استفتاء کا اصل محرک تلاشِ حق سے زیادہ باہمی ناچاکی ورنجش ہے، جو دونوں خاندانوں کے درمیان پیدا ہو چکی ہے،



کوشش کریں کہ کسی طرح باہم مل بیٹھ کر اس رنجش کا ازالہ کریں۔

تاہم بقیہ سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں: بہن کی دلداری کیلئے بچی کو ان کی گود میں دے دینا اور بچی کی پرورش کرنا، شرعاً کوئی معیوب بات نہیں ہے بس اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ”بیانِ نسب“ اور بلوغت کے بعد حجاب کے معاملے میں شرعی احکام ملحوظ رہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ: ”جس کو اللہ نے محروم رکھا اس کو دینے والے تم کون ہوتے ہو؟“، یہ بالکل غلط اور باطل سوچ ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر کی حکمتوں کو خود بہتر جانتا ہے اولاد اور مال و دولت کی نعمت بطور انعام و جزا ہوتی ہے اور کبھی بطور امتحان۔ اس طرح کی سوچ منافی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْطَعِمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

ترجمہ: ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے رزق میں سے کچھ (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو، تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں، جسے اللہ چاہتا تو (خود ہی) رزق عطا کر دیتا، تم تو صریح گمراہی میں ہو،“ (یسین: 47)۔ لہذا کسی کے لاولد ہونے یا مسکین ہونے کا اس طرح تمسخر نہیں اڑانا چاہئے۔

بٹی کے نکاح میں شرعاً ولی اس کا باپ ہوتا ہے، لہذا فقہ حنفی کی رو سے اگر لڑکی ولی کی رضامندی کے بغیر اپنے کفو میں نکاح کر لے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا یہ عمل

شرعاً ناپسندیدہ ہے۔

”مَرَبِي“ کا بیٹی کو اس کے حقیقی ماں باپ سے برگشتہ کرنا یا والدین کی نافرمانی پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ”قطع رحمی“ (یعنی قرابت کے رشتے کو توڑنا) پر ابھارنا یا اس میں اعانت کرنا ہے اور یہ فعل حرام ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

نکاح کے وقت ایجاب و قبول کے موقع پر حقیقی والد کا نام لیا جائے تو صحت نکاح کیلئے کافی ہے، باقی تفصیلات اوپر درج ہے۔

نکاح نامہ میں حقیقی والد کا نام درج کرنا ہی صحیح ہے، اس کے آگے ”رَبِيہِ فِلاں“ لکھ دیں، تعلیمی اسناد میں ولدیت کی تصحیح قانونی ذرائع سے کی جائے حقیقی والدین کے حقوق کبھی معطل و منسوخ نہیں ہوتے، ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔

لا وارث بچے کی ولدیت کا مسئلہ

### سوال: 101

مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو اسپتال سے ایک بچی ملی، بچی کی ماں، بچی کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی۔ بچی کی نانی نے وہ بچی ہم لوگوں کے حوالے کر دی۔ اب بچی ماشاء اللہ اٹھارہ (18) سال کی ہو گئی ہے، ہم لوگ اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔

اب نکاح کے فارم پر ولدیت کس کی لکھی جائے، کیونکہ ہم لوگ اصل باپ کے نام سے ناواقف ہیں اور یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے۔ اس صورت میں کیا بچی، جس کے پاس پللی، بڑھی ہے، آیا اس کا نام لکھا جائے یا قرآن وحدیث کے مطابق جو صحیح طریقہ

ہے، رہنمائی فرمادیں کہ بچی کی ولدیت کیا لکھی جائے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، (محمد اسرافیل)۔

### جواب:

شریعت اسلامیہ کی رو سے کسی لے پا لک بچے کو حقیقی بیٹا یا بیٹی سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کا والد قرار دینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، لے پا لک بچے کو اس کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرنا چاہئے، اگر بچے کے والدین کا کچھ علم نہ ہو تو بھی دوسرا کوئی ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ط

ترجمہ: ”اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں“، (الاحزاب: 5)۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اگر تمہیں لے پا لک بچوں کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں بھائی یا دوست کہہ کر پکارو۔

چونکہ آج کل دستاویزات (جن میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ، تعلیمی اسناد، جائیداد کے دستاویزات، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ) میں ولدیت کا اندراج قانونی ضرورت بن گیا ہے، اس لئے اگر کسی بچے کا والد معلوم نہ ہو تو اس کو ابن عبد اللہ لکھ لیا کریں، اس میں معنی کی رعایت ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہوگا، بہر حال

اللہ کا بندہ تو ہوگا، اس طرح وہ بچہ عار اور رسوائی سے بچ جائے گا، اور ”ستر عورت“ یعنی کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ امر ہے۔

حدیث پاک میں ہے: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ من ستر مسلما سترہ اللہ فی النبیاء والآخرة۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ فرمائے گا“، (ابن ماجہ رقم الحدیث: 2544)۔

عقد نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر و ازدواجی حیثیت

## سوال: 102

گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح 1996 میں کیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی میں رکاوٹ لڑکے والوں کی طرف سے ہے، لڑکے کا ملنا ہے اور گھر پر آنا جانا ہے۔ آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ شرعی طور پر نکاح ہے یا ختم ہو گیا ہے، فقط والسلام، (محمد فرید، 483/15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

## جواب:

صورت مسئلہ میں چونکہ شرعی طور پر نکاح ہوا ہے لہذا وہ آپس میں میاں بیوی ہیں اور شرعی اعتبار سے ان کے ملنے جلنے یا ازدواجی تعلق قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نیز ان کا نکاح قائم ہے، جب تک خدا نخواستہ شوہر طلاق نہ دے یا

دونوں باہمی رضامندی سے خلع پر آمادہ نہ ہوں یا عدالت کے ذریعے نکاح فسخ نہ کیا گیا ہو، محض طویل مدت گزر جانے سے از خود نکاح ختم نہیں ہوتا، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### زوجہٴ صحیحہ

### سوال: 103

آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل حالات و واقعات کے تحت قرآن، سنت و شریعت کی روشنی میں فتویٰ ارشاد فرمائیں۔

۱۔ میری شادی پہلی جنوری 1993ء کو ہوئی۔

۲۔ شادی کے دس دن بعد میرا شوہر سعودی عرب چلا گیا۔ اور سعودی عرب بلانے کا وعدہ کر گیا۔

۳۔ میرا رشتہ میرے شوہر کے منہ بولے ماں باپ نے مانگا اور میری شادی انہیں لوگ کے گھر سے ہوئی اور میں رخصت ہو کر انہی کے گھر گئی، میرے شوہر کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔

۴۔ شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اور آپ کے والدین کہاں ہیں۔ میرے شوہر نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا اور کہا کہ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔

۵۔ میرا شوہر سعودی عرب جانے کے بعد نہ مجھے کوئی خرچ بھیجتا تھا اور نہ کوئی رابطہ رکھتا تھا اور نہ میرے خطوط کا کوئی جواب دیتا تھا۔

۶۔ پھر وہ چار سال بعد اپریل 1997ء میں ایک ماہ کی چھٹی پر آیا اور چھٹی گزار کر پھر بلانے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے دو مرتبہ ٹیلیفون پر ایک یا دو منٹ بات کی اور بلانے کا وعدہ کرتا رہا۔

۷۔ پھر ٹیلی فون بھی نہیں آیا اور نہ کوئی خرچ بھیجا اور سارے رابطے ختم ہو گئے۔ نہ خط کا جواب نہ فون نہ خرچ سب بند۔

۸۔ ایک ماہ کی چھٹی کے درمیان جب آیا تھا تو میں نے شکایتیں کی اور خرچ مانگا تو جواب دیا کہ گھر میں رہ رہی ہو کھاپی رہی ہو۔ اور تمہارا کیا خرچ ہے۔

۹۔ میں شادی کے بعد سے جون 2002ء تک اپنے منہ بولے ساس و سر کے ساتھ اس امید پر رہتی رہی اور تکلیفیں برداشت کرتی رہی کہ شاید اب حالات میں بہتری آجائے۔ لیکن میں مایوس ہو کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔

۱۰۔ میرا بھائی شدید بیمار تھا ایک ماہ بعد جولائی 2002ء میں اس کا انتقال ہو گیا، میں پھر اپنے سسرال واپس نہیں گئی، میرے پاس شوہر کا نہ کوئی پتا ہے اور نہ کوئی رابطہ۔ میں جب اپنے ساس و سر سے اس کا پتا مانگتی ہوں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اس کا کوئی پتا نہیں ہے۔ اور نہ اس سے کوئی رابطہ ہے، پرانا پتا جو اس کا تھا اب وہ وہاں نہیں رہتا۔ اب میں بڑی کمپرسی کی زندگی گزار رہی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ سلائی وغیرہ کر کے اپنا گزارا کرتی ہوں، میرے ساتھ بوڑھی ماں بھی ہے، میں اب دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں، (انہیں فاطمہ، R-126 سن لے آرکیڈ منصورہ کوٹھ، کراچی)۔

## جواب:

شریعت اسلامیہ میں بیوی کا نان نفقہ (یعنی بنیادی حاجات جو جائے رہائش، لباس و خوراک وغیرہ پر مشتمل ہیں) شوہر کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ط

ترجمہ: ”گنجائش والے کو چاہیے کہ وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچہ دے اور جس پر رزق کی تنگی ہو تو وہ اسی میں سے (حسب حیثیت) خرچہ دے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اسے عطا کر رکھا ہے“، (الطلاق: 7)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ محمود آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ مالدار اور تنگدست میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دے“، (روح المعانی ج 15 ص 207)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقَنَّ عَلَيْهِنَّ ط

ترجمہ: ”اپنی بیویوں کو وہاں رکھو، جہاں اپنی حیثیت کے مطابق تم خود رہتے ہو، اور ان پر تنگی کرنے کے لئے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ“، (الطلاق: 6)۔

علامہ محمود آلوسی روح المعانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 206 پر لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے یوں پڑھا ہے کہ جہاں تم خود

رہتے ہو وہاں اپنی بیویوں کو رکھو اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق انہیں نفقہ دو۔“

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث خطبہ حجۃ الوداع

کی بابت مذکور ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”عمورتوں کا شوہروں پر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق انہیں نفقہ دیں۔“

علامہ محمود آلوسی روح المعانی جلد نمبر 15 صفحات 205, 206 پر ”اسکنوہن من

حیث سکنتم“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

من تبعیض کے لئے ہے، یعنی اپنے رہائشی مکان کے کسی حصے میں اپنی بیوی کو رہائش

دو۔ اور ”ولا تضاروہن“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”کہ رہائش میں انہیں تکلیف نہ دو۔“

اور ”لتضیقوا علیہن“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یوں کہ مکان یا مکان میں بیوی کے لئے مخصوص رہائشی حصے کو کسی دوسرے استعمال

میں لا کر، یا اس کے ساتھ ایسے افراد کو ٹھہرا کر، جن کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی (ایسے

طریقوں سے)، اسے تکلیف پہنچا کر گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے قرآن کی رو سے

منع ہے۔“ شریعت کی رو سے شوہر پر اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو جائے رہائش دینا

لازم ہے، اگر وہ اتنی مالی استطاعت رکھتا ہے کہ اسے علیحدہ مکان میں رکھ سکتا تو ایسا ہی

کرے اور اگر اس کی مالی حیثیت بیوی کو علیحدہ مکان دینے کی متحمل نہیں ہے تو پھر بھی



بیوی کا یہ حق ہے کہ مشترکہ فیملی مکان میں اس کے لئے علیحدہ کمرہ یا حصہ مختص ہونا چاہیے، جس میں دوسروں کا عمل دخل نہ ہو، اور اس علیحدہ حصے یا کمرے کے ساتھ باورچی خانہ، بیت الخلاء اور لازمی ضروریات کا اہتمام بھی ہو اور ایسی سہولت ہو کہ وہ اپنے علیحدہ حصے یا کمرے کو بند کر سکے۔

ہماری عائلی عدالتیں (Family Courts) وافر دینی علم نہ ہونے یا کسی قانونی سقم کے سبب فسخ نکاح کو ”خلع“ قرار دیتی ہیں اور اپنے فیصلوں میں لکھتی ہیں کہ ”بر بنائے خلع نکاح فسخ کیا جاتا ہے“ حالانکہ وہ وجوہ جن کی بناء پر نچ یا قاضی مجاز دیانت داری سے سمجھتا ہے کہ اب زوجین کا حد و شرع کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی زندگی گزارنا عملاً ممکن نہیں رہا اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ بھی نہیں ہے تو سربراہ مملکت کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ نکاح کو فسخ (Dissolve) کر دیتا ہے، ان وجوہ اور شواہد (Evidences) کو ریکارڈ پر لانا ہے جو اس کی فہم کے مطابق ”فسخ نکاح“ کا سبب بنتی ہیں، اور اسی تاریخ سے عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے اور عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے کہیں پر بھی عقد کر سکتی ہے، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، یہ خلع نہیں ہے بلکہ عدالتی ”فسخ نکاح“ ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد بھی نہ کرنا چاہتا ہو، اس کے تمام جائز حقوق ادا کرتے ہوئے اسے رکھنا بھی نہ چاہتا ہو، بس وہ مردم آزار ہے، اسے اذیت دینا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہتا ہے۔

یہ ”فسخ نکاح“ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے، اس کے بعد اگر دونوں فریق چاہیں اور دوبارہ حالات سازگار ہو جائیں تو وہ عدت کے اندر یا عدت کے گزرنے کے بعد عقدِ ثانی کر سکتے ہیں۔ وہ وجوہ، جن کی بناء پر مختلف ائمہ کرام کے مسالک میں قاضی مجاز یا حج کیلئے ”فسخ نکاح“ کی گنجائش نکل سکتی ہے یا ایسی مصیبت زدہ بیوی کیلئے ایسی رخصت و رعایت موجود ہے کہ انتہائی اذیت ناک صورت حال سے اس کو نجات مل جائے، بشرطیکہ ان قرائن و شواہد کی بناء پر قاضی کو ظن غالب یا یقین ہو جائے، یہ ہیں:

(ا) شوہر بیوی کو نان نفقہ نہ دیتا ہو، ظالمانہ انداز میں بے انتہا مار پیٹ کرتا ہو، اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا ہو اور اسے مُعلق حالت (Hung Position) میں روکے رکھنا چاہتا ہو، یعنی نہ تو اسے بیوی کے طور پر رکھے اور نہ طلاق دے کر آزاد کرے۔

(ب) عورت جوان ہے اور شوہر ایسے مؤذی مرض میں مبتلا ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یا وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اور عورت کے اس حال میں رہنے سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(ج) عورت جوان ہے اور شوہر کو دس، پندرہ، بیس سال یا عمر قید کی سزا ہو گئی ہے اور عورت کیلئے اپنے نفس پر قابو پانا دشوار ہے، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(نوٹ: اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان نے جیل قوانین پر نظر ثانی کرتے ہوئے

حکومت پاکستان کو سفارش کی ہے کہ طویل المدت شادی شدہ قیدیوں کو ہر چار ماہ بعد ایک دو ہفتے کیلئے یا تو پیرول (Parole) پر رہا کر کے اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے، اگر اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، ورنہ جیل خانوں میں ایک ایک کمرے کے کوارٹرمع لوازمات تعمیر کئے جائیں، جہاں چار چار ماہ بعد ہفتے دس دن کیلئے قیدی کی بیوی آکر اس کے ساتھ رہ سکے۔

پولیس اور انتظامیہ چونکہ عدالت کے تابع ہے، اس لئے عدالت انتظامیہ کو پابند کرے، اور اس کے لئے قوانین کو زیادہ واضح اور سخت تر بنایا جاسکتا ہے، کہ شوہر کو ہر صورت میں اصل یا وکالت عدالت کے سامنے پیش کرے، بشرطیکہ وہ ملک کے اندر موجود ہے۔ تاکہ ”قضاعلی الغائب“ (Ex-Party Decree) یعنی ایک طرفہ فیصلے کی نوبت نہ آئے۔ اگر قاضی اس نتیجے پر پہنچے کہ زوجین کا حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے اب گزارہ ممکن نہیں تو وہ ”فسخ نکاح“ سے پہلے شوہر کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر طلاق پر آمادہ کرے اور اگر وہ کسی طور پر بھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو پھر عدالتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو فسخ کر دے اور تمام دلائل، قرائن اور شہادتوں کو تفصیل کی ساتھ ریکارڈ پر لائے تاکہ فیصلے میں کوئی ابہام نہ رہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ”زوج مُتَعَمَّنَات“ (یعنی ایسا شوہر جو حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے بیوی کے حقوق بھی ادا نہ کرے، اس کے لئے جینا دشوار کر دے اور اسے قید نکاح سے آزاد بھی نہ کرے) کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔

مندرجہ بالا وجوہ کی بناء پر جب قاضی مجازاً عدالت نکاح کو فسخ کرے تو یہ ”طلاق بائن“ کے درجے میں ہے، اس کے نتیجے میں ”فسخ نکاح“ کے بعد زوجین عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے تجدید

نکاح کر سکتے ہیں اور بیوی کی رضامندی نہ ہو تو وہ عدت کے بعد اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، کما مر سابقاً۔ آج کل بالعموم عائلی عدالتوں کے ”فسخ نکاح“ کے فیصلوں میں سقم رہ جاتا ہے، بعض فیصلے مبہم ہوتے ہیں، وجوہ فسخ قطعی، واضح اور پتین نہیں ہوتیں، لہذا شرعی طور پر ان کی توثیق دشوار ہوتی ہے۔ بعض مقدمات میں عدالتیں بجائے اس کے کہ انتظامیہ کو مجبور کریں کہ شوہر کو عدالت میں اصالتاً یا وکالتاً حاضر کرے تاکہ یا تو وہ بیوی کے عائد کردہ الزامات کو قبول کرے یا دلائل و شواہد کے ساتھ رد کرے تاکہ عدالت اس پوزیشن میں ہو کہ مدعیہ و مدعی علیہ کے بیانات، قرائن و شواہد اور حقائق و واقعات کی روشنی میں ان الزامات کی تصدیق یا تردید کر سکے، عدالتیں شوہر کے غیاب (Absence) میں ایک طرفہ فیصلہ (Ex - Party Decree) صادر کر دیتی ہیں، عام حالات میں یہ درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شوہر ملک سے باہر ہے یا لاپتا ہے، جسے فقہی اصطلاح میں ”مفقود الخبر“ کہتے ہیں، اس کا معاملہ تفصیلی بحث کا متقاضی ہے۔ ایسے ایک طرفہ فیصلوں کی توثیق میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، ایسے معاملات میں مدعی علیہ کو اصالتاً یا وکالتاً عدالت میں حاضر کرنا پولیس کیلئے لازمی قرار دیا جائے اور اس کے لئے ضروری ہو تو متعلقہ قانون میں ترمیم یا اضافہ کیا جائے، عدالت کی طلبی کے باوجود حاضر نہ ہونے کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے اور اس کیلئے جرمانہ یا سزا بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔

گذشتہ دنوں میں ڈاکٹر ہامیر کے مقدمہ ”فسخ نکاح“ میں اس کے شوہر نے پیش ہو کر اپنا مدلل دفاع کیا اور عدالت نے بجا طور پر ڈاکٹر ہامیر کا دعوائے خلع مسترد کر دیا، بعد میں دونوں میں نباہ نہ ہو سکا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، یہ عدالت کے صحیح طرز عمل اور صائب فیصلے کا نتیجہ ہے کہ شرعی حل نکل آیا۔

آپ کے مسئلے میں اگر آپ کا بیان درست ہے تو عدالت کا فیصلہ از روئے شرع درست نہیں ہے، لیکن اگر حقائق اس کے برعکس ہوں تو مفصل فیصلہ پڑھ کر ہی حتمی رائے قائم کی جاسکتی ہے، تاہم اگر آپ شرح صدر سے محسوس کرتے ہیں کہ بیوی کے رویہ کی وجہ سے آپ دونوں میں اب شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے نباہ ممکن نہیں ہے تو اسے ایک طلاق رجعی دے دیں، اس صورت میں با عزت واپسی کا راستہ بھی کھلا رہے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جائیں گی، اور آپ نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔

مزید یہ کہ ہماری عائلی عدالتیں، عدالتی اختیارات کے تحت ”فسخ نکاح“ کو جو ”خلع“ قرار دیتی ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ خلع تو فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَ فَإِمْسَاكَ مِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ مِ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا جَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O

ترجمہ: ”طلاق (رجعی) دو بار ہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ (مہر) عورتوں کو دیا ہے، اس میں سے کچھ واپس کر لو، مگر جب دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اس میں جو عورت نے (شوہر سے خلاصی پانے کا) بدلہ دیا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں، تو وہی ظالم ہیں“، (بقرہ: 229)۔

اس آیت کی رو سے اگر زوجین کیلئے حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی زندگی کا جاری رکھنا ممکن نہ رہے اور شوہر ویسے بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو، تو بیوی یہ راستہ اختیار کر سکتی ہے کہ شوہر سے لیا ہوا مہر اسے واپس کر کے یا مطالبہ مہر سے دستبردار ہو کر یا کوئی مالی معاوضہ دے کر اپنی گلو خلاصی کرالے، اگر شوہر یہ پیشکش قبول کر کے اسے مال کے عوض طلاق دے دے تو اسے شرعاً ”خلع“ کہتے ہیں اور یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے، یہ باہمی رضامندی پر موقوف ہے۔ اس خلع کے بعد زوجین اگر چاہیں تو عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے عقدِ ثانی کر سکتے ہیں، ورنہ عدت گزرنے کے بعد خلع یافتہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ عدالت یہ کر سکتی ہے بلکہ اسے ایسا کرنا چاہیے کہ زوجین کو آمنے سامنے بٹھا کر انہیں خلع پر آمادہ کرے، حدودِ الہی کی خلاف ورزی سے ڈرائے، اور اگر وہ آمادہ ہو جائیں تو اپنی نگرانی میں خلع کرا کے اس کی توثیق کر دے، مگر یہ ”فسخ نکاح“ کی ڈگری نہیں کہلائے گی بلکہ ”خلع“ کہلائے گا، جسے عدالتی توثیق حاصل ہوگی۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلافات زیادہ بڑھ جائیں تو دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک بزرگ یا زیرک و دانا اور اصلاح پسند نمائندہ جن کران دونوں کو حکم مقرر کیا جائے تاکہ وہ مسئلے کو سلجھا سکیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا O

ترجمہ: ”اور اگر تمہیں ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو شوہر کے خاندان سے ایک حکم مقرر کرو اور (اسی طرح) بیوی کے خاندان میں سے ایک حکم (منصف، ثالث) لے لو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان

دونوں کے درمیان موافقت (کی صورت) مقدر فرمائے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبر رکھنے والا ہے“، (النساء: 35)۔

یہ کام بھی عدالت اپنی نگرانی میں کر کے اجر کی حق دار بن سکتی ہے۔  
 اگر سائل کا بیان درست ہے کہ وہ (شوہر) اخراجات اور نان نفقہ ادا نہیں کر رہا ہے اور منہ بولے ماں باپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور ازدواجی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، یہاں تک کہ برسوں سے بیوی کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں تو ایسا شوہر ”زَوْجٌ مُّكْرَهٌ“ کہلاتا ہے، اور بیوی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حقائق و شواہد کی روشنی میں عدالت سے نکاح فسخ کرائے، جہاں تک شوہر کے منہ بولے ماں باپ کا تعلق ہے، اگر اس منہ بولے باپ اور خاتون کے درمیان حرمت کا کوئی اور رشتہ نہیں تو حجاب شرعی کے بغیر اس کا ان کے ساتھ بے حجاب و بے تکلف میل جول اور رہن سہن بھی جائز نہیں۔

سو تیلی بیٹی سے نکاح

سوال: 104

میں سید شارق بخاری ولد سید معید بخاری نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، قربت کے تعلقات بھی رہے، کچھ عرصے بعد اس عورت کی حقیقت سامنے آئی کہ وہ ایک بدچلن عورت ہے، اس کی بدچلنی اور بے حیائی نے میرا جینا حرام کر دیا اور میں نے تنگ آ کر اس کو طلاق دے دی، اس عورت کے پہلے شوہر سے پانچ بچے ہیں، ان میں سے ایک لڑکی اسماء ولد محمد اسلام (مرحوم) ہے جس سے میں نے اس کی رضا مندی سے نکاح کر لیا، چونکہ وہ لڑکی اس عورت کے پہلے شوہر سے ہے اور میں اس عورت کو طلاق (ثانوی اور شرعی) طور پر دے چکا ہوں، اس لئے یہ جواب عنایت فرمادیں کہ اس عورت کے پہلے شوہر کی بیٹی سے میرا یہ نکاح جائز ہے؟، (سید شارق علی بخاری ولد سید معید بخاری)۔

## جواب:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَرَبَّآئِبُكُمْ النَّبِيُّ فِي حُجْرٍ كُمْ مَبْنٍ نِسَاءِ كُمْ النَّبِيُّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔

ترجمہ: ”اور تمہاری ان بیویوں کی (کسی سابق شوہر سے) بیٹیاں جن سے تم صحبت کر چکے ہو اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو (ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں) تم پر کوئی گناہ نہیں“، (النساء: ۲۳)۔

وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کی اسباب کے اعتبار سے نواقسام ہیں جن میں سے ایک سبب حرمتِ مصاہرت ہے، علامہ علاؤ الدین حصکھی لکھتے ہیں: حرم بالمصاہرة (ہنت زوجتہ الموطوءة) ترجمہ: رشتہء مصاہرت (سرالی رشتہ) زوجہء موطوءہ کی بیٹی حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

أى سوا كمانت فى حجره: أى كنفه ونفقته اولا، وذكر الحجر فى الآية خرج مخرج العادة أو ذكر للتشبيع عليهم كما فى ”البحر“ واحترز بالموطوءة عن غيرها، فلا تحرم بنتها بمجرد العقد۔

ترجمہ: ”یعنی خواہ وہ اس کی گود میں ہو، یعنی اس کی نگہداشت اور نفقہ کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہو یا نہ۔ آیت میں حجر (گود) کا ذکر عادت کے طور پر ہے کہ بالعموم ایسا ہوتا ہے، یا اس کا ذکر عار دلانے کے لئے ہو جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ہے، اور موطوءہ (مدخولہ) کی قید غیر موطوءہ سے احتراز کے لئے ہے تو محض عقد کی بناء پر اس عورت کی کسی سابقہ شوہر سے بیٹی اس شوہر پر حرام نہیں ہوگی (بشرطیکہ مباشرت سے قبل اس نے اسے طلاق دے دی ہو)“، (رد المحتار جلد 4 ص 83، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔“ مذکورہ صورت میں چونکہ پہلی بیوی سے آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کئے، لہذا حرمتِ مصاہرت کے سبب اس عورت کی بیٹی سے آپ کا نکاح جائز نہیں، آپ پر لازم ہے کہ اس سے فوراً علیحدگی اختیار کریں اور توبہ کریں۔



## ﴿کتاب الطلاق﴾

تحریری طلاق اور نفقہ

سوال: 105

شوہر نے بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا اور تقریباً دو ماہ کے بعد تحریراً تین طلاقیں بھیج دیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ طلاق سے قبل دو ماہ اور عدت کے زمانے کا نان نفقہ کیا شوہر کے ذمہ ہے؟، اور کیا عورت اس کی حقدار ہے؟، (آفتاب احمد، N-3822، بلاک، میٹروول III، کراچی)۔

جواب:

طلاق کے بعد ایامِ عدت کا نان نفقہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق شوہر کے ذمہ ہے۔ اصولی طور پر معتدہ عورت کو عدت شوہر کے مکان میں گزارنی چاہیے، لیکن چونکہ استفتاء میں درج صورتِ حال کے مطابق شوہر نے طلاق سے دو ماہ قبل ہی اسے والدین کے گھر بھیج دیا، اس لیے اپنے والدین کے گھر عدت گزارنا اس کی مجبوری ہے۔ اگر عورت نے طلاق سے قبل کے دو ماہ کے نفقے کا مطالبہ بروقت کیا ہو، تو یہ اس کا حق ہے۔

مسئلہ طلاق رجعی

سوال: 106

محترم مفتی صاحب! میری گزارش ہے کہ میرے شوہر نے مجھے فون پر باقاعدہ طور پر ایک طلاق دی۔ الفاظ: ”میرا اور میرے والد کا نام لے کر کہا کہ میں

فلانہ بنت فلاں کو ایک طلاق دیتا ہوں۔“ میری گزارش ہے کہ آپ مجھے تفصیل سے بتائیے کہ شرعی طور پر میرے لیے کیا حکم ہے، جبکہ طلاق کو اب تین مہینے ہو گئے ہیں، (ام ایمن بفرزون، R-21 / 15A2 ناتھ کراچی)۔

### جواب:

صورت مسئلہ میں آپ کے شوہر نے آپ کو ایک طلاق رجعی دی ہے، اس کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل تھا، رجوع زبانی بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میں نے طلاق سے رجوع کیا اور عملاً بھی کہ آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر لیں۔ اگر طلاق رجعی کے بعد شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہ کیا ہو تو عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور پھر عورت آزاد ہوتی ہے اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ باہمی رضامندی سے سابق شوہر کے ساتھ بھی عقد ثانی کر سکتی ہے، ایسی صورت میں شوہر کے پاس آئندہ صرف دو طلاق کا حق رہے گا، اور مزید طلاقوں کے ساتھ جمع ہونے کے لئے یہ پہلی طلاق بدستور مؤثر رہے گی۔ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت تین حیض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض گزرنے تک روکے رکھیں، (البقرہ: 228)۔

اور وہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو، اس کی عدت تین ماہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْحَائِضُ يَحْسَبُ مِنَ الْمَحْضِيِّ مَنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْحَائِضُ

لَمْ يَحْضُنْ۔

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو (ان کی عدت کیا ہوگی) تو ان کی عدت تین مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں سرے سے حیض آیا ہی نہیں ہے، (ان کی عدت بھی تین مہینے ہے)، (الطلاق: 4)۔

آپ کے سوال میں درج نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے عدت کے اندر رجوع کر لیا ہے یا نہیں؟، اگر کر لیا ہے تو یہ ان کا استحقاق ہے اور نکاح بدستور قائم ہے، اگر نہیں کیا اور عدت باقی ہے تو اب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خواہناستہ عدت گزر چکی ہے تو آپ لوگوں کا رشتہ نکاح باقی نہیں رہا، آپ حسب منشا جہاں چاہیں نکاح کیلئے آزاد ہیں، اور اپنے سابق شوہر سے بھی عقد ثانی کر سکتی ہیں، لیکن اب آئندہ آپ کے شوہر کے پاس صرف دو طلاق کا حق باقی رہے گا۔

ایک طلاق تصور ہوگی

سوال: 107

مسئلہ تحریر میرے سمدھی اور میری بیوی کے سگے پھوپھا کی ہے جو میری بیٹی اور ان کے بیٹے کے مابین ازدواجی اختلافات کی وجہ سے تحریر کی گئی تاکہ ان کے (یعنی سمیعہ اور وقار حسن کے) مابین کوئی تنازعہ جنم نہ لینے پائے۔ یہ تحریر بقول آفریدی خان ایک تشبیہ کے طور پر تحریر کی گئی ہے اور اس سے طلاق دینا مقصود نہیں لیکن بعد ازاں اس کا رخ طلاق کی جانب بدل دیا گیا (خداوند تعالیٰ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور وہ بہترین انتقام لینے والا ہے)۔

1) مذکورہ مسئلہ میں جیسا کہ آفریدی خان صاحب نے اپنی تحریر کی پشت پر لکھا ہے کہ 16/6 کو سمیعہ گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی لیکن انہوں نے یہ تحریر نہیں کیا کہ ان کے اکسانے پر وقار حسن سمیعہ کو 15/6 کی شب اپنے گھر لے گیا اور تمام رات تشدد کرتا رہا یہاں تک کہ صبح 4 بجے محلے کے لوگوں نے شور و غل کی آواز سنی اس تشدد کے بعد صبح میری غیر موجودگی میں میری بیٹی میرے گھر آئی، اس طرح تشدد کے بعد اگر کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو آیا اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟

یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عام حالات میں گھر کو چھوڑنے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی لیکن آیا جبر و تشدد کی صورت میں بھی یہ طلاق واقع ہو سکتی ہے؟

2) جیسا کہ تحریر سے ثابت ہے کہ تمام دستخط یک طرفہ ہیں اور لڑکی کی جانب سے کسی فرد کے دستخط موجود نہیں، آیا اسلامی تعلیمات کی رو سے یہ تحریر قابل قبول اور قابل عمل بھی ہے جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس تحریر کے بعد بجائے اتفاق اور اتحاد کے تشدد کا راستہ کھل گیا۔

3) اگر یہ تحریر قابل عمل ہے تو اس کی رو سے کتنی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اور آیا اس میں رجوع کی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات واضح کر دی جائے کہ اس تحریر کے بعد یہ پہلا جھگڑا ہے جیسا کہ آفریدی خان صاحب نے بھی اپنی تحریر کی پشت پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔

4) آفریدی خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 16/6 کے بعد تقریباً تین ماہ

گزر چکے ہیں کسی نے رجوع نہیں کیا تو اس طرح دو یا تین حیض گزرنے کے بعد دوسری طلاق از خود واقع ہوگئی ہے اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔

(5) یہ تحریر لڑکے کے والد نے لکھی ہے جب کہ تمام دوسرے افراد نے اس پر دستخط کئے ہیں۔ اس صورت میں جب کہ زبان سے لفظ طلاق کا برملا ذکر نہ کیا جائے، طلاق واقع ہو جاتی ہے؟، (عبدالقیوم والدِ سمیعہ، مکان نمبر: 21/12، 36/B، لائڈھی، کراچی)۔

**نوٹ:** شوہر وقار حسن کی تحریر مندرجہ ذیل عبارت پر مشتمل ہے:

”ہم دونوں وقار حسن اور سمیعہ بھٹیثیت خاوند اور بیوی اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے باہم اتفاق اتحاد اور اپنی بساط کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر کوئی کسی قسم کا تنازعہ ہمارے درمیان پیدا ہو تو باہم طے کر کے صلح کریں گے۔ سمیعہ بطور بیوی خاوند وقار کی تابع فرمان ہوگی اور وقار بھٹیثیت خاوند اپنی بیوی کی حیا اور نان نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر بیوی بھند ہوگی اور خاوند کی مرضی سے باہر ہوئی تو یہ کاروائی ایک طلاق تصور ہوگی اور اسی تناسب سے دوسری بار بھی ہوگی۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند کریم کے احکامات کے مطابق ازدواجی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اور قناعت اور صبر کے احکام ہیں ہم ہر حالت میں پورا کریں گے۔ بطور قبولیت ہم اپنے دستخط کر دیتے ہیں اور پابند ہیں۔“ نوٹ: استغناء پر گواہان کے دستخط بھی مثبت ہیں۔

دستخط

دستخط

سمیعہ بنت عبدالقیوم

وقار حسن ولد آفریدی خان

(B-69 کاظم آباد، ماڈل کالونی، کوئٹہ کی تاریخ: 5 جنوری 2003ء)۔

اس کے بعد ایک اور قلمی تحریر، جس کے نیچے ”آفریدی“ کے دستخط ہیں، کے الفاظ یہ ہیں:

7 جون 2003 سے 4 جولائی 2003 تک کراچی میں رہا۔

16 جون 2003 کو صبح وقار کے گھر سے سمیعہ بغیر اطلاع دیئے غائب ہوئی، مالک مکان نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ دو گھنٹے کی تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے، اس کے گھر لڑکی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 22 جون 2003ء کو سامان واپس لا کر مکان مالک مکان کے حوالے کر دیا۔

**جواب:**

صورت مسئلہ میں خاوند وقار حسن کی تحریر میں یہ جملہ: ”اگر بیوی بضد ہوگی اور خاوند کی مرضی سے باہر ہوگی تو یہ کارروائی ایک طلاق تصور ہوگی اور اسی تناسب سے دوسری بار بھی ہوگی“، قابل توجہ ہے اور اسی پر طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہے۔ اس تحریر میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں ”خاوند کی مرضی“ کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ اسے مبہم رکھا گیا تا وقتیکہ وہ پہلے سے کسی خاص معاملے میں اپنی مرضی متعین کر کے بیوی کو اس سے آگاہ نہ کر دے، مثلاً وہ یہ کہے کہ ”آئندہ تم میری اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤ گی“، جبکہ تحریر میں صراحتاً یا اشارتاً کوئی ایسا مفہوم مستفاد نہیں ہوتا، جبکہ

”تعلیق بالطلاق“ تو کسی امر متعین، معلوم اور متحقق پر ہوتی ہے۔

دوسری بات قابل توجہ تحریر کے یہ الفاظ ہیں کہ: ”تو یہ کارروائی ایک طلاق تصور ہوگی اور اسی تناسب سے دوسری بار بھی ہوگی۔“ یہ الفاظ ”انشاء طلاق“ کے نہیں ہیں، کیونکہ طلاق، انشاء یعنی قصداً طلاق کو واقع کرنے سے ہوتی ہے، یعنی شوہر یہ کہے کہ مثلاً: تجھے طلاق ہے یا تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق دیتا ہوں یا مستقبل میں کسی امر کے ساتھ معلق کر کے کہے کہ تجھے طلاق ہوگی وغیرہ۔ لہذا ان کلمات سے طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق تصور ہوگی کے معنی ہیں: ”سمجھی جائے گی۔“

امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا: ”شوہر نے لکھا: اس خط کو بطور طلاق نامہ تصور فرمائیں“، اعلیٰ حضرت قدس سرہم العزیز نے جواب دیا:

”صالح ایقاع طلاق نہیں کہ ”بطور طلاق نامہ تصور فرمائیں“ کے صاف یہ معنی

کہ حقیقت میں ”طلاق نامہ“ نہیں۔ فتاویٰ امام قاضی خان میں ہے:

”امراة عقلت لزوجهها: امرا طلاق ده، فقال الزوج: داده انك لا يقع وان نوى كانه قال

لها بالعربية احسبى انك طالق وان قال ذلك لا يقع وان نوى“

ترجمہ: بیوی نے خاوند کو کہا: ”مجھے طلاق دے“، خاوند نے جواب دیا: ”تو دی ہوئی یا

کی ہوئی خیال کر لے“ تو طلاق نہ ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت کی ہو، کیونکہ عربی میں اس

کا معنی یوں ہے ”تو گمان کر لے کہ تو طلاق والی ہے“ اور اگر یوں بالفاظ عربی کہا تو

طلاق نہ ہوگی چاہے طلاق کی نیت کی ہو، (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الطلاق، جلد ۱، ص

۳۱۰ مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ)۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۱۲، ص ۶۳۱ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن،

لاہور)

اسی مقام پر ہے:

”لو قيل لرجل اطلقت امرأتك فقال عدّها مطلقاً او احسبها مطلقاً لا تطلق امرأته“۔

ترجمہ: ایک شخص سے سوال کیا گیا کہ: ”کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟“ تو اس نے جواب میں کہا: ”تو اس کو طلاق دی ہوئی شمار کر لے یا تو اسے مطلقہ سمجھ لے“، تو بیوی کو طلاق نہ ہوگی، (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الطلاق، جلد ۱، ص ۲۱۳ مطبوعہ نولکشور، لکھنؤ)۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دادہ انگار“ او ”کردہ انگار“ لا يقع وان نوى ، ولو قال لها بعدما طلبت الطلاق“۔

ترجمہ: ”دی ہوئی سمجھ“ یا ”کی ہوئی سمجھ“، (ان کلمات سے) طلاق واقع نہیں ہوگی، خواہ اس نے طلاق کی نیت بھی کی ہو اور (تب بھی نہیں) اگر اس نے بیوی کے مطالبہ طلاق کے بعد یہ الفاظ کہے ہوں، (فتاویٰ عالمگیری جلد ۱، ص ۳۸۰ مطبوعہ دارالاشاعت العربیہ قندھار)۔

ہمارے پاس کچھ عرصہ قبل ایک استفتاء آیا تھا کہ: ایک شخص نے تین سے زائد بار اپنی بیوی سے کہا: ”اگر تم نے پان کھایا تو میری طرف سے طلاق سمجھو“۔ دارالعلوم کراچی کے جناب مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے اپنے وقوع طلاق کے فتوے سے رجوع کر کے مجھ سے اتفاق کیا تھا کہ ان کلمات سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔



اسی طرح امداد الفتاویٰ جلد ۷، ص ۳۳۹ میں ایک استفتاء درج ہے جس میں تحریر ہے:  
 آخر لوگوں نے کہا: تم اس قدر مارتے ہو، اگر وہ موافق نہیں ہے تو اس کو طلاق دے، تو  
 اس (شوہر) نے کہا: ”تم لوگ ایسا ہی سمجھو“۔ اس کا جواب امداد الفتاویٰ میں فتاویٰ  
 عالمگیری کا حوالہ دینے کے بعد یوں درج ہے: ”اور یہ الفاظ کہ: ”تم لوگ ایسے ہی  
 سمجھو“ ترجمہ ”دادہ انگار“ کا معلوم ہوتا ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

لہذا صورت مسئلہ میں ”یہ کارروائی ایک طلاق پر تصور ہوگی“ کے معنی یہی ہوں گے کہ  
 ”طلاق سمجھی جائے گی“ یا ”اسے طلاق سمجھا جائے“ لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی  
 اور وقار حسن اور سمعیہ بدستور میاں بیوی ہیں، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### مسئلہ طلاق

#### سوال: 108

میرا مسئلہ درج ذیل ہے، براہ کرم اس مسئلہ پر فتویٰ جاری کریں، عین  
 نوازش ہوگی۔ ”شوہر نے بیوی سے دو بار یہ الفاظ کہے کہ: ”میں تمہیں طلاق دیتا  
 ہوں“، اور پھر پندرہ دن تک شوہر حق زوجیت ادا کرتا رہا اور پھر بیوی دو ماہ تک  
 پاکستان سے باہر رہ کر آئی اور ایک ہفتہ تک شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد علیحدہ رہتی  
 ہے۔ اور دو ماہ بعد شوہر نے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو اور اب تم میرے نکاح  
 میں نہیں ہو۔

سوالات یہ ہیں کہ آیا شرعی لحاظ سے:

(1) تمام طلاقیں واقع ہو گئی ہیں؟

(2) نکاح برقرار ہے یا نہیں؟

(3) تیسری طلاق کے جو الفاظ شوہر نے کہے، وہ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں؟

(4) آیا اب بیوی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے یا نہیں؟، (خواجہ شجاعت اللہ، مکان نمبر A-433 بلاک ایل ناتھ ناظم آباد، کراچی)۔

**جواب:**

صورتِ مسئلہ میں خط کشیدہ الفاظ سے دورِ رجعی طلاقیں واقع ہو گئیں اور طلاقِ رجعی میں جب تک عدت باقی ہے، شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور عورت کی رضامندی اس میں شرط نہیں ہے، فتاویٰ عالمگیری ج: 1 ص: 470 پر ہے:

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقًا رَجْعِيًّا أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَرَجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا رِضِيًّا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ.

ترجمہ: ”اور جب شوہر اپنی بیوی کو ایک یا دو رجعی طلاقیں دے دے، تو اسے عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے، خواہ عورت اس رجوع پر راضی ہو یا نہ ہو۔“

پھر شوہر نے دو طلاقِ رجعی دینے کے بعد رجوع کیا اور آئندہ وہ صرف ایک طلاق کا مالک تھا۔ جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا: ”تم میری طرف سے آزاد ہو“، ان الفاظ سے طلاق کا واقع ہونا شوہر کی نیت پر موقوف ہے، اگر شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، ورنہ نہیں، فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 374 پر ہے: ”وَلَوْ قَالَ اَعْتَقْتُكَ طَلَّقْتُ بِالنِّيَّةِ“۔

ترجمہ: ”اور اگر (شوہر نے اپنی بیوی سے) کہا: ”میں نے تمہیں آزاد کیا“ تو اگر اس نے یہ کلمات طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ص فَاِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحُ م بِاِحْسَانٍ ط

ترجمہ: ”(وہ) طلاق (جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ) دو بار ہے، پھر (یا تو عدت کے اندر) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے“، (البقرہ: 229)۔

لیکن صورت مسئلہ میں شوہر کا یہ کہنا کہ: ”تم میری طرف سے آزاد ہو“ اور اس کے بعد والا جملہ کہ: ”اور اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو“، شوہر کی نیت طلاق پر قرینہ ہے۔ لہذا اس مسئلہ میں خاتون کو مذکورہ جملہ سے ایک اور طلاق واقع ہوگئی اور یہ پہلی دو طلاقیوں کے ساتھ مل کر کل تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔

اب یہ خاتون اپنے شوہر کیلئے بالکل حرام ہوگئی، اور اب وہ تین حیض عدت گزارنے کے بعد سابق شوہر کے سوا کسی کے ساتھ بھی اپنے نکاح کے بارے میں آزاد ہے اور جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ سابق شوہر کے ساتھ اب وہ نہیں رہ سکتی، اگر شوہر نے اس سے پہلے اس کا مہر ادا نہیں کیا تھا، تو وہ پورے مہر اور ایامِ عدت کے نانِ نفقہ کی حق دار ہے۔

عالی جناب! میں مسمی افتخار احمد والدہ ماجدہ نسیم اختر سکنہ بلاک نمبر 1 فلیٹ نمبر 6، C الکریم اسکوائر فیڈرل کیپٹل ایریا، کراچی میں رہائش پذیر ہوں۔ عالی جناب! میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دو شادیاں کی ہیں، دوسری شادی کے بعد سے میری پہلی شریک حیات نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، پہلی سے میرے گھر میں پانچ بچوں نے جنم لیا۔ اور دوسری سے تین بچے ہیں۔ گھر پلونا چاقی کی وجہ سے میں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم حلالہ کر لو۔ اس طرح تمہیں بیوی بچے دوبارہ مل جائیں گے۔ لیکن حلالہ کرنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ قسم اٹھائی تھی۔ کیونکہ مجھے میری پہلی بیوی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے سامنے قرآن اٹھا کر پہلے یہ قسم کھاؤ کہ میں دوسری بیوی کو چھوڑ دوں گا تو میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں۔ لہذا میں نے اس کے سامنے قرآن اٹھا کر یہ قسم کھائی کہ میں اُسے چھوڑ دوں گا۔ اب چھ ماہ پہلے حلالہ کر لیا اور نہ ہی دوسری بیوی کو بھی چھوڑا، کیونکہ میں اپنی دوسری بیوی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں اور دونوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا اب میں مسئلہ آپ کے زیرِ کوش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کا صحیح حل اسلام کے نقطہ نظر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میں کیا کروں، جو قسم میں نے اٹھائی ہے، اس کا مجھے کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس طرح سے قسم کھا کر اور حلالہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حلال نہیں حرام ہے۔ لہذا آج کل میں

ذہنی طور پر کافی پریشان ہوں اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کس کو رکھوں اور کس کو چھوڑوں۔ خدا کیلئے مجھے اس ذہنی پریشانی سے چھٹکارا دلائیے اور کوئی حل نکالنے میں آپ کا بے حد ممنون و متشکر رہوں گا۔

### جواب:

آپ کو پہلی بیوی کے ساتھ عقدِ ثانی کیلئے دوسری بیوی کو طلاق دینے کا وعدہ نہیں کرنا چاہئے تھا، اور نہ ہی ایسی قسم کھانی چاہئے تھی، کیونکہ مباح امور میں طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ آپ اپنی دوسری بیوی کو بدستور نکاح میں رکھیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، جو یہ ہے: 10 مساکین کو اپنے اوسط معیار کے مطابق دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا اور اگر یہ نہ کر سکیں تو تین دن کے روزے رکھنا، کفارہ قسم کا یہ حکم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں مذکور ہے:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ  
 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَوْ كِسْفَتُهُمْ  
 أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ط ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا  
 حَلَفْتُمْ ط وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ: ”اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہ فرمائے گا، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا تمہاری پکی قسموں پر، تو ایسی قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا دینا ہے درمیانی قسم کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان مسکینوں کو کپڑے دینا یا ایک غلام

آزاد کرنا تو جو (ان میں سے کچھ) نہ پائے تو تین دن کے روزے (رکھے)، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھاؤ (اور اسے توڑ بیٹھو) اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔“

ہر ایسی قسم کو، جس پر قائم رہنا سے پورا کرنا خلاف شرع ہو، توڑ دینا چاہئے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہئے اور وہ کام کرنا چاہئے جو شریعت کی رو سے مستحسن اور پسندیدہ ہے، حدیث پاک میں ہے:

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير۔

ترجمہ: ”حضرت عبدالرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ (ایک طویل حدیث میں) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اور جب تو کسی بات کی قسم کھائے پھر تجھے معلوم ہو کہ اس کے برعکس بات میں خیر ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو، جس میں (اللہ کے نزدیک) خیر ہے،“ (مشکوٰۃ بحوالہ صحیحین)۔ پہلی بیوی کے ساتھ جو آپ نے عقد ثانی کیا ہے، وہ درست ہے۔ اب دونوں بیویوں کو نکاح میں رکھیں، دونوں بیویوں اور اولاد کے حقوق ادا کریں۔ دونوں بیویوں کے درمیان شرعاً عدل اور مساوات کا برتاؤ کرنا چاہئے، یعنی نان نفقہ، رہن سہن کی سہولتیں دونوں کو اپنی حیثیت کے مطابق برابر دیں اور دونوں کے درمیان دنوں کی تقسیم بھی برابر کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد ازواج کے درمیان عدل کا حکم فرمایا ہے۔

گزارش یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن کو اس کے شوہر نے شاربہ سے فون پر دو مرتبہ یہ الفاظ کہ ”میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں“ کہے، جو کہ میری بہن نے بھی سنے اور میرے بیٹے فیضان الدین نے بھی سنے، جو کہ اس وقت شاربہ میں موجود تھا۔ میری بہن حاملہ ہے اور اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کے یہاں بچے کی ولادت متوقع ہے۔ اب اس کے شوہر نے اس کو اپنے گھر واپس بلا لیا ہے، مگر وہ خود شاربہ میں ہے۔ یہ سارا واقعہ اندازاً 5 یا 6 اکتوبر کا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا شوہر کس طرح اور کس وقت اس کے ساتھ رجوع کرے، برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے، (ایک بہن، کراچی)

**جواب:**

صورت مسئلہ میں، اگر سائلہ کا بیان درست ہے تو، دو رجعی طلاقیں واقع ہو گئیں، چونکہ مطلقہ بیوی حاملہ ہیں، اس لئے ان کی عدت وضع حمل (یعنی بچہ پیدا ہونے) تک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔

ترجمہ: ”اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے“، (الطلاق: 4)۔

چونکہ ابھی ”وضع حمل“ نہیں ہوا اس لئے عدت باقی ہے، عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، وہ زبانی یہ کہہ کر رجوع کر سکتے ہیں کہ ”میں نے رجوع کیا“ اور عمل

سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، کہ اس سے بیوی کی طرح برتاؤ کریں، بوس و کنار یا عملِ زوجیت ادا کرنا وغیرہ، مگر مکروہ ہے لہذا یہ کہ مجنون ہوتا ہم رجوع کی صورت میں اب شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی ہے، آئندہ اگر خدا نخواستہ شوہر نے ایک طلاق دے دی تو ماضی کی یہ دو طلاقیں، اس کے ساتھ جمع ہونے کیلئے مؤثر رہیں گی، اور اس طرح سے تین طلاق مغلظہ ہو جائیں گی، اس لئے شوہر کو آئندہ کے لئے انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ شوہر کا اپنی بیوی کی حیثیت سے گھر بلانا، اگر رجوع کی نیت سے ہے تو اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔

### مسئلہ تفویض طلاق

#### سوال: 111

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ ذی احترام دریں مسئلہ کہ زہنب کی شادی علی سے ہوئی، تو نکاح سے قبل طرفین کے اولیاء کے مابین عرفِ عام کے مطابق چند شرائط طے ہوئیں، جن میں ایک اہم شرط یہ تھی کہ علی اپنا حق طلاق زہنب کو تفویض کر دے گا۔ پھر بوقتِ نکاح، نکاح فارم میں یہ تحریر کیا گیا کہ ”دولہا نے طلاق کا حق دلہن کو تفویض کر دیا ہے۔“

چند ماہ بعد نا اتفاقی کی صورت میں زہنب اپنے والدین کے گھر آگئی، زہنب کے والد نے اپنی بیٹی سے یہ لکھوایا کہ ”میں اپنے والد کو طلاق کا حق تفویض کرتی ہوں وہ میری طرف سے حق طلاق استعمال کر سکتے ہیں“، چنانچہ زہنب کے والد نے اپنی بیٹی کے ولی اور وکیل کی حیثیت سے علی کو ایک طلاق تحریری بھجوا دی، چار مہینے بعد پھر دوسری طلاق



بھی تحریری بھجوادی مدت کی مدت ختم ہو چکی تھی کہ علی کے اولیاء نے پھر سے صلح کی کوششیں شروع کر دیں اور علی کے معتبر ترین ولی نے کہا کہ میں نے مفتی صاحب (نامعلوم) سے معلوم کر لیا ہے ابھی طلاق بائنہ واقع نہیں ہوئی مگر سائل متذبذب ہے لہذا مفصل فتویٰ تحریر فرمائیں کہ

(۱) تفویض طلاق کی عرف عام میں کیا حیثیت ہے؟ عرف عام کے مطابق مکمل اختیار طلاق کی منتقلی ہے یا یہ قابل واپسی ہے یا ناقابل واپسی عطیہ و تحفہ؟  
 (۲) کیا لڑکی طلاق مفوضہ کا اختیار خود استعمال کر سکتی ہے یا اپنے ولی و وکیل کو بھی تفویض کر سکتی ہے؟۔

(۳) کیا وکیل اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے اور وکیل کی طرف سے دی گئی دونوں طلاقیں مؤثر ہو گئیں؟ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ علی نے نکاح فارم چھپایا ہوا ہے اور نکاح خواں کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتاتا، تفصیلی جواب سے سرفراز فرمائیں، (فداء المصطفیٰ، جامعہ باب القرآن، کراچی)۔

### جواب:

یہ مسئلہ تفویض طلاق کا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو ”اختیار طلاق“ صرف اس صورت میں تفویض کر سکتا ہے، جب وہ اس کے عقد نکاح میں آچکی ہو یا کم از کم وہ اپنے آپ کو شوہر کے عقد نکاح میں دے دے یعنی اپنی طرف سے خیار طلاق کی شرط کے ساتھ پہلے ایجاب کرے اور شوہر اس شرط کے ساتھ اسے قبول کرے۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

”رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَيَّ أَنهَا طَالِقٌ أَوْ عَلَيَّ أَنْ امْرَأَةً فِي الطَّلَاقِ بِيَدِهَا، ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ يَجُوزُ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ بِاطِلٍ وَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَقَالَ الْفَقِيهَةُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا إِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَالَ تَزَوَّجْتِكِ عَلَيَّ أَنْكَ طَالِقٌ، وَإِنْ ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ زَوَّجْتِ نَفْسِي مِنْكَ عَلَيَّ أَنْكَ طَالِقٌ أَوْ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِيَدِي أَطْلُقُ نَفْسِي كُلَّمَا شِئْتُ، فَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَتْ، جَازَ النِّكَاحُ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا۔“

ترجمہ: ”ایک شخص نے ایک عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہ: اسے طلاق ہے یا اسے خود کو طلاق دینے کا اختیار ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”الجامع“ میں فرمایا ہے کہ نکاح جائز ہے اور طلاق باطل ہے اور اس صورت میں اس عورت کیلئے خود کو طلاق دینے کا اختیار حاصل نہیں رہے گا، اور فقیہ ابو الیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے (امام محمد کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے) فرمایا کہ یہ (یعنی طلاق اور خیار نفس کا غیر مؤثر ہونا) تب ہے جب شوہر کی جانب سے ایجاب میں پہل ہو اور وہ یوں کہے کہ: میں نے اس شرط پر تم سے نکاح کیا کہ تجھے طلاق ہے، اور اگر (صورت حال یہ ہو کہ) عورت کی جانب سے ایجاب میں پہل ہو اور وہ کلمات ایجاب یوں ادا کرے کہ: میں نے اس شرط پر تجھ سے اپنا نکاح کیا کہ مجھے طلاق ہے، یا یہ کہ مجھے اپنے نفس کا خیار رہے گا کہ میں جب کبھی بھی چاہوں اپنے آپ کو طلاق دے دوں، اور شوہر نے جواباً کہا: اس شرط کے ساتھ مجھے نکاح قبول ہے، تو یہ نکاح جائز ہوگا اور پہلی صورت میں طلاق فوراً واقع ہو جائے گی اور دوسری صورت میں عورت کو خود کو طلاق دینے کا

اختیار حاصل رہے گا“، (فتاویٰ عالمگیری جلد نمبر 1 ص: 273 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔  
 عالمگیری کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اگر تفویض طلاق کی شرط کے ساتھ شوہر عقد  
 نکاح میں پہلے کرے اور ایجاب کرے اور بالفرض یوں کہے کہ: میں نے تجھ سے  
 مقررہ مہر کے عوض اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ تجھے خود کو طلاق دینے کا اختیار ہمیشہ  
 رہے گا (یعنی جب بھی تو چاہے اسے استعمال کر سکتی ہے) اور عورت قبول کر لے تو یہ  
 تفویض طلاق مؤثر نہیں ہے، کیونکہ تفویض طلاق یعنی ایجاب کے وقت نہ وہ اس کے  
 عقد نکاح میں ہے اور نہ ہی اس نے اپنے آپ کو نکاح میں دیا ہے، لہذا جو عورت ابھی  
 عقد نکاح میں آئی ہی نہیں اور شوہر کو خود اس پر طلاق کا حق حاصل ہوا ہی نہیں، تو اس کی  
 تفویض طلاق (Delegation of the Power's of Talaq) کے کیا  
 معنی؟ ستا ہم اگر عورت قبول کر لیتی ہے تو یہ نکاح اس لئے صحیح ہوگا کہ اصلاً یہ نکاح  
 درست ہے، زوجین انشاء نکاح کے اہل ہیں اور انہوں نے دو گواہوں کے سامنے  
 ایجاب قبول کیا ہے، لہذا بذاتہ اس نکاح کے باطل ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، اور  
 قاعدہ یہ ہے کہ جو عقد اصلاً درست ہو لیکن اس میں کسی امر خارج یا شرط فاسد کی وجہ  
 سے فساد پیدا ہو گیا تو وہ شرط از خود کالعدم ہو جاتی ہے۔

لیکن اگر عورت پہلے سے نکاح میں ہے یا وہ ایجاب میں پہلے کر کے خود کو ”خیا رطلاق  
 “ کی مطلق یا مقید شرط کے ساتھ شوہر کے نکاح میں دے دیتی ہے اور شوہر اسے اس  
 شرط کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تو یہ نکاح بھی صحیح ہے اور تفویض طلاق کا اختیار بھی مؤثر

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہی ایک مسئلہ پیش کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ مشروط نکاح کیا کہ اگر میں فلاں شرط پوری نہ کروں تو تجھے خود کو تین طلاق دینے کا اختیار ہوگا، اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں: اگر الفاظ شرط کہ زید نے کہے، یہی ہیں جو سوال میں مذکور ہوئے، تو اس میں چار صورتیں ہیں:

اول: یہ لفظ زید نے پیش از نکاح کہے اگرچہ اسی وقت معاً نکاح کر لیا۔

دوم: خاص ایجاب و قبول میں یہ شرط کی اور ابتدائے ایجاب اس شرط کے ساتھ جاہل زید سے تھی یعنی زید نے کہا میں تجھے اپنے نکاح میں لایا اس شرط پر کہ اگر تجھ کو چھ مہینے تک الخ، نہنب نے کہا میں نے قبول کیا۔

سوم: شرط خود عقد میں تھی اور ابتدائے ایجاب نہنب کی طرف سے، مثلاً نہنب یا اس کے وکیل نے کہا میں نے اپنے نفس یا اپنی مولاہ نہنب بنت فلاں بن فلاں کو تیرے نکاح میں دیا اس شرط پر کہ اگر تو چھ مہینے تک الخ، زید نے کہا میں نے قبول کیا، یا نہنب خواہ وکیل نے کہا: میں نے اپنے نفس یا مولاہ مذکورہ کو تیرے نکاح میں دے دیا، زید نے کہا میں نے قبول کیا، اس شرط پر کہ اگر میں تجھ کو چھ مہینے تک الخ۔

چہارم: یہ شرط بعد تحقق ایجاب و قبول کی۔

پہلی دو صورتوں میں سرے سے یہ تفویض طلاق (یعنی نہنب کو بشرط مذکور طلاق کا اختیار دینا ہی) صحیح نہ ہوئی، اگر بالفرض زید چھ برس بے نفقہ و بے خبر گیری چھوڑے اور نہنب سو بار اپنے نفس کو طلاق دے، طلاق واقع نہ ہوئی، کیونکہ تفویض کا انحصار ملکیت

یا اس کی طرف نسبت پر ہے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، اور پچھلی دو صورتوں (یعنی تیسری اور چوتھی صورت) میں تفویض صحیح ہوگی۔

لہذا صورتِ مسئلہ میں اگر نکاحِ خوان نے عقدِ نکاح کے بعد شوہر سے ”تفویضِ طلاق“ کے اختیار کا اقرار کرایا تھا، یا لڑکی نے براہِ راست یا اپنے وکیل کے توسط سے تفویضِ طلاق کی شرط کے ساتھ ابتداءً ایجاب کیا ہو اور شوہر نے اس شرط و ایجاب کو من و عن قبول کیا ہو، تو یہ تفویضِ طلاق مؤثر ہے اور اس کا نکاح نامہ میں اندراج قانوناً و شرعاً درست ہے۔

لیکن مندرجہ بالا دو صورتوں میں سے کسی ایک کے بغیر ہی نکاحِ خواں یا رجسٹرانے نکاح نامے کے کالم نمبر ۱۸ میں لکھ دیا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، تو یہ تحریر شرعاً مؤثر نہیں ہے، محض شوہر کے نکاح نامے پر دستخط سے یہ تفویض طلاق مؤثر نہیں ہوگی تا وقتیکہ مذکورہ بالا صورت میں سے کسی ایک صورت کے مطابق اس نے عورت کے ملکِ نکاح میں آنے کے بعد اس شرط کو قبول نہ کیا ہو۔

اگر تفویضِ طلاق دائمی اور غیر مشروط ہے، مثلاً شوہر کہے کہ تو جب کبھی بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے یا تفویضِ طلاق کی نیت سے کہے کہ تو جب کبھی بھی چاہے، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یا تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے، تو وہ جب چاہے یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے۔

اور اگر یہ تفویضِ طلاق کا اختیار کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے مثلاً شوہر کہے کہ: ”اگر میں نے تجھے کبھی مارا یا اگر میں نے تجھے ماہانہ خرچہ مقررہ تاریخ تک نہ دیا یا اگر میں

نے تمہارے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے یا طلاق کی نیت سے یہ کہے کہ پھر تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یا تجھے اپنے نفس پر اختیار رہے گا، تو پہلی بار جب عورت کو ان امور کے وقوع کا علم ہو تو وہ یہ حق طلاق اسی مجلس میں استعمال کر سکتی ہے، اس مجلس کے اندر جہاں اسے علم ہوا ہے اگر اس نے یہ حق استعمال نہ کیا تو اختتامِ مجلس کے بعد یہ حق باطل ہو جائے گا۔

ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ: حسبِ تفصیل بالا اگر بیوی کے پاس خیارِ طلاقِ مشروط اور مقید ہے تو جس مجلس میں پہلی بار اسے علم ہوا، اس میں اگر اس نے استعمال کر لیا ہو تو فیہا ورنہ اختتامِ مجلس کے بعد وہ باطل قرار پائے گا۔ اور اگر بیوی کے پاس ”خیارِ طلاق“ غیر مشروط، غیر مقید اور مطلق ہے تو وہ جب چاہے اسے بذاتِ خود بھی استعمال کر سکتی ہے اور اپنے وکیل کے ذریعے بھی استعمال کر سکتی ہے۔

شوہر تفویضِ طلاق کا حق دے کر نہ واپس لے سکتا ہے اور نہ اسے باطل کر سکتا ہے، ہاں البتہ اگر کسی کو طلاق دینے کیلئے اپنا وکیل بنایا ہے جسے تو کیل بالطلاق کہتے ہیں، تو قبل از نفاذ اس حق کو واپس لے سکتا ہے اور اسے باطل قرار دے سکتا ہے۔ ہمارے نکاحِ خواں اور رجسٹرار حضرات کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے پہلے نکاح، طلاق، تفویضِ طلاق اور دیگر مسائل کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ بعد میں زوجین کیلئے معاشرتی مسائل اور تعبیر و تشریح کی پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں، اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلوں کو بھی ان مسائل میں عوام کو تعلیم دینے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔

عدالتیں ”فسخ نکاح“ اور ”خلع“ میں فرق کریں

سوال: 112

میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو تقریباً تین سال ہو چکے ہیں کچھ اختلافات کی وجہ سے میری بیوی ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے اور عدالت میں خلع کا دعویٰ دائر کیا اور عدالت نے خلع کا فیصلہ صادر فرمایا اور میری بیوی کو خلع دے دیا اب میری بیوی کی دوسری جگہ شادی کی جا رہی ہے از روئے قرآن و حدیث یہ خلع درست ہے یا نہیں؟ جب کہ میں نے ابھی تک اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اور میں اب بھی اس کو اپنی بیوی مانتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بھرپور طریقے سے وضاحت کریں تاکہ ہم کسی بڑے گناہ سے بچ سکیں شکر یہ، (دلاور علی شاہ، میٹر وول سائٹ کراچی)۔

جواب:

آج کل ہمارے معاشرے میں بد قسمتی سے طلاق، خلع اور فسخ نکاح (Dissolution of Marriage) کے واقعات عام ہیں اور ماضی کے مقابلے میں اس کے تناسب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی متعدد معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی وجوہ ہو سکتی ہیں، ان من جملہ وجوہ میں سے تخیل اور برداشت کا فقدان (Non-Tolerance)، بے انتہا مہنگائی، ضروریات زندگی کا عام آدمی کی دسترس سے باہر ہونا، بے روزگاری، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں تعلیم کا تفاوت، معاشرے کی انتہائی امارت اور انتہائی غربت میں تقسیم اور متوسط طبقے (Middle

(Class) کا غیر محسوس انداز میں تحلیل ہوتے چلے جانا ، غیر اسلامی وغیر شرعی رسوم کی یلغار، عام زندگی میں اور بالخصوص الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کے ذریعے نمود و نمائش اور معاشی برتری کا غیر معمولی اظہار، نچلے طبقات میں احساس محرومی کا ابھرتا ہوا احساس اور ایک انتقامی جذبے کا ذہنوں میں پیوست ہونا، اور اس پر مستزاد دینی تعلیم و تربیت اور دینی ماحول و مزاج کا فقدان ہے، کیونکہ دین اور تعلیمات نبوی ﷺ سے ہی انسان میں قناعت، شکرِ نعمت، حقوق کی پاس داری، حفظِ مراتب اور اکرامِ انسانیت کے فضائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ مندرجہ بالا عوامل کی کوکھ سے مختلف نفسیاتی عوارض، اخلاقی مفاسد اور سماجی مسائل جنم لیتے ہیں، کم ہمت لوگ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو برباد کرتے ہیں اور دینی تربیت سے عاری نسبتاً جبری اور شرمی لوگ اپنے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کا امن و سکون غارت کرتے ہیں اور انسانی جان و مال اور آبرو کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔

ہمارے مبلغین مغربی معاشرے کے امتثار (Disintegration) اور اخلاقی تنزل کا بڑا چہ چا کرتے ہیں، میری دانست میں ہمیں دوسروں کے عیوب تلاش کر کے اپنے اندر مصنوعی تفاخر پیدا کرنے کے بجائے اپنی داخلی کمزوریوں کی اصلاح اور اخلاقی تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔

ہماری عائلی عدالتیں (Family Courts) وافر دینی علم نہ ہونے یا کسی قانونی سقم کے سبب فسخ نکاح کو ”خلع“ قرار دیتی ہیں اور اپنے فیصلوں میں لکھتی ہیں کہ ”بر بنائے خلع نکاح فسخ کیا جاتا ہے“ حالانکہ وہ وجوہ جن کی بناء پر نج یا قاضی مجاز دیانت داری



سے سمجھتا ہے کہ اب زوجین کا حد و شرع کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی زندگی گزارنا عملاً ممکن نہیں رہا اور شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ بھی نہیں ہے تو سربراہ مملکت کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ نکاح کو فسخ (Dissolve) کر دیتا ہے، ان وجوہ اور شواہد (Evidences) کو ریکارڈ پر لانا ہے جو اس کی فہم کے مطابق ”فسخ نکاح“ کا سبب بنتے ہیں، اور اسی تاریخ سے عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے اور عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے کہیں پر بھی عقد کر سکتی ہے، یہ خلع نہیں ہے بلکہ عدالتی ”فسخ نکاح“ ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد بھی نہ کرنا چاہتا ہو، اس کے تمام جائز حقوق ادا کرتے ہوئے اسے رکھنا بھی نہ چاہتا ہو، بس وہ مردم آزار ہے، اسے اذیت دینا چاہتا ہے اور اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہتا ہے۔

یہ ”فسخ نکاح“ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے، اس کے بعد اگر دونوں فریق چاہیں اور دوبارہ حالات سازگار ہو جائیں تو وہ عدت کے اندر یا عدت کے گزرنے کے بعد عقد ثانی کر سکتے ہیں۔ وہ وجوہ، جن کی بناء پر مختلف ائمہ کرام کے مسالک میں قاضی مجاز یا حج کیلئے ”فسخ نکاح“ کی گنجائش نکل سکتی ہے یا ایسی مصیبت زدہ بیوی کیلئے ایسی رخصت و رعایت موجود ہے کہ انتہائی اذیت ناک صورت حال سے اس کو نجات مل جائے، بشرطیکہ ان قرائن و شواہد کی بناء پر قاضی کو ظن غالب یا یقین ہو جائے، یہ ہیں:

(۱) شوہر بیوی کو نان نفقہ نہ دیتا ہو، ظالمانہ انداز میں بے انتہا مار پیٹ کرنا ہو،

اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرنا ہو اور اسے مُعلق حالت (Hung Position) میں روکے رکھنا چاہتا ہو، یعنی نہ تو اسے بیوی کے طور پر رکھے اور نہ طلاق دے کر آزاد کرے۔

(ب) عورت جوان ہے اور شوہر ایسے مُوذی مرض میں مبتلا ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے یا وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتا اور عورت کے اس صورتِ حال کی بنا پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(ج) عورت جوان ہے اور شوہر کو دس، پندرہ، بیس سال یا عمر قید کی سزا ہو گئی ہے اور عورت کیلئے اپنے نفس پر قابو پانا دشوار ہے، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(نوٹ: اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان نے جیل قوانین پر نظر ثانی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو سفارش کی ہے کہ طویل المدت شادی شدہ قیدیوں کو ہر چار ماہ بعد ایک دو ہفتے کیلئے یا تو پیرول (Parole) پر رہا کر کے اسے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے اگر اس پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، ورنہ جیل خانوں میں ایک ایک کمرے کے کوارٹر مع لوازمات تعمیر کئے جائیں، جہاں چار چار ماہ بعد ہفتے دس دن کیلئے قیدی کی بیوی آکر اس کے ساتھ رہ سکے۔)

پولیس اور انتظامیہ چونکہ عدالت کے تابع ہے، اس لئے عدالت انتظامیہ کو پابند کرے، اور اس کے لئے قوانین کو زیادہ واضح اور سخت تر بنایا جاسکتا ہے، کہ شوہر کو ہر صورت میں اصالتاً یا وکالتاً عدالت کے سامنے پیش کرے، بشرطیکہ وہ ملک کے اندر موجود ہے۔

تا کہ ”قضا علی الغائب“ (Ex-Party Decree) یعنی ایک طرفہ فیصلے کی نوبت نہ آئے۔ اگر قاضی اس نتیجے پر پہنچے کہ زوجین کا حدودِ شرع کے اندر رہتے ہوئے اب گزارہ ممکن نہیں تو وہ ”فسخ نکاح“ سے پہلے شوہر کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر طلاق پر آمادہ کرے اور اگر وہ کسی طور پر بھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو پھر عدالتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو فسخ کر دے اور تمام دلائل، قرائن اور شہادتوں کو تفصیل کی ساتھ ریکارڈ پر لائے تا کہ فیصلے میں کوئی ابہام نہ رہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم جلد ثالث میں ”زوج مُتَعَدَّت“ (یعنی ایسا شوہر جو حدودِ شرع کے اندر رہتے ہوئے بیوی کے حقوق بھی ادا نہ کرے، اس کے لئے جینا دشوار کر دے اور اسے قیدِ نکاح سے آزاد بھی نہ کرے) کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔

مندرجہ بالا وجوہ کی بناء پر جب قاضی مجازاً عدالتِ نکاح کو فسخ کرے تو یہ ”طلاق بائن“ کے درجے میں ہے، اس کے نتیجے میں ”فسخ نکاح“ کے بعد زوجین عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے تجدیدِ نکاح کر سکتے ہیں اور بیوی کی رضامندی نہ ہو تو وہ عدت کے بعد اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ آج کل بالعموم عائلی عدالتوں کے ”فسخ نکاح“ کے فیصلوں میں سقم رہ جاتا ہے، بعض فیصلے مبہم ہوتے ہیں، وجوہِ فسخ قطعی، واضح اور پین نہیں ہوتیں، لہذا شرعی طور پر ان کی توثیق دشوار ہوتی ہے۔

بعض مقدمات میں عدالتیں بجائے اس کے کہ انتظامیہ کو مجبور کریں کہ شوہر کو عدالت

میں اصالتاً یا وکالتاً حاضر کرے تاکہ یا تو وہ بیوی کے عائد کردہ الزامات کو قبول کرے یا دلائل و شواہد کے ساتھ رد کرے تاکہ عدالت اس پوزیشن میں ہو کہ مدعیہ و مدعی علیہ کے بیانات، قرائن و شواہد اور حقائق و واقعات کی روشنی میں ان الزامات کی تصدیق یا تردید کر سکے، عدالتیں شوہر کے غیاب (Absence) میں ایک طرفہ فیصلہ (Ex - Party Decree) صادر کر دیتی ہیں، عام حالات میں یہ درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شوہر ملک سے باہر ہے یا لاپتہ ہے، جسے فقہی اصطلاح میں ”مفقود الخبر“ کہتے ہیں، اس کا معاملہ تفصیلی بحث کا متقاضی ہے۔ ایسے ایک طرفہ فیصلوں کی توثیق میں ہمیں دشواری ہوتی ہے، ایسے معاملات میں مدعی علیہ کو اصالتاً یا وکالتاً عدالت میں حاضر کرنا پولیس کیلئے لازمی قرار دیا جائے اور اس کے لئے ضروری ہو تو متعلقہ قانون میں ترمیم یا اضافہ کیا جائے، عدالت کی طلبی کے باوجود حاضر نہ ہونے کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا جائے اور اس کیلئے جرمانہ یا سزا بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔

حالیہ دنوں میں ڈاکٹر ہامیر کے مقدمہ ”فسخ نکاح“ میں اس کے شوہر نے پیش ہو کر اپنا مدلل دفاع کیا اور عدالت نے بجا طور پر ڈاکٹر ہامیر کا دعوائے خلع مسترد کر دیا، بعد میں دونوں میں نباہ نہ ہو سکا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، یہ عدالت کے صحیح طرز عمل اور صائب فیصلے کا نتیجہ ہے کہ شرعی حل نکل آیا۔

آپ کے مسئلے میں اگر آپ کا بیان درست ہے تو عدالت کا فیصلہ از روئے شرع درست نہیں ہے، لیکن اگر حقائق اس کے برعکس ہوں تو مفصل فیصلہ پڑھ کر ہی

حتمی رائے قائم کی جاسکتی ہے، تاہم اگر آپ شرح صدر سے محسوس کرتے ہیں کہ بیوی کے رویہ کی وجہ سے آپ دونوں میں اب شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے نباہ ممکن نہیں ہے تو اسے ایک طلاق رجعی دے دیں، اس صورت میں با عزت واپسی کا راستہ بھی کھلا رہے گا، اور آپ کی سابقہ بیوی گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جائیں گی، اور آپ نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں گے۔

مزید یہ کہ ہماری عائلی عدالتیں، عدالتی اختیارات کے تحت ”فسخ نکاح“ کو جو ”خلع“ قرار دیتی ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ خلع تو فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَ فَإِمْسَاكَ مَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ مَ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَجْزِي لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَوُوهَا جَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ O

ترجمہ: ”طلاق (رجعی) دو بار ہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ (مہر) عورتوں کو دیا ہے، اس میں سے کچھ واپس کر لو، مگر جب دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو عورت نے

(شوہر سے خلاصی پانے کا) بدلہ دیا۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں، تو وہی ظالم ہیں،“ (البقرہ: 229)۔

اس آیت کی رو سے اگر زوجین کیلئے حد و شرع کے اندر رہتے ہوئے ازدواجی زندگی کا جاری رکھنا ممکن نہ رہے اور شوہر ویسے بیوی کو طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو، تو بیوی یہ راستہ اختیار کر سکتی ہے کہ شوہر سے لیا ہوا مہر اسے واپس کر کے یا مطالبہ مہر سے دستبردار ہو کر یا کوئی مالی معاوضہ دے کر اپنی گلو خلاصی کرالے، اگر شوہر یہ پیشکش قبول کر کے اسے مال کے عوض طلاق دے دے تو اسے شرعاً ”خلع“ کہتے ہیں اور یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے، یہ باہمی رضامندی پر موقوف ہے۔ اس خلع کے بعد زوجین اگر چاہیں تو عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے عقدِ ثانی کر سکتے ہیں، ورنہ عدت گزرنے کے بعد خلع یا فتنہ عورت اپنی آزادانہ مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ عدالت یہ کر سکتی ہے بلکہ اسے ایسا کرنا چاہیے کہ زوجین کو آمنے سامنے بٹھا کر انہیں خلع پر آمادہ کرے، حدودِ الہی کی خلاف ورزی سے ڈرائے، اور اگر وہ آمادہ ہو جائیں تو اپنی نگرانی میں خلع کرا کے اس کی توثیق کر دے، مگر یہ ”فسخ نکاح“ کی ڈگری نہیں کہلائے گی بلکہ ”خلع“ کہلائے گا، جسے عدالتی توثیق حاصل ہوگی۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلافات زیادہ بڑھ جائیں تو دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک بزرگ یا زیرک و دانا اور اصلاح پسند نمائندہ چن کر ان دونوں کو حکم مقرر کیا

جائے تاکہ وہ مسئلے کو سلجھا سکیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا O

ترجمہ: ”اور اگر تمہیں ان دونوں (میاں بیوی) کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو شوہر کے خاندان سے ایک حکم مقرر کرو اور (اسی طرح) بیوی کے خاندان میں سے ایک حکم (منصف، ثالث) لے لو، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت (کی صورت) مقدر فرمائے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبر رکھنے والا ہے“، (النساء: 35)۔

یہ کام بھی عدالت اپنی نگرانی میں کر کے اجر کی حق دار بن سکتی ہے۔  
بیوی کو محض اذیت دینے کی خاطر لٹکائے رکھنا

### سوال: 113

میری (شہلمہ) شادی کو چار سال ہوئے اور دو سال ہوئے میرے شوہر (شفیق) نے مجھے میرے میکے چھوڑ دیا اور دو سال سے مجھ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا۔ اور مجھے 7 محرم 1425ھ 28 فروری 2004ء کو ٹیلی فون کر کے شفیق صاحب نے کہا کہ شہلمہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی۔ اس کے بعد شفیق نے میری خالہ کے گھر فون کر کے بھی بتایا کہ میں نے شہلمہ کو ایک طلاق دے دی ہے۔

(1) آیا جو ایک طلاق دی گئی کیا یہ واقع ہوگئی ہے یا نہیں اور ہوگئی ہے تو عدت کی مدت کیا ہے اور کتنی ہوگی۔

(2) اس دو سال کے عرصہ میں شفیق نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا اور نہ ہی میرا اور میرے بیٹے کا خرچہ دیا، ابھی تک۔

(3) اس مدت میں اگر شوہر رجوع نہیں کرتا تو بقیہ دو طلاق کا اطلاق کیسے ہوگا۔

(4) جبکہ شفیق کا کہنا ہے کہ شہلہ کو بقیہ دو طلاق نہیں دوں گا اور لکائے رکھوں گا اور جہیز اور بیٹا بھی نہیں دوں گا، ایسی صورت میں عدت گزار جانے کے بعد اپنی ضد کی وجہ سے بقیہ دو طلاق نہ دے تو مجھے دین میں کیا حق حاصل ہے، (شہلہ، گلشن اقبال، کراچی)۔

### جواب: (1)

صورت مسئلہ میں سالہ کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے جواب یہ ہے کہ مستمی شفیق نے جب سالہ کو فون پر کہا کہ ”میں نے تمہیں ایک طلاق دی“ تو سالہ پر ایک طلاق واقع ہوگئی اور جس وقت شوہر نے مذکورہ جملہ کہا تھا، اس وقت سے مکمل تین ماہواری گزرنے تک سالہ عدت میں رہے گی، بشرطیکہ حمل نہ ہو اور اگر حمل ہو تو جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت عدت ختم ہوگی۔ عدت کی جو مدت بیان کی گئی ہے اس کے اندر اگر شوہر اپنی طلاق سے رجوع نہیں کرے گا تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی اور سالہ مسماة شہلہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی اور شرعاً اپنی آزادانہ مرضی سے سابق شوہر یا کسی بھی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی، جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔

(2) گذشتہ دو سال کے عرصے کا، اور اگر شوہر طلاق سے رجوع نہیں کرتا تو ایام عدت کا بھی، بیوی اور بچے کا نان نفقہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق شوہر کے ذمہ واجب



الاداہے۔

(3) اور اگر شوہر مذکورہ مدت کے دوران رجوع کر لیتا ہے تو سائلہ اپنے شوہر کے نکاح میں برقرار رہے گی اور آئندہ شوہر کو صرف دو طلاق دینے کا حق حاصل رہے گا، اور رجوع کرنے کی صورت میں اگر آئندہ شوہر نے خدا نخواستہ دو طلاقیں اور دے دیں، تو اس پہلی طلاق کے ساتھ جمع ہو کر تین طلاقیں ہو جائیں گی اور بیوی شوہر پر مکمل طور پر حرام ہوگی۔

لیکن اگر عدت کے اندر شوہر رجوع نہیں کرتا، تو عدت گزرتے ہی یہ ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور بیوی شوہر کے عقد سے بالکل نکل جائے گی اور پھر وہ اپنی پسند سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ بیوی کے نکاح سے مکمل طور پر خارج ہونے کیلئے تین طلاقیں لازمی نہیں ہیں، ایک طلاق بائن سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال کہ جب تک شوہر پوری تین طلاقیں نہ دے دے، عدت گزرنے کے باوجود بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلط ہے۔ ہمارے ہاں ”عائلی قوانین“ کے تحت کونسلر یا ناظم یونین کونسل کو جو مصالحتی رول تفویض کیا گیا ہے، انہیں بھی یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے اور اگر صرف ایک طلاق بائن دی گئی ہو تو وہ اس کی بھی توثیق کر دیا کریں۔

(4) شوہر کا یہ کہنا کہ: ”میں بیوی کو بقیہ دو طلاق نہیں دوں گا، جہیز اور بیٹا بھی نہیں دوں گا اور اسے لٹکائے رکھوں گا“، اس کے مردم آزار، خوفِ خدا سے عاری اور اذیت پسند ہونے کی دلیل ہے، ایسے شوہر کو فقہی اصطلاح میں ”زواجِ معصیت“ کہتے ہیں، قرآن مجید کی سورۃ النساء میں بیوی کو اذیت دینے کی خاطر لٹکائے رکھنے سے منع

فرمایا گیا ہے، یعنی یہ کہ شوہر نہ تو مکمل حقوق ادا کر کے اسے بیوی کی طرح رکھے اور نہ ہی اسے طلاق دے کر آزاد کرے، یہ اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے۔

ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ عائلی عدالت سے رجوع کرے اور اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کرے اور عائلی عدالت کے جج کو چاہیے کہ ایسے شوہر کو، اگر وہ رضا کارانہ طور پر عدالت میں حاضر نہ ہو تو، ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر کے عدالت میں طلب کرے، اور اگر اسے ظن غالب یا یقین ہو جائے کہ بیوی کے الزامات درست ہیں اور شوہر متعین ہے اور وہ نہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس کی گلو خلاصی کرتا ہے تو پھر وہ ”فتح نکاح“ کی ڈگری جاری کر سکتا ہے اور ایسی ڈگری شرعاً موثر ہوگی۔ عدالت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بیوی اور بچے کا گذشتہ عرصے اور ایامِ عدت کا نان نفقہ اور مہر شوہر سے وصول کر کے بیوی کو دلائے۔ بچے کی حضانت (یعنی پرورش اور نگہداشت) کا حق ماں کو حاصل ہے اور طلاق موثر ہونے یا فتح نکاح کی صورت میں بھی وہ مصارف کی حق دار ہے، جب تک بچہ باشعور اور سمجھ دار نہ ہو جائے لڑکے کے لئے اس کی مدت سات سال ہے، یا وہ دوسری شادی نہ کر لے، البتہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ملنے جلنے کا حق حاصل رہے گا، اس حق سے باپ کو محروم کرنا قطعِ رحمی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے جہیز کا مال ضبط کرنے اور غصب کرنے کا حق نہیں ہے۔

## دو طلاق کے بعد رجوع

سوال: 114

گزارش یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 2004-3-9 کو تحریری طور پر اپنے دستخط کے ساتھ ایک طلاق بھیجی۔ اس کے بعد 2004-3-19 کو اسی شکل میں دوسری طلاق بھیج دی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا یہ عورت دوبارہ اس شوہر کے ساتھ کس طرح رہ سکتی ہے؟، جبکہ اس کا شوہر اب اس کو ساتھ لے جانے پر بضد ہے، جو اب دے کر مشکور فرمائیں، (طیبہ، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیرِ صدق سائلہ شوہر نے اپنی بیوی کو دو رجعی طلاقیں یکے بعد دیگرے دے دی ہیں، پہلی طلاق کی تاریخ سے عدت شروع ہو گئی ہے، اور عدت تین حیض کا گزرنہ ہے، تاہم شوہر کو اب بھی عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے اور اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی ہے، آئندہ اگر اس نے دورانِ عدت یا رجوع کے بعد ایک طلاق دی تو پہلی دو کے ساتھ جمع ہو کر تین طلاقیں مغلفہ ہو جائیں گی اور بیوی شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اگر شوہر دورانِ عدت رجوع نہیں کرنا تو عدت گزرتے ہی یہ دونوں طلاقیں بائن ہو جائیں گی، اور میاں بیوی کے درمیان رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا اور اب وہ عورت اپنی مرضی سے سابق شوہر کے ساتھ یا کسی سے بھی نکاح کرنے کیلئے آزاد ہے، البتہ اگر وہ پھر سابق شوہر سے نکاح کرتی ہے تو اب اس کے شوہر کے پاس آئندہ صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا، اور

آخری طلاق کے ساتھ جمع ہونے کے لئے پہلی دو طلاقیں بدستور مؤثر رہیں گی۔ شوہر کے رجوع نہ کرنے کی صورت میں انقطاعِ عدت پر بیوی کا مہر بھی شوہر کے ذمہ ادا کرنا لازم ہوگا، اگر پہلے سے ادا نہیں کیا۔ اور ایامِ عدت کا نفقہ بھی، اور عقدِ ثانی کی صورت میں دوبارہ مہر کا تعین بھی لازمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَ فَإِمْسَاكَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ ط“۔

ترجمہ: ”طلاق (جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ) دوبار ہے، پھر (عدت کے اندر) حسن سلوک کے ساتھ (بیوی کو نکاح میں) روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کیلئے) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے“، (البقرہ: 228)۔

محض ارادہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی

### سوال: 115

میں رضوان احمد نجمی ولد سید محی الدین (مرحوم) سابقہ امپلائے علامہ اقبال کورنمنٹ کالج، اشار گیٹ کراچی، آپ سے چند شرعی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

سر! میرے اور میری زوجہ کے درمیان اکثر و بیشتر گھریلو ناچاقیاں ہوتی رہتی ہیں، اس دوران میں نے اپنی بیوی کو تنبیہ کرنے کی نیت سے یہ جملہ ادا کیا کہ ”میں تمہیں طلاق دے دوں گا“ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں، سر میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خدا شاہد ہے کہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ طلاق دیتا ہوں یا دے دی یا دے رہا ہوں، فقط دعاؤں کا طالب، (رضوان احمد نجمی، کراچی)۔

## جواب:

اگر صورت مسئلہ وہی ہے جو سوال میں بیان کی گئی ہے اور شوہر کا بیان حقیقت کے مطابق ہے، یعنی اس نے اپنی بیوی سے فقط یہ کہا ہے کہ ”میں تمہیں طلاق دے دوں گا“، تو یہ ارادۂ طلاق ہے، انشاء طلاق نہیں ہے۔ اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، اور وہ خاتون بدستور اس کے نکاح میں ہے، تاہم شوہر کو تنبیہ کیلئے طلاق کے علاوہ کوئی اور مناسب کلمات استعمال کرنے چاہئیں، اسی طرح غصے کے اظہار کے اور شائستہ طریقے بھی ہیں، طلاق مباح امور میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

تین طلاق کا مسئلہ

## سوال: 116

حضور! آپ دامت برکاتہم العالیہ کے قیمتی ترین لمحات میں سے چند انمول گھڑیاں حاصل کرنے کی سعی کر رہا ہوں، آپ کی محققانہ رائے فتویٰ کی صورت میں عطا ہونا مقصود ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ صفدر محمود نے اپنی زوجہ فرحت پروین کو حالت غصہ میں اس طرح طلاق دی ”میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ طلاق۔ طلاق“ صفدر محمود سے جب دریافت کیا گیا کہ بیوی کی موجودگی میں کہ ”طلاق، طلاق“ سے کیا مراد تھی آیا تاکید ابولی گئیں یا انہیں بھی دوسری اور تیسری شمار کیا۔ جواباً صفدر محمود صاحب نے بتایا کہ طلاق۔ طلاق سے اس نے دوسری اور

تیسری مراد لی تھی۔ حضور! قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ارشاد فرمائیں کہ آیا تین طلاقیں واقع ہو گئیں یا نہیں، جلد از جلد جواب عنایت فرمائیں۔  
(محمد باہر رحمانی القادری نورانی، ساکن۔ ڈیلکس، امریکہ)۔

### جواب:

فقہاء کرام کی تصریحات کی رو سے طلاق میں نسبت شرط ہے، جس طلاق میں نسبت صریحی یا معنوی نہ ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔  
فتاویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ 348 پر ہے: (واما رکنہ) فقولہ أنت طالق ونحوہ۔

ترجمہ: اور طلاق کا رکن وہ (شوہر) کا قول أنت طالق اور اس کی مثل (دوسرے الفاظ طلاق) ہیں، نسبت طلاق یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت شوہر بیوی کی زوجیت کا اظہار کرے یا نام کی تصریح کرے مثلاً یوں کہے: ”میری بیوی کو طلاق ہے یا نام لے کر کہے: ”ہند کو طلاق ہے“۔ اگر نسبت صریح لفظوں میں نہ ہو بلکہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، فتاویٰ شامی جلد چہارم صفحہ 338 پر ہے:

ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه... لو قال: طالق، ففيل له من عنيت؟ فقال: ”امرأتی“، طلقت امرأتہ۔

ترجمہ: اور شوہر کے کلام میں نسبت کا صریح لفظوں میں (مذکور) ہونا ضروری نہیں ہے اگر شوہر کہے: ”طالق“، پس اس سے کہا جائے کہ آپ کی نیت کس کو طلاق دینے کی ہے؟، وہ کہے: ”اپنی بیوی کو“ تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔

فتاویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ 382 پر ہے: نسکران ہریت منہ امرآتہ فتبعہا ولم  
 یظفر بہا فمقال بالفارسیۃ۔ ”بسہ طلاق“، ان قال: ”عنیت امرآتی“، یقع  
 الخ۔

ترجمہ: ”نشے میں مبتلا کسی شخص کی بیوی بھاگ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن اس  
 کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، پھر اس نے فارسی میں کہا ”سہ طلاق“ یعنی تین  
 طلاقیں، اگر وہ کہے: ”میری نیت اپنی بیوی کو طلاق دینے کی تھی“، تو (اس کی بیوی  
 کو) طلاق واقع ہو جائے گی“۔ اس تمہید کے بعد صورتہ مسئلہ عنہا میں مذکورہ فی  
 السؤال خاتون مسماة فرحت پروین کو تین طلاقیں واقع ہو گئیں، کیونکہ لفظ  
 ”طلاق، طلاق“ میں اگرچہ صراحتاً عورت کی طرف نسبت نہیں ہے، لیکن چونکہ بر تقدیر  
 صدق بیان سائل شوہر نے ان الفاظ سے دوسری اور تیسری طلاق مراد لی ہے، لہذا کل  
 تین طلاقیں ہوئیں، اندریں مسئلہ عدت گزارنے کے بعد عورت اپنے نکاح کے  
 بارے میں آزاد ہے اپنی رضا و رغبت سے جس مرد کے ساتھ عقد نکاح کرنا چاہے،  
 کر سکتی ہے، تحلیل شرعی کے بغیر سابق شوہر کے عقد نکاح میں نہیں آسکتی۔

تحریری طلاق کا حکم

سوال: 117

رشید خان اور منیرہ بیگم کا باہمی رضامندی اور دونوں کے والدین کی  
 اجازت سے نکاح منعقد ہوا، کچھ عرصے کے بعد لڑکے کے والدین ناراض ہو گئے اور  
 بیٹے کو طلاق دینے پر آمادہ کر لیا، طلاق نامہ لکھوا کر لائے اور لڑکے کو کہا کہ اس پر دستخط

کردو، لڑکے نے کسی جبر کے بغیر طلاق نامے پر دستخط کر دیئے، طلاق نامہ میں تین مرتبہ لکھا ہوا تھا کہ: ”میں اپنی بیوی منیرہ کو طلاق دیتا ہوں“، طلاق نامہ اردو میں تھا اور شوہر اردو لکھ پڑھ سکتا ہے، اور شوہر اب بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے، بعد میں انہوں نے طلاق نامہ پھاڑ دیا اور لڑکی (یعنی بیوی) کو ارسال نہیں کیا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس طرح سے طلاق واقع ہوگئی ہے یا نہیں، دین مبین اور فقہ حنفی کی روشنی میں جواب تحریر کیجئے، (محمد فاروق، A-105/7 موسیٰ کالونی، کراچی)۔

**جواب:**

صورت مسئلہ میں، اگر سائل کا بیان درست ہے کہ باپ ”طلاق نامہ“ لکھوا کر لایا اور بیٹے سے کہا کہ اس پر دستخط کرو، بیٹے نے دستخط کر دیئے، بیٹا اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ یہ ”طلاق نامہ“ ہے، یعنی اس تحریر کی رو سے وہ نام لے کر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس سے طلاق واقع ہوگئی، کیوں کہ ہمارے عرف، قانون اور رواج میں مسلمہ طور پر کسی تحریر پر دستخط کرنے کے معنی اسے قبول کرنا اور مؤثر قرار دینا ہے، جبکہ یہاں پر کوئی جبر واکراہ بھی نہیں ہے۔ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایک طویل سوال دریافت کیا گیا، جس میں منجملہ دیگر تفصیلات کے درج ہے:

”پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ مسٹی زید اپنی بیوی مسماۃ ہندہ کو مبلغ ساڑھے سات روپے ماہوار دیا کرے، جس کا ایک کاغذ بھی لکھا گیا، بایں مضمون کہ ”اگر زید مذکور اپنی بیوی مسماۃ ہندہ کو رقم مجوزہ نہ دے گا تو ہندہ کو طلاق واقع ہو جائے گی“، جو بغرض



دھمکی پنچایت نے لکھوایا تھا، نہ کہ طلاق کی نیت سے، زید نے نہ کاغذ لکھنے کو کہا اپنی زبان سے اور نہ اپنے قلم سے کاغذ لکھا، باوجودیکہ زید خود خواندہ شخص ہے اور کاغذ پر دستخط زید نے برادری کے خوف سے کئے ہیں، خود راضی نہ تھا، (تا آخر)۔“

آپ نے جواب دیا:

”صريح الفاظ میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی، خود لکھنا اور دوسرے کے لکھے ہوئے کو سن کر اس پر دستخط کرنا یکساں ہے اور خوفِ برادری کہ حد اکراہ تک نہ ہو، کوئی عذر نہیں، اگر تحریر میں یہ تھا کہ آج سے اس قدر ماہ ہو یعنی ماہ بمہ دیا کرے، اور ایک مہینہ گزر گیا اور اس نے نہ دیا تو ایک طلاق رجعی ہوگی، عدت کے اندر اسے رجوع کا اختیار ہے، اگر پہلے کبھی دو طلاقیں نہ دے چکا ہو۔ ورنہ تین طلاقیں ہو گئیں“، (فتاویٰ رضویہ، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 451-452 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک مسئلے میں لکھا ہے:

”بیان سائل سے معلوم ہوا کہ ”کاتب طلاق نامہ“ نے لکھنے کے بعد پڑھ کر شوہر کو سنایا اور شوہر نے سن کر نشان (انگوٹھا) لگایا، لہذا صورتِ مسئلہ میں طلاق واقع ہوگئی۔“

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: *رجل استكتب من رجل آخر الی امراته کتابا بطلاقها وقرءه علی الزوج فاحنة وطواه وختم وکتب فی عنوانه وبعث به الی امراته فاتھا الكتاب وافر الزوج انه کتابه فان الطلاق يقع علیها۔*

ترجمہ: ”ایک شخص نے دوسرے شخص سے اپنی بیوی کے نام طلاق نامہ لکھوایا، اور اس نے شوہر کو پڑھ کر سنایا، پھر شوہر نے اسے لیا، اسے بند کیا اور اس پر مہر لگائی (یعنی دستخط

یا انگوٹھا لگایا) اور بیوی کا پتا لکھ کر اسے بھیج دیا، بیوی کو وہ تحریر ملی اور شوہر نے (بھی) اقرار کیا کہ یہ اس کی تحریر ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، (فتاویٰ امجدیہ، جلد دوم، صفحہ: 167)۔

نوٹ: یہ مسئلہ بعینہ فتاویٰ تانا نارخانیہ جلد: 3، صفحہ: 370، فتاویٰ عالمگیری، جلد: 1، صفحہ: 379 اور فتاویٰ شامی، جلد: 2، صفحہ: 365 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کونڈہ میں درج ہے، فتاویٰ تانا نارخانیہ میں آگے چل کر لکھا ہے: و كذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق اذا لم يقرأه كتاباً۔

ترجمہ: ”اسی طرح ہر وہ خط، جسے اس نے خود نہ لکھا ہو اور نہ اسے لکھوایا ہو اور وہ اسے خود لکھنے، لکھوانے یا کسی کے لکھے ہوئے کو برضامندی قبول کرنے کا اقرار بھی نہیں کرتا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی،“ (جلد: 3، صفحہ: 380)۔

لیکن ظاہر ہے کہ زیر بحث مسئلے میں شوہر طلاق نامے پر دستخط کا خود اقرار کر رہا ہے، اس لئے یہ تحریر مؤثر ہے اور تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔

طلاق نامہ پر شوہر کے جعلی دستخط

## سوال: 118

جناب قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ خاندانی اختلافات کی وجہ سے بیوی روٹھ کر اپنے میسے دوسرے شہر بیٹھی ہو اور شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو اور شوہر کے علم میں لائے بغیر اس کے قریبی عزیز لڑکی کو طلاق کے کاغذات شوہر کے جعلی دستخط کر کے بھجوادیں تو کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟،

جبکہ یہ کاروائی شوہر کے علم میں لائے بغیر کی گئی ہو اور اس کے دستخط بھی نہ ہوں۔  
 جناب مفتی صاحب! میرا دوسرا سوال بھی پہلے سوال سے منسلک ہے اور وہ یہ کہ شوہر  
 نے اپنی بیوی اور اس کی والدہ کو اعتماد میں لیا اور ان دونوں کو یقین دلایا کہ یہ جو طلاق  
 آپ کے گھر بھیجی گئی تھی وہ جعلی ہے، اور اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے اور  
 پھر بیوی اپنے شوہر کے پاس آ کر رہنے لگتی ہے۔ کوئی ایک ہفتہ گزرتا ہے کہ لڑکی کی  
 والدہ کا اپنے داماد (لڑکی کے شوہر) سے جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ  
 جو طلاق تم لوگوں نے ہمارے گھر بھجوائی تھی، وہ صحیح تھی، وہ تمہاری مرضی سے بھجوائی گئی  
 تھی۔ لہذا اب تم ہماری بیٹی کیلئے اجنبی ہو، اب تمہارے راستے الگ اور ہمارے راستے  
 الگ ہیں، مفتی صاحب! قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ میرا اگلا قدم کیا  
 ہونا چاہئے، (سید امجد علی، 743 سیکٹر 4-5A نار تھ کراچی)

### جواب: (1)

صورت مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے تو اس (شوہر) کے علم میں  
 لائے بغیر اور اس (شوہر) کے ارادے کے بغیر اس کی بیوی کو جو طلاق نامہ ارسال  
 کر دیا گیا اور اسے موصول بھی ہو گیا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، امام احمد رضا  
 خان قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: کوئی تحریر بے ”شہادت یا اقرار کاتب“ مسلم  
 نہیں ہو سکتی، اگرچہ خط اسی کا معلوم ہوتا ہو، علماء فرماتے ہیں:

الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم كما في الهندية وغيرها۔

ترجمہ: ”خط دوسرے خط اور مہر دوسری مہر کے مشابہ ہوتی ہے، جیسا کہ ”ہندیہ“ وغیرہ

میں ہے، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 415 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: وکنا کمل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یملہ بنفسه لا یقع الطلاق ما لم یقرانہ کتابہ۔ ترجمہ: ”اسی طرح ہر وہ خط جسے اس نے خود نہ لکھا ہو اور نہ اسے کسی سے لکھوایا ہو اور وہ اسے اپنی تحریر تسلیم کرنے کا اقرار بھی نہیں کرتا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی،“ (رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 4، ص: 337 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

## جواب: (2)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”اگر شوہر اس تحریر کا اقرار کرتا ہے تو ثبوت طلاق ظاہر ہے اور اگر منکر ہے تو ہرگز معتبر نہیں، جب تک حجت شرعیہ قائم نہ ہو، دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: بحالت اختلاف، طلاق کا ثبوت کوواہوں سے ہوگا اور دو کوواہ عادل شرعی شہادت بروجہ شرعی ادا کریں کہ اس شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، طلاق ثابت ہو جائے گی، پھر اگر شوہر نفی کے کوواہ دے گا یا اس بات کے کہ مطلقہ بعد طلاق اس سے بولی کچھ اصلاً مسموع نہ ہوگا، ہاں! اگر عورت کوواہ بروجہ شرعی نہ دے سکے تو شوہر پر حلف رکھا جائے گا اگر حلف سے کہہ دے گا کہ اس نے طلاق نہ دی، طلاق ثابت نہ ہوگی اور اگر حاکم شرعی کے سامنے حلف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گی، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 12، ص: 445، 453 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

## حالت حمل میں نفاذِ طلاق

### سوال: 119

مفتی صاحب! میں رفعت جہاں بنت خلیل احمد آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں چار ماہ کی حاملہ ہوں اور میرے شوہر نے وکیل کے ذریعے تین طلاقیں لکھ کر بھیجی ہیں، لہذا یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں؟۔

### سوال: 120

اور اگر ہوئی ہے تو مفتی صاحب وہ اپنی ذمہ داری سے انکار کر رہا ہے، کوئی خرچہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ شریعت کی روشنی میں خرچے کے بارے میں اسے لکھ کر اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتائیں، مہربانی ہوگی، کیونکہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں؟۔

### سوال: 121

وہ شخص مجھ سے پہلے بھی دو شادیاں کر چکا ہے اور ایک کے بارے میں مجھے علم تھا، جسے اس نے 26 سال بعد طلاق دی۔ اور دوسری کو ایک سال بعد، دوسری کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ اسے شادیاں کرنے کا شوق ہے، شراب پیتے ہیں؟۔

### سوال: 122

نکاح سے پہلے ایک وعدہ لکھ کر دیا تھا کہ -/500000 روپے نکاح کی صورت میں ادا کروں گا، لیکن وہ بھی ادا نہیں کئے اور اپنی ساری ذمہ داری سے انکار کر رہا ہے؟۔  
مہربانی کر کے مجھے یتیم پر شریعت کی رو سے خرچہ دلوانے کی مہربانی کریں، کیونکہ وہ شخص ماربل فیکٹری کا مالک ہے اور عورتوں سے کھیلنا جانتا ہے، مجھ سے بہت نازیبا باتیں

کرنا تھا، شکر یہ، (رفعت جہاں بنت خلیل احمد)۔

## جواب:

صورت مسئلہ میں آپ کے شوہر نے جو طلاق مغلطہ آپ کو دی ہے، وہ شرعاً واقع ہو چکی ہے اور موثر ہو چکی ہے، اب آپ دونوں کے درمیان تحلیل شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حاملہ بیوی کو طلاق دینا اگرچہ انتہائی نامناسب، سنگدلی اور بے رحمی کی دلیل ہے، لیکن طلاق بہر حال واقع ہو جاتی ہے، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**۔

ترجمہ: ”اور حاملہ عورتوں کی عدت (کی انتہا) ان کا وضع حمل ہے“، (الطلاق: 4)۔ چونکہ وضع حمل تک آپ عدت میں رہیں گی، اس لئے ان ایام عدت کا نان نفقہ آپ کے شوہر کے ذمہ ہے اور وضع حمل کے بعد جب تک آپ دوسری شادی نہیں کرتیں، اس وقت تک آپ کا اور آپ کے بچے کا نان نفقہ (جب تک وہ بچہ اپنی بقاء و نگہداشت کیلئے ماں کا محتاج ہے، یعنی ایام شیر خوارگی)، آپ کے شوہر کے ذمہ ہے، اور یہ نان نفقہ وہ اپنے مالی معیار کے مطابق دینے کا پابند ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط**۔

ترجمہ: ”اور جس کا بچہ ہے، اس کے ذمہ دستور کے موافق ان (ماؤں) کا کھانا اور پہننا ہے“۔ (البقرة: 233)

علامہ علاؤ الدین حسکفی در مختار میں لکھتے ہیں:

تربیۃ الولد (ثبت للام) النسبۃ۔

ترجمہ: ”حق حضانت (نگہداشت کا حق) نسبی ماں کو حاصل ہے“، (ردالمحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 203 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔  
اور آگے لکھتے ہیں:

(وتستحق) الحاضنة (اجرة الحضانة اذا لم تكن منكوحه ولا معتدة)  
لابیہ۔

ترجمہ: ”اور بچے کی پرورش کرنے والی عورت پرورش کرنے کی اجرت کی حقدار ہے بشرطیکہ (وہ بچے کے باپ) کی منکوحہ نہ ہو اور نہ ہی باپ کی مطلقہ ہمعدہ ہو، (ردالمحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 203 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة: اجرة الرضاع، و اجرة الحضانة، ونفقة  
الولد۔ ومثله في الشربلية۔

ترجمہ: ”پس اس سے باپ پر تین باتیں واجب ہوتی ہیں، دودھ پلانے کی اجرت، پرورش کی اجرت اور بچے کا خرچہ اور اسی کی مثل شربلیہ نے لکھا ہے“، (ردالمحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 210 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

ماں اگر شعور کی عمر کو پہنچنے تک بچے کی نگہداشت کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہے اور بچے کے والد کو یہ ماننا چاہئے۔ جب تک ماں دوسری شادی نہ کرے۔

شوہر (ملک مخدوم احمد صاحب) نے اپنی بیوی سے جو پانچ لاکھ کی جائیداد دینے

کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے پورا کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔

ترجمہ: ”اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں قیامت میں جواب طلبی ہوگی۔“

(بنی اسرائیل: 34)

اور حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی

کرنا منافق کی نشانی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ان کے انکار کی صورت میں آپ اس جائیداد

کا قانوناً مطالبہ کر سکتی ہیں یا نہیں، اس کیلئے کسی ماہر قانون یا عدالت سے رجوع کیجئے،

ماں کو طلاق ہونے کے باوجود بچہ باپ کا جائز، قانونی اور شرعی وارث ہوگا۔

جائز شرعی وجوہ کی بنا پر عورت عدالت سے فسخ نکاح کی استدعا کر سکتی ہے

**سوال: 123**

میری شادی کو بارہ سال ہو گئے ہیں، ان بارہ سالوں میں ہمارے تعلقات

اچھے نہیں رہے، آٹھ سال پہلے لڑائی کے دوران انہوں نے غصے میں تین دفعہ ”طلاق

دی، طلاق دی، طلاق دی“ کہہ دیا۔ اس واقعے کا کوئی کواہ نہیں ہے، اس کے بعد وہ

اس سے مکر گئے، میرے گھر والے منع کرتے رہے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، اس وقت

میرے دونوں بچے چھوٹے تھے، طلاق کے بعد ایک بچہ اور ہوا۔ پانچ سال سے

میرے شوہر لندن میں ہیں، اس دوران تین مرتبہ وہ کراچی آئے لیکن میرے ساتھ

رویہ مناسب نہیں تھا، اب ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں جب سے عمرہ کر کے



آئی ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ساتھ رہوں، میں نے جتنے دن ان کے ساتھ گزارے، بہت مشکل سے گزارے۔

اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ میرے اور میرے شوہر کے لئے کیا حکم ہے؟ (شاہینہ، اشرف پلازہ فیز 3/2 - L، 14/B، شادمان نمبر 1 ناتھ کراچی)

### جواب:

صورتِ مسئلہ میں سائلہ کے بیان کے مطابق کہ ”اس کے شوہر نے تین دفعہ طلاق دی اور طلاق سے انکاری ہے اور اس واقعے کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے“ اس صورت میں شوہر کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ حلفیہ کہتا ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی تو طلاق ثابت نہ ہوگی، امام احمد رضا قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

”بِحالتِ اختلاف، طلاق کا ثبوت گواہوں سے ہوگا اور دو گواہ عادل شرعی شہادتِ برہہ شرعی ادا کریں کہ اس شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، طلاق ثابت ہو جائے گی، پھر اگر شوہر نفی کے گواہ دے گا یا اس بات کے کہ مطلقہ بعد طلاق اس سے بولی کچھ اصلاً مسموع نہ ہوگا، ہاں! اگر عورت گواہ برہہ شرعی نہ دے سکے تو شوہر پر حلف رکھا جائے گا اگر حلف سے کہہ دے گا کہ اس نے طلاق نہ دی، طلاق ثابت نہ ہوگی اور اگر حاکم شرعی کے سامنے حلف سے انکار کرے گا تو طلاق ثابت مانی جائے گی“، (فتاویٰ رضویہ جلد: 12 صفحہ 453، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

اگر شوہر تین طلاقیں دے کر منکر ہو جاتا ہے اور طلاق کے وقت گواہ موجود نہیں تھے اور اس کے بعد بدستور اسی مطلقہ عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو یہ شرعاً حرام

اور زنا کی زندگی ہے، کیونکہ خلق کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خالق کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ مذکورہ صورت میں سائلہ تین طلاق کی مدعیہ ہے اور شوہر اس سے منکر ہے اور مدعیہ کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے کوئی کواہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے شوہر کو قائل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور آخرت کے عذاب سے ڈرو، اور وہ تین طلاق جو آپ زبانی دے کر منکر ہو گئے ہیں، ان کا اقرار کر لیں اور لکھ کر دے دیں، اگر انہیں خوفِ خدا آجائے تو شریعت پر عمل کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ بدستور انکار پر ڈٹے رہیں تو ان کے انکار اور کواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قضاءِ حرمت اور تفریق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لہذا بظاہر حکماً نکاح قائم رہے گا، اگرچہ دیامناً اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جو ابد ہی کے اعتبار سے وہ نکاح باقی نہیں ہے، دنیا میں احکامِ شرعی کا اطلاق ظاہر حال، قرآن اور شہادتوں یا اقرار و انکار پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حقیقتِ حال کے مطابق فیصلے ہوں گے، یعنی ظاہر حال کے مطابق دنیوی عدالتوں سے جو فیصلے جاری ہوتے ہیں اور نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ حقیقتِ حال کو تبدیل نہیں کرتے۔

حدیثِ مبارک ہے:

عن ام سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ "انکم تختصمون الیّ، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، فاقضی له علیٰ نحو مما اسمع منه، فمن قطعت له من حق اخیه شیئاً، فلا یاخذہ؛ فانما اقطع له به قطعة من النار۔"

ترجمہ: ”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے، اور سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، سو جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے، کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں“، (صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4393 مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکتبہ المکرمۃ)۔

اگر آپ کو کامل یقین ہے کہ شوہر آپ کو تین طلاق دے چکا ہے تو ان حالات میں آپ کے لئے جائز شرعی اور قانونی راستہ یہ ہے کہ آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت کے ذریعے فسخ نکاح کرائیں، چونکہ جائز شرعی وجوہ موجود ہیں، اس لئے یہ فسخ نکاح شرعاً و قانوناً معتبر ہوگا۔ تین طلاق کے بعد اگرچہ آپ دونوں کا ازدواجی رشتے کو جاری رکھنا حرام تھا، لیکن بہر حال بچہ ثابت النسب ہو گا اور اپنے باپ کا وارث ہوگا۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ولو طلقها ثلاثاً ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجاً غيره فحجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت وان كان يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التاتارخانيه۔

ترجمہ: ”اگر (شوہر نے) اپنی بیوی کو تین طلاق دیں، پھر تحلیل شرعی کے بغیر اس سے عقد ثانی کر لیا، اور دونوں کو فساد نکاح کا علم نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب ثابت ہے، اور اگر انہوں نے فساد نکاح کا علم

ہونے کے باوجود (یعنی طلاقِ مغلظہ کے بعد تحلیل شرعی کے بغیر) عقدِ ثانی کیا ہو، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے کا نسب پھر بھی ثابت ہو جائے گا، فتاویٰ تانارخانہ میں (تجسسِ ناصری سے) ایسے ہی نقل کیا ہے، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1، ص: 540، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

عدت کے احکام

## سوال: 124

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں ہماری بہن جو کہ 2.1.04 کو بیوہ ہو چکی ہے اور بے اولاد ہے اس کے سسرال نے تکمیل عدت سے پہلے گھر سے نکال دیا ہے بہن کا مرحوم شوہر فوج میں ملازم تھا مرحوم شوہر کی وصیت (تحریری) تھی کہ میرے بعد تمام اقسام کی رقومات کی واحد حق دار میری بیوی ہوگی، آرمی کے قوانین کے مطابق تمام واجبات بیوہ کو ملے اسی طرح سرکاری پینشن کمیونیشن اور سرکاری ملازمین کی طرف سے جمع شدہ رقم جو ڈی ایس ایف، گروپ انشورنس کی رقم، یہ سب رقومات بھی مرحوم کی تحریری وصیت کے مطابق بیوہ کو ملی ہیں اب چند سوال کا جواب درکار ہے:

۱: یہ کہ بیوہ کو عدت پوری ہونے سے پہلے ہی زیر دستی گھر سے نکال دینا درست عمل ہے؟ جب کہ ایسا ہی ہوا ہے۔

۲: بیوہ عورت کی بہن کو بھی (جو کہ اس کے دوسرے بھائی کے نکاح میں ہے) زیر دستی گھر سے نکال دیا ہے۔

۳: بیوہ کے مرحوم شوہر کی وصیت اور آرمی قوانین کے تحت ملنے والے تمام فنڈز پر مرحوم شوہر کے والدین کا کوئی حق ہے؟ یا نہیں اگر ہے تو کتنا؟

۴: مرحوم کے چھ بھائی اور پانچ بہنیں ہیں کیا ان کا بھی کوئی حق ہے؟

۵: مرحوم شوہر کے والدین حیات میں جن کی ملکیت میں ایک بڑے پلاٹ پر مشترکہ گھر بیع ساز و سامان (جس میں بیوہ کا بھی سامان ہے) اور ۱۳۲ ایکڑ زمین بھی (مرحوم کے) والدین کے نام ہے اس طرح پیچھے صوبہ سرحد میں زمین اور جائیداد ہے ان تمام جائیدادوں میں مرحوم کی بیوہ کا حق ہے یا کہ نہیں؟

۶: بیوہ بہن کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی جو کہ انتقال کر گئی تاہم اس نے اپنی نند یعنی مرحوم شوہر کی بہن کا بچہ کو دلایا ہے؟، بیوہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی کیا مرحوم شوہر کے تمام سرکاری واجبات کی واحد حق دار بیوہ ہے یا کہ شوہر کے والدین بھی کچھ حق رکھتے ہیں؟ جبکہ آرمی قانون کے مطابق سب کچھ بیوہ کو ہی ملے گا۔

۷: درج بالا سرکاری واجبات کے علاوہ بیوہ کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کیونکہ مرحوم کے والدین نے اس کو دو کپڑوں میں گھر سے باہر نکال دیا ہے؟

۸: بیوہ کے ساتھ سرالیوں کا طرز عمل نہایت خراب ہے جو کہ ہر قسم کے حقوق سے محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کیا ان کا ایسا کرنا درست عمل ہے؟

برائے مہربانی مندرجہ امور پر شرعی فتویٰ جاری فرمایا جائے آپ کی عین نوازش ہوگی۔  
(محمد سبحان دین خٹک (S.S.P (Asf))، B.302 کریسنٹ ویو بلاک  
13 گلستان جوہر کراچی)

**جواب:**

شریعت کی رو سے متوفی عنہا، یعنی وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور اسی طرح مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورت، دونوں کیلئے حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کی وفات یا طلاق کے وقت جس مکان میں رہ رہی تھیں، اسی گھر میں عدت پوری کریں، بشرطیکہ

وہاں عدت گزارنے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں :

علمی المعتملة ان تعتمد فی المنزل الذی یضاف الیہا بالسکنی حال وقوع الفرقة  
والعوت۔

ترجمہ: ”عدت گزارنے والی عورت پر لازم ہے کہ وہ اس گھر میں عدت گزارے  
جہاں پر وہ طلاق یا شوہر کی وفات کے وقت رہ رہی تھی“، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 535  
مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

لہذا صورت مسئولہ میں بھی خاتون کو شوہر کے گھر عدت گزارنی چاہئے، ہاں! اگر  
سسرال والے رہنے نہیں دے رہے تو وہ سخت گنہگار ہیں اور اس مجبوری کے پیش نظر  
بیوی اپنے والدین کے ہاں عدت گزار سکتی ہے۔

سرکاری ملازم کو دورانِ ملازمت وفات کی صورت میں جو قیوم حکومت کی طرف سے  
ملتی ہیں، ہماری معلومات کے مطابق وہ درج ذیل ہیں:

(1) جی پی فنڈ کی رقم جو دورانِ ملازمت اس کی تنخواہ سے کاٹ کر جمع کی

جاتی رہی ہے۔

(2) Commutation کی رقم جو ریٹائرمنٹ کے وقت ملازم کی تنخواہ کے ایک

حصے کے عوض حکومت کی مقررہ شرح سے ضرب دے کر نقد دی جاتی ہے۔

(3) پنشن

(4) گروپ انشورنس کی رقم۔

(5) Benovolent Fund کی رقم جو متوفی ملازمین کے پسماندگان کو بصورت

اعانت دی جاتی ہے۔ ان میں سے جی۔ پی فنڈ اور کمیونیشن کی رقم ملازم کا استحقاق

ہے، یعنی حکومت اگر روک لے تو ملازم یا اس کے ورثاء عدالت کے ذریعے اسے

حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس رقم کی قانونی پوزیشن وہی ہے، جو ہم نے بیان کی ہے تو ہماری رائے میں اس کا حکم متوفی کے ترکے کا ہے، اور یہ وراثہ میں اسلام کے اصول وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی اور لا ولد شوہر کے کل ترکے میں بیوی کا حصہ چوتھا (یعنی 1/4) ہوتا ہے۔ اور اگر یہ از روئے قانون متوفی سرکاری ملازم کا استحقاق نہیں ہے، یعنی حکومت کی جانب سے یہ رقم روکے جانے کی صورت میں وہ عدالت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر یہ حکومت کی طرف سے تبرع اور فضل و احسان ہوگا اور وہ اپنے قانون کے مطابق بیوہ ہی کو دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے اور اس صورت میں اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

متوفی ہرکاری ملازم کی بیوہ یا نابالغ بچوں کو جو پنشن دی جاتی ہے، وہ حکومت کی طرف سے تبرع اور فضل و احسان ہے، اگر حکومت اپنے قوانین کے تحت صرف بیوہ کو دینا چاہتی ہے، تو پھر یہ بیوہ کا حق ہوگا، اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

لائف انشورنس ویسے اسلام کے مطابق نہیں ہے اور ملازم کی جو رقم تنخواہ سے کاٹ کر اس فنڈ میں جمع کی جاتی رہی ہے، اس پر ملازم کا استحقاق اس لیے نہیں ہے کہ بصورت حیات ریٹائرمنٹ کی صورت میں اسے کچھ بھی نہیں ملتا، نہ اپنی جمع شدہ رقم اور نہ ہی گروپ انشورنس کی مجموعی رقم، لہذا یہ بھی حکومت کی طرف سے تبرع ہی ہے، اگر وہ اپنے قانون کے مطابق بیوہ کو دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے، اس میں شرعاً شوہر کی وصیت کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بیوہ وارث ہے اور وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔

اسی طرح Benovolent Fund کی رقم بھی ملازم کا استحقاق نہیں ہے، کیونکہ حکومت نہ تو اپنے سرکاری ملازمین کو وہ جمع شدہ رقم واپس کرتی ہے اور نہ وہ قانون کی

مدد سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ حکومت کا یہ قانون خلاف شرع ہے، جب حکومت ملازم کی تنخواہ سے یہ رقم کاٹی ہے تو ریٹائرمنٹ پر یہ رقم بصورت حیات اور بصورت وفات اس کے ورثاء کو لازماً ملنی چاہیے۔ لہذا حکومت متوفی ملازم کی بیوہ کو اس مدد سے کچھ دینا چاہیے تو یہ بھی فضل و احسان ہوگا اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔

نند کا بچہ جو کو دلیا ہے، وہ شرعاً نہ متوفی (یعنی اپنے ماموں) کا وارث ہے اور نہ ہی متوفی کی بیوہ (یعنی اپنی ممانی) کا، اور بالغ ہونے کے بعد وہ اپنی ممانی کا محرم بھی نہیں رہے گا، بشرطیکہ اس رشتے کے علاوہ کوئی اور وجہ حرمت نہ ہو، البتہ وہ اپنے مال سے اس کی پرورش اور تعلیم پر بھی خرچ کر سکتی ہے اور اس کے نام کچھ مال حصہ کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس سے شرعی پردہ لازم ہوگا۔

متوفی کے والدین یا بہن بھائیوں کے مال میں اس کی بیوہ کا کوئی حق نہیں ہے، البتہ متوفی کا جو اپنا ترکہ ہے، بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث، اور بصورت ”انحصار ورثاء در مذکورین“ متوفی کا ترکہ 12 حصوں پر منقسم ہوگا اور اس کی تقسیم حسب ذیل ہوگی: والد: 7 حصے، والدہ: 2 حصے، بیوہ: 3 حصے اور بہن بھائی ترکے سے محروم رہیں گے۔

طلاق کے کاغذ پر مکان کے کاغذ کہہ کر دھوکے سے دستخط لینا

سوال: 125

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم دو بھائی ہیں، ہمارے والدین کا ایک مکان ہے جس کے دو حصے کر کے، ایک حصہ مجھے اور ایک میرے بھائی کو دے دیا، میرے والدین نے میرے حصے کو فروخت کر کے وہ رقم





ہونا ضروری ہے، اور تعین دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے کہ یہ فلاں چیز ہے، اسے ”مشاڑ الیہ“ کہا جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کا نام لے کر اسے متعین کیا جائے، اسے ”مُسْمٰی“ کہا جائے گا۔ اگر دونوں چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں تو ”مشاڑ الیہ“ کا اعتبار ہوگا اور اگر دونوں مختلف جنس کی ہوں تو ”مُسْمٰی“ کا اعتبار ہوگا۔ اب زیر بحث مسئلہ میں مُسْمٰی ”مکان کے کاغذات“ ہیں اور مشاڑ الیہ ”طلاق نامہ“ ہے، اور دونوں کی جنس مختلف ہے۔ اور جب مشاڑ الیہ اور مُسْمٰی دو مختلف الجنس چیزیں ہوں تو تسمیہ کا اعتبار ہوگا، یعنی عقد اس چیز سے متعلق ہوگا، جس کا نام لیا گیا ہے۔ اور نام مکان کے کاغذات کا لیا گیا تھا، جو حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ حقیقت میں تو یہ ”طلاق نامہ“ تھا، پس یہ عقد باطل ہے اور دستاویز دستخط کے باوجود کالعدم ہیں، کیونکہ یہ کام دھوکہ دہی سے کیا گیا ہے، لہذا اطلاق نہیں ہوئی اور آپ کی بیوی بدستور آپ کے نکاح میں ہے، (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 7 ص: 174 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

یہ جواب اس صورت میں ہے کہ آپ کا بیان درست ہے اور آپ واقعی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور جو لوگ طلاق کے مدعی ہیں، ان کے پاس اس بات کے کواہ نہ ہوں کہ آپ سے تحریر پر دستخط کراتے وقت آپ کو اصل صورت حال بتائی گئی تھی، اور آپ حلفیہ اقرار کریں کہ آپ کا بیان درست ہے اور دھوکے سے آپ سے تحریر پر دستخط کرائے گئے ہیں۔

اسی سے مماثل ایک سوال کے جواب میں (کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کی صورت میں شوہر سے کہا گیا کہ یہ صلح نامہ ہے، اس پر انگوٹھا لگا دو اور اس نے لگا دیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ طلاق نامہ تھا اور شوہر طلاق دینے کیلئے ہرگز تیار نہیں تھا) مفتی محمد نور اللہ

صاحب بصیر پوری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں: ”اگر صورتِ سوال صحیح و درست ہے تو بلا شک و شبہ و ریب طلاق واقع نہیں ہوئی، دھوکہ دینے والے اور صلح کا نام لے کر انگوٹھ لگوانے والے سخت گنہگار اور فریب کار، مستوجبِ نار ہیں، ان پر لازم کہ توبہ کریں اور ایسے سخت جرموں سے بچیں اور وہ نکاحِ ثانی جو کسی غیر سے کیا گیا ہے بالکل ناجائز و ناروا و حرام ہے۔ (فتاویٰ نوریہ، جلد 3 صفحہ 109 مطبوعہ انجمن حزب الرحمن بصیر پور، اوکاڑہ)

ایلاء

سوال: 126

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کی ذیل میں کہ ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جس پر میری بیوی نے کہا کہ ”آپ بستر پر نہیں لیٹیں گے اور نہ میرے پاس آئیں گے۔ جو اباً میں نے غصہ میں یہ الفاظ کہے، تم حرام ہو میرے اور زندگی بھر کے لئے۔“ لیکن دل میں نیت ان سے ساری زندگی ازدواجی (قربت) تعلق قائم نہ رکھنے کی تھی، میری نیت اس میں طلاق کی نہیں تھی، (عامر ملک، B-223 بلاک 6 گلشن اقبال، کراچی)۔

جواب:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: ”جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت

بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ  
خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے، (البقرہ: آیت: 227, 226)۔

اس آیت کریمہ کی رو سے شوہر کا اپنی بیوی کو قسم کھا کر یہ کہنا کہ میں چار ماہ تک (یا  
دائمی طور پر) تم سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، یہ ”ایلاء“ ہے۔ اگر وہ اپنی  
قسم پر قائم رہتا ہے تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور قسم توڑ کر  
چار ماہ کے اندر بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو نکاح قائم رہتا ہے اور قسم کا کفارہ  
ادا کرنا پڑتا ہے، جو یہ ہے: دس مساکین کو اپنے اوسط معیار کے مطابق دو وقت  
کا کھانا کھلانا، یا لباس فراہم کرنا ہے اور اگر یہ نہ کر سکے تو تین روزے رکھنا ہے۔  
علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(هو الحلف على ترك قربانها)۔

ترجمہ: اپنی بیوی سے ازدواجی قربت ختم کرنے کی قسم کھانا ایلاء ہے۔  
آگے لکھتے ہیں:

(و حکمہ وقوع طلاق بائنة ان برولم يطاء)۔

ترجمہ: اور اس کا حکم یہ ہے اگر وہ اپنی قسم پر پورا اتر اور وطی نہ کی تو ایک طلاق بائن واقع  
ہوگی،

مزید لکھتے ہیں:

(قال لامراته انت على حرام ايلاء ان نوى التحريم اولم ينو شيئا)۔

ترجمہ: شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، یہ ”ایلاء“ ہے، اگرچہ حرام قرار  
دینے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔

اور آگے مزید لکھتے ہیں:

(و تطلقه بئانه) ان نوى الطلاق و ثلاث ان نواها، و يفتى بانّه طلاق بائن  
 و ان لم ينو لغلبة العرف۔

ترجمہ: (اور طلاق بائن واقع ہوگی) اگر طلاق کی نیت کی ہو اور اگر تین طلاق کی نیت کی  
 تو تین واقع ہوں گی، اور فتویٰ اسی پر ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگی اگرچہ نیت نہ کی  
 ہو، کیونکہ غالب عرف یہی ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

قوله (و ان لم ينو) هذا في القضاء، و اما في الديانة فلا يقع ما لم ينو۔

ترجمہ: (اور خواہ اس نے نیت نہ کی ہو، طلاق واقع ہو جائے گی) یہ قضاء ہے (یعنی  
 قضاء اس پر طلاق کا حکم لگایا جائے گا، لیکن جہاں تک دیانت کا تعلق ہے یعنی بندے  
 اور رب کا معاملہ ہے تو جب تک نیت نہ کی ہو، طلاق واقع نہ ہوگی) اور دیانتاً واقع نہیں  
 ہوگی جب تک نیت نہ کرے، پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

قلت: الظاهر انه اذا لم ينو شيئاً اصلاً يقع ديانة ايضاً۔

ترجمہ: ”میں کہتا ہوں کہ (شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کلمات، کہ تو مجھ پر ہمیشہ کیلئے حرام  
 ہے، کہتے ہوئے) کسی چیز کی نیت نہ کی ہو تو دیانتاً بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 5، ص: 62، 61، 50، 48، مطبوعہ دار احیاء التراث

العربی بیروت)

لہذا صورت مسئلہ میں اگر شوہر چار ماہ کے اندر بیوی سے قربت قائم کر کے قسم کا کفارہ  
 ادا کر دے تو نکاح بدستور قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔

الفاظ صریح یا کنایہ کا تعین

سوال: 127

میں آپ سے اپنے مسئلے کے بارے میں شریعت کی روشنی میں حل چاہتا

ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو تقریباً دو سال قبل کہا کہ ”میں نے تمہیں طلاق دی“، اس کے بعد رجوع کر لیا۔ آج سے چار ماہ قبل ہمارا جھگڑا ہوا، بیوی اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ماہ بعد میں اسے لینے گیا تو میرے سالے نے کہا کہ آپ ان کو سال ڈیڑھ سال یہیں چھوڑ دیں، ان کی عقل ٹھکانے آجائے گی تو پھر آپ لے جانا، میں نے غصے میں کہا کہ ”میری طرف سے فارغ ہے اور جب فیصلہ لینا ہو تو مجھے بتادیں“۔ اس وقت میری بیوی اور سالے موجود تھے، لیکن میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی کہ میں ان کو اپنے نکاح سے فارغ کر دوں۔ ازراہ کرم شریعت کے حوالے سے وضاحت فرمائیں، (مسعود احمد، A-69 سراج کالونی ناظم آباد، کراچی)۔

### جواب:

صورتِ مسئلہ میں سائل کے بیان کے مطابق دو سال قبل ایک طلاق رجعی دے کر اس نے رجوع کر لیا، تو یہ رجوع شرعاً درست تھا۔ اب اس کے پاس صرف دو طلاق کا اختیار باقی تھا، جب بھی دے گا پہلی طلاق کے ساتھ مل کر موثر ہوں گی، اس کے بعد شوہر کا غصے کی حالت میں یہ کلمات کہنا کہ ”میری طرف سے فارغ ہے اور جب فیصلہ لینا ہو تو مجھے بتادیں“۔

”میری طرف سے فارغ ہے“ یہ طلاق صریح کا کلمہ نہیں ہے بلکہ کنایات میں سے ہے اور بحالتِ غصہ اس سے ”طلاق بائن“ مراد لی جاسکتی ہے، لیکن شوہر نے چونکہ یہ کلمات ”انشاء طلاق“ کے طور پر نہیں کہے بلکہ اسے بیوی کی مرضی پر موقوف کیا ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ ”جب فیصلہ لینا ہو مجھے بتادیں“، یعنی علی الاطلاق تفویض طلاق بھی نہیں ہے، اس لئے اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی اور ان کا رخصتہ نکاح بدستور قائم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میری عمر تقریباً 58 سال ہے، میری بیوی کی عمر 52 سال ہے اور ہمارے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، میں بیروزگار ہوں، بچوں کی شادی کے مسائل اور بیٹے بھی تاحال برسر روزگار نہیں ہیں، بڑی پریشانی اور مصائب کا سامنا ہے جس کے باعث مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ چند روز قبل بعد نماز مغرب ہم سب بیٹھے T-V پر وگرام دیکھ رہے تھے، ڈرامے کے ایک کردار کو دیکھ کر میں نے کہا یہ محترمہ بالکل آپ کی امی کی طرح کردار ادا کر رہی ہیں، یہ الفاظ سن کر میری بیوی

(جو کہ ڈرائنگ روم میں نماز پڑھ رہی تھی) شدید ناراض ہوتے ہوئے انتہائی اشتعال انگیز گفتگو کی اور مجھ پر تہمتیں لگائیں، نتیجے کے طور پر میں نے بھی غصے میں اپنے بچوں کی موجودگی میں ٹیبل پر رکھے ہوئے سپارے و بیچ سورے کو ہاتھ میں لے کر یہ کہا ”میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی“۔ اس کے بعد گھر میں خاموشی طاری ہو گئی، ہم میاں بیوی کو اپنے اس رد عمل پر شدید ندامت ہوئی، ہم نے اپنے الفاظ ایک دوسرے سے واپس لئے اور معافی تلافی کی، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں اور معافی کے طلب گار ہیں، از روئے شرع ہمارے نکاح کو برقرار رکھنے اور رجوع کرنے کیلئے آپ کے جواب کے منتظر ہیں، (شیخ عبداللطیف، R-40 پابنیر فاؤنڈیشن گلشن اقبال)۔

**جواب:**

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَ فَمَا مَسَاكُ مِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ

تَسْرِیْحٍ مِ بِاِحْسَانٍ ط

ترجمہ: ”طلاق (رجعی) دوبارہ ہے، پھر (عدت میں) حسن سلوک کے ساتھ روک لینا ہے یا (عدت پوری کرنے کے بعد) احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے“، (البقرہ 229)۔

اگر سائل کا بیان درست ہے اور واقعی اس نے دو طلاق دی ہیں، تو یہ دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، وہ چاہے تو عدت کے اندر یک طرفہ طور پر عقدِ ثانی کے بغیر رجوع کر سکتا ہے، خواہ محض زبانی کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا یا ازدواجی تعلق قائم کر لے تو بھی رجوع ہو جائے گا مگر فعل سے رجعت کرنا مکروہ ہے الا یہ کہ مجنون ہو۔ اور اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو وہ عورت اب آزاد ہے، اپنی آزادانہ مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ بھی عقدِ ثانی کر سکتی ہے اور کسی اور شخص کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، اگر پہلے شوہر کے ساتھ عقدِ ثانی کیا تو آئندہ اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا اور اگر خدا نخواستہ اس نے ایک اور طلاق دے دی تو وہ ان پہلی دو طلاقوں کے ساتھ جمع ہو کر تین طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔

### تعلق طلاق

حسب ذیل سوالات کا جواب از روئے شریعت قرآن و سنت عنایت فرمائیں:

### سوال: 129

(ش) اور مختار احمد کی شادی کو تقریباً عرصہ بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اور یہ دو بچیوں اور ایک بچے کے ماں باپ ہیں۔ گھریلو جھگڑوں کی بنا پر (ش) ضلع مظفر گڑھ سے اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے میکے آگئی، عرصہ تقریباً چار پانچ سال سے وہ دونوں بھیڑ میں رہ رہے ہیں۔ کبھی میاں بیوی مکان کرایہ پر لے کر رہنے لگتے ہیں، پھر جھگڑا ہونا



ہے پھر اپنے میکے آجاتے ہیں۔ لڑکی (ش) اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے تو لڑکا مختار احمد بھی اپنے سسرال میں رہنے لگتا ہے۔ متعدد بار ایسا ہوا۔

اب آتے ہیں سوال کی طرف لڑکی (ش) طلاق مانگتی ہے اور (مختار احمد) طلاق دیتا نہیں ہے۔ (ش) نے اپنے خاوند مختار احمد کے خلاف جج فیملی کورٹ بھلووال (سرکودھا) میں بابت تیس نکاح خرچہ نان نفقہ دلاپانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ (ش) کی اس کے بھائیوں، والدہ اور عزیز واقارب نے منت سماجت کی کہ وہ عدالت سے مقدمہ واپس لے لے لیکن (ش) اپنی بات پر بضد رہی۔

طے یہ پایا کہ اس شرط پر مختار احمد طلاق دے کہ ”اگر میری بیوی شمیم اختر عدالت سے مقدمہ اٹھالے تو میری طرف سے اس کو طلاق“، یہ جملہ مختار احمد نے صرف ایک بار کہا، مورخہ 20-05-2005 کو شمیم اختر نے عدالت سے اپنا مقدمہ اٹھالیا، لیکن مختار احمد دوبارہ اور سہ بارہ طلاق دینے سے انکاری ہے اور بھیرہ سے روپوش ہے۔

(1) کیا (ش) کو ایک طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟

(2) رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں؟

(3) ایک ماہ تک رجوع نہ کرے، تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟، اسی طرح اگلے ماہ بھی رجوع نہ کرے، تو کیا تیسری طلاق واقع ہو جائے گی؟، اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہے یا نہیں؟

(4) اگر تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں، تو عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کا لڑکی کو حق ہے یا نہیں؟ یا اپنے پہلے مرد سے نکاح ثانی کر سکتی ہے یا نہیں؟

(عبدالرحمن نسیم، کاشانہ رؤف مفتیان سٹریٹ بھیرہ شریف، تحصیل بھلووال، ضلع سرکودھا، پنجاب)۔

## جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیرِ صدقِ سائل مختار احمد نے طلاق کو اپنی بیوی شمیم اختر کے عدالت سے مقدمہ واپس لینے پر معلق کیا، اور بیوی نے 20-5-2005 کو مقدمہ واپس لے لیا، تو ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگئی اور اسی تاریخ سے عدت شروع ہوگئی، لیکن عدت کے اندر شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، خواہ وہ زبان سے کہے کہ میں نے رجوع کیا، یا عملاً رجوع کر لے۔ اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کرنا تو عدت گزرنے کے بعد یہ طلاق بائن ہو جائے گی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور شمیم اختر اب کسی کے ساتھ بھی نکاح کے لئے آزاد ہوگی۔ لیکن عدت گزرنے کے بعد بھی دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور دوبارہ نکاح کی صورت میں یہ بھی ایک طلاق آئندہ خدا نخواستہ شوہر کے طلاق دینے کی صورت میں نئی طلاق کے ساتھ جمع ہونے کیلئے مؤثر رہے گی۔ باقی شوہر مختار احمد کو دوسری اور تیسری طلاق دینے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

نکاح سے پہلے طلاق مؤثر نہیں ہوتی

## سوال: 130

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ رہوں یا آپ کے گھر میں رہوں یا آپ کی دولت پر شادی کروں، تو میرے اوپر میری بیوی طلاق ہے۔ واضح رہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، تو کیا اب اس قول کے بعد اگر میں اپنے والد کے سرمائے سے شادی کروں اور ان کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں، تو کیا میرے نکاح پر کوئی اثر پڑے

گا؟، براہ کرم اس مسئلہ کی وضاحت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، (حبیب حسین، ضلع  
ماہرہ)۔

**جواب:**

طلاق کو کسی شرط پر معلق کرتے وقت اگر طلاق کی نسبت ملک یا  
سبب ملک کی طرف کی گئی ہے، تو وجود شرط کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے  
اپنی منکوحہ بیوی سے کہے: کہ اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں  
تو تجھے طلاق ہے یا اگر میں اپنے والد کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہوں تو جس  
عورت سے بھی میں نکاح کروں، اسے طلاق ہے، تو ان دو صورتوں میں طلاق واقع  
ہو جائے گی، لیکن اگر طلاق کی نسبت ملک (یعنی باقاعدہ منکوحہ بیوی) یا سبب ملک  
(جس خاتون سے جب بھی نکاح ہو گیا کروں گا) نہ ہو تو کلام لغو ہو جائے گا اور طلاق  
واقع نہیں ہوگی، یہاں سوال میں آپ نے درج کیا ہے: ”میں نے اپنے والد سے کہا:  
کہ اگر میں آپ کے ساتھ رہوں یا آپ کے گھر میں رہوں یا آپ کی دولت پر شادی  
کروں تو میرے اوپر میری بیوی طلاق ہے، واضح رہے کہ ابھی میری شادی نہیں  
ہوئی۔“ چونکہ اس تعلق کے وقت نہ تو آپ کی منکوحہ بیوی موجود ہے اور نہ ہی آپ نے  
اس تعلق طلاق کو مستقبل میں شرط نکاح (سبب ملک) کے ساتھ مشروط کیا ہے، تو یہ  
تعلق لغو ہے، آپ مستقبل میں اگر اپنے والد کے سرمائے سے شادی کریں گے یا  
شادی کے بعد ان کے ساتھ ان کے مکان میں رہیں گے، تو آپ کی ہونے والی بیوی  
پر طلاق واقع نہیں ہوگی، علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(فلغا قوله لا جنبيه ان زرت زيدا فانك طالق فنكحها فزارت)۔

ترجمہ: ”کسی شخص کا اجنبی عورت سے یہ کہنا کہ اگر تو زید سے ملے، تو تجھے طلاق ہے،

پھر (بعد میں) اس شخص نے اس (جنبیہ) عورت سے نکاح کیا اور وہ عورت پھر زید سے ملی، (تو طلاق واقع نہیں ہوگی) یعنی یہ قول لغو ہو جائے گا، کیونکہ تعلق طلاق کے وقت وہ جنبیہ عورت اس شخص کے نکاح میں نہیں تھی اور نہ ہی شرط کو سبب ملک کے ساتھ معلق کیا، (درمختار جلد 4 ص: 449 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

صدر الشریعہ مولانا امجد علی لکھتے ہیں:

کسی جنبیہ سے کہا: اگر تو فلاں کے گھر گئی، تو تجھ پر طلاق پھر اس سے نکاح کیا اور وہ عورت اس کے یہاں گئی، تو طلاق نہ ہوئی یا کہا، جو عورت میرے ساتھ سوئے، اسے طلاق ہے پھر نکاح کیا اور ساتھ سوئی، طلاق نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر والدین سے کہا: کہ اگر تم میرا نکاح کرو گے، تو اسے طلاق پھر والدین نے اس کے بے کہے نکاح کر دیا، طلاق واقع نہ ہوگی، یوں ہی اگر طلاق ثبوت ملک یا زوال ملک کے مقارن ہو تو کلام لغو ہے، طلاق نہ ہوگی، مثلاً تجھ پر طلاق ہے، تیرے نکاح کے ساتھ یا میری یا تیری موت کے ساتھ، (بہار شریعت جلد اول ص: 611، مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی) علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ولا تصح اضافة المطلاق الا ان يكون الحالف مالكا او يضيفه الى ملك  
والاضافة الى سبب المملك كما التزوج كالاضافة الى الملك فان قال لا  
جنبية ان دخلت الدار فانت طالق ثم نكحها فدخلت الدار لم تطلق كذا  
في الكافي -

ترجمہ: ”اور طلاق کی نسبت تب مؤثر ہوتی ہے، جب قسم کھانے والا مالک ہو یا ملک کی طرف نسبت کرے، اور سبب ملک کی طرف نسبت بھی ملک کی طرف نسبت کی مانند

ہے، جیسے کہ نکاح کرنے کی نسبت (کیونکہ نکاح سبب ملک ہے، جیسے کہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے)، پس اگر کسی اجنبی عورت سے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو تجھے طلاق ہے (تو اب تعلق طلاق کے وقت وہ اس کی ملک یعنی نکاح میں نہیں ہے اور سبب ملک یعنی نکاح کے ساتھ شرط کو معلق بھی نہیں کیا)، پھر اس کے بعد اس اجنبیہ عورت سے نکاح کیا اور وہ اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوئی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ”کافی“ میں اسی طرح ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص: 420 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

باقی آپ کو والدین کو اپنا مقابل یا حریف سمجھ کر ان سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہئے، یہ انتہائی شقاوت اور بد نصیبی کی بات ہے، نہ ان کی دل آزاری ہی کرنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>ط</sup>

ترجمہ: ”اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا“، (البقرہ: 83)۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا<sup>ط</sup>

ترجمہ: ”اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا“، (بنی اسرائیل: 23)۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا<sup>ط</sup>

ترجمہ: ”اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور (اس کے باوجود) دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا“، (لقمان: 15)۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کریں، تو ایسے امور میں تو ان کی اطاعت نہیں ہے، جس سے خالق تبارک و تعالیٰ کی معصیت لازم آتی ہو، لیکن اس کے باوجود دنیوی امور میں ان سے حسن سلوک کرنا لازمی ہے۔

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحداً فواحداً ومن أصبح عاصياً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار إن كان واحداً فواحداً قال رجل: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے والدین کا فرمان بردار ہے تو اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اگر ماں باپ میں سے ایک موجود ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہا ہے، تو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہے تو اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا: (یا رسول اللہ ﷺ!) اگرچہ اس شخص کے ماں باپ اس پر ظلم کریں (تب بھی ان کا یہی مقام ہے)، آپ نے تین بار

فرمایا: ہاں! اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، تب بھی جائز امور میں ان کی فرماں برداری اولاد پر لازم ہے، (مشکوٰۃ بحوالہ کلبیہ قتی فی الشعب باب فی بڑاوالدین رقم الحدیث: 7916)۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ ﷺ رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔

ترجمہ: ”حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضی میں ہے۔“ (سنن ترمذی، رقم الحدیث: 1899)

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ رغبم انفہ ثم رغبم انفہ ثم رغبم انفہ قبیل من یا رسول اللہ قال: من ادرك والديه عند الكبر احلھما او كلھما ثم لم یدخل الجنة۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو (یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو)، عرض کیا گیا: کون یا رسول اللہ؟ فرمایا: جو اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر (ان کی اطاعت کر کے) جنت کا حق دار نہ بن سکے،“ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 6391)۔

عن عبدالرحمن بن ابی بکرۃ، عن ابیہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ”ألا أخبرکم بأکبر الكبائر قالوا: بلیٰ یا رسول اللہ، قال: ”الاشراک باللہ، وعقوق الوالدین۔“

ترجمہ: ”حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟، صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! (ضرور بتائیے) آپ نے فرمایا: (بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور (دوسرا) والدین کی نافرمانی ہے“، (صحیح بخاری رقم الحدیث: 6273)۔

نوٹ: اس سے ملتی جلتی اور احادیث بھی دیگر راویوں کی سند سے امام بخاری نے روایت فرمائی ہیں، (رقم الحدیث:

5976, 6870, 6871, 6919, 6920)۔

لہذا آپ پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھیں، ان کی اطاعت اور فرماں برداری کو اپنا شعار بنائیں اور والدین کی نافرمانی کے دنیوی و اخروی وبال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تاہم آپ کی بیان کردہ صورت مسئلہ اگر درست ہے، تو آپ کے والد صاحب کے سرمائے سے شادی کرنے یا شادی کے بعد ان کے گھر پر رہنے سے آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

WWW.NAFSEISLAM.COM



## ﴿کتاب العت﴾

دورانِ عدت ملک سے باہر جانے کی اجازت؟

سوال: 131

میرے شوہر کا انتقال 27 نومبر 2004ء کو ہوا، میری عدت 10 اپریل 2005ء کو ختم ہو رہی ہے، اسوقت میں اپنے بھائی کے گھر رہ رہی ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لندن میں رہتا ہے۔

میرا ارادہ مستقل لندن میں رہنے کا ہے، میرے پاسپورٹ کی مدت جون، 2005ء اور ویزے کے مدت مارچ، 2005ء میں ختم ہو رہی ہے، میرے بیٹے نے مجھے بتایا ہے کہ برطانیہ میں 30، مارچ 2005ء سے ویزے کا نیا قانون لاگو ہو رہا ہے، جس میں زیادہ پابندیاں عائد ہوں گی۔ 15، مارچ 2005ء تک پرانے قانون کے تحت ویزا بڑھانے کی درخواست دی جاسکتی ہے، اس کے بعد دی جانے والی درخواستوں میں نئے قانون کا اطلاق ہوگا، جس میں ویزا ملنے کے امکانات کم ہیں۔ کیونکہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لئے چاہتی ہوں کہ عدت ختم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اگر ویزا ختم ہونے کے بعد جانا چاہوں تو عین ممکن ہے کہ پاکستان سے مجھے دوبارہ ویزا نہ ملے، اگر ایسا ہوا تو میرے پاس کوئی متبادل نہیں ہوگا، آجکل کے حالات میں اکیلی عورت کا گھر میں رہنا، ہر قسم کے حادثات کو دعوت دینا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر کیا میں عدت ختم ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس جاسکتی ہوں، (تسلیم فخر، 99-A بلاک 12 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

## جواب:

قرآن مجید میں عدت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: وَالسَّيِّئَاتِ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُونَ اَزْوَاجًا يَتَرْتَمِصْنَ بِانْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

ترجمہ: اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور (اپنی) بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو چار مہینے دس دن، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو کوئی حرج نہیں تم پر اس بات میں جو دستور (شرع) کے موافق وہ اپنے حق میں کریں، (البقرہ: 234)۔

عورت کو زمانہ عدت میں گھر سے نکلنا حرام ہے، ہاں! اگر عدت موت کی ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، بغیر گھر سے نکلے کام نہ چل سکے گا یا نقصان پہنچے گا تو اس ضرورت سے اس کے لئے جاسکتی ہے اور رات اسی گھر میں گزارے اور بغیر ضرورت شرعیہ نکلنا حرام ہے، علامہ علاؤ الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

(ومعصلة موت تخرج في الحديدین، وتبيت) اکثر اللیل ( فی منزلها) لان نفقتها علیها، فتحناج للخروج۔

ترجمہ: ”اور جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو وہ بوقت ضرورت دن یا رات میں نکل سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ گھر میں گزارے، اس لئے کہ وہ اپنے اخراجات کی ذمہ دار خود ہے پس وہ اس کے لئے باہر نکلنے کی محتاج ہے“، (در مختار جلد

5 صفحہ 180، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ علاؤ الدین ابی بکر بن مسعود لکھتے ہیں:

وَأَمَّا الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا فَلَا تَخْرُجُ لِيَلًا، وَلَا بِاسِ بَانَ تَخْرُجُ نَهَارًا فِي حَوَائِجِهَا لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ لِأَنَّهَا لَا تَنْفِقُ لَهُمَا مِنَ الزَّوْجِ الْمَتَوَفَّى بِسَلِّ نَفَقَتِهَا عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ لِتَحْصِيلِ النِّفْقَةِ۔

ترجمہ: ”پس وفات پا گیا ہو جس عورت کا شوہر وہ رات میں نہ نکلے، اور اپنی ضروریات کیلئے دن کے وقت نکلنے میں حرج نہیں اس لئے کہ وہ محتاج ہے دن کے وقت نکلنے کی تاکہ اپنا نفقہ حاصل کرے، کیونکہ اس کا نفقہ اس کے متوفی شوہر پر نہیں بلکہ وہ خود اس پر ہے پس وہ باہر نکلنے کی محتاج ہے تاکہ اپنا نفقہ حاصل کرے،“ (بدائع الصنائع جلد 3 ص: 299، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، ہند)۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال النبی ﷺ: ”لا تسافر المرأة الآ مع ذی محرم، ولا یدخل علیہا رجل الآ ومعہا محرم“ فقال رجل: یا رسول اللہ ﷺ! انی اری مدان اخرج فی حیث کذا، وامراتی ترید الحج؟ فقال اخرج معہا۔“

ترجمہ: ”ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عورت سفر نہ کرے مگر اپنے کسی محرم کے ساتھ اور اس کے پاس گھر میں کوئی داخل نہ ہو مگر اس کے محرم کے ساتھ۔ ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں

فلاں لشکر کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میری بیوی حج کے لئے جانا چاہتی ہے  
 ؟ فرمایا کہ اس (اپنی بیوی) کے ساتھ جاؤ، (صحیح بخاری، رقم الحدیث  
 1862 المکتبۃ العصریہ، بیروت)۔

عورت کا بغیر محرم سفر کرنا جائز ہے، نیز عدت کے دنوں میں سفر بدرجہ اولیٰ نہیں  
 کیا جاسکتا، علامہ کمال الدین ابن الہمام لکھتے ہیں:

(مات عنہما زوجهما فی مصر فانہا لاتخرج حتی تعد ثم تخرج ان کان  
 لہما محرم)۔

ترجمہ: ”اگر اس کا شوہر شہر میں فوت ہو جائے پس وہ نہ نکلے یہاں تک کہ عدت مکمل  
 کرے پھر نکلے اگر اس کے ساتھ محرم ہو،“ (فتح القدر جلد 4، ص: 312,313  
 مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا، کجرات، ہند)۔

بظاہر اس مسئلے کی رو سے ایسا کوئی عذر قائم نہیں ہو رہا کہ محترمہ سفر کو نکلیں مذکورہ  
 بالا دلائل سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ بغیر محرم سفر کرنا شریعت کے خلاف ہے  
 ، اور رہی ویزا پالیسی! یہ دنیاوی معاملات میں شامل ہے۔ ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ  
 آپ اپنے بیٹے کو پاکستان بلائیں اور انقضائے عدت کے بعد آپ سفر کے لئے  
 روانہ ہو جائیں۔

ایام عدت یا مدت عدت کی پابندی شرعی ضرورت ہے جب کہ برطانیہ کے ویزے کا  
 حصول یا اس کی تجدید یا اس کی مدت میں اضافہ شرعی ضرورت نہیں ہے لہذا اس بنا پر ہم  
 از روئے شریعت تکمیل عدت سے پہلے سفر کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص

اپنی دنیوی ضرورتوں کے تحت حدود شرع سے تجاوز کرنا چاہتا ہے تو یہ اس شخص کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا مفتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں طے شدہ یا منصوص امور میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔

آپ نے سوال میں یہ تو لکھا ہے کہ 15 مارچ تک برطانیہ کے سابقہ امیگریشن قوانین بحال رہیں گے، لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، اگر آپ ویزے میں توسیع کی درخواست دیں تو آیا قانون میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟۔ اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ویزے کی مدت میں توسیع کی درخواست دی جاسکتی ہو تو پھر آپ کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے۔

عدت کے دوران بیوہ کو سسرال والے گھر سے نکالتے ہیں

### سوال: 132

میری بہن کے شوہر کا انتقال تقریباً دو مہینے پہلے ہوا ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے مگر اس کے سسرال والے اس پر بہت ظلم کرتے ہیں مثلاً مارنا، کھانا نہ دینا، اکثر ان کو گھر سے باہر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا تو اپنی ماں کے گھر پر مگر دو بچوں کو رکھتے ہیں اور تین بچے ان کے ساتھ بھیجتے ہیں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اس کو عدت کے دوران اپنے گھر لاسکتے ہیں یا نہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کیا کہتا ہے، اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، (رفیقہ بیڈ ربی ایریا کراچی)۔

## جواب:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ مَبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ط

ترجمہ: ”تم انہیں (عدت میں) ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود (بھی) نہ نکلیں مگر  
یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں“، (الطلاق: 1)۔

عورت کے لئے عدت اسی مکان میں واجب ہے جو بوقتِ وفات شوہر اس کی  
جائے سکونت ہے۔ علامہ علاء الدین حصکھی لکھتے ہیں:

(طلیقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت اليه فوراً) لوجوبه  
عليها (وتعدان) أي معتلة (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج، أو  
ينهدم المنزل أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك  
من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع اليه۔

ترجمہ: ”عورت کو طلاق دی گئی یا اس کا شوہر وفات پا گیا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں  
اور گئی ہوئی تھی، تو اسے چاہئے کہ فوراً اپنے گھر لوٹ آئے، کیونکہ یہ اس پر واجب  
ہے، بیوی عدتِ طلاق گزار رہی ہو یا عدتِ وفات، ان دونوں کو چاہئے کہ اسی گھر میں  
عدت گزاریں جہاں پر عدت گزارنا، ان پر واجب ہے، سوائے اس کے کہ انہیں (اس  
گھر سے) نکال دیا جائے یا مکان گر جائے یا اس کے گرنے کا خدشہ ہو یا اس کا مال  
تلف ہونے کا خطرہ ہو یا (مکان کرائے کا ہونے کی صورت میں) کرایہ ادا کرنے کی  
استطاعت نہ ہو، ان جیسی صورتوں (یا مجبوریوں) کی بناء پر اس کے لئے جائز ہے کہ

وہاں سے نکل کر اس سے قریب ترین جگہ پر عدت گزارنے، (ردالمحتار علی الدرالمختار جلد 5 ص: 180 دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

لہذا آپ کی معتدہ بہن پر شرعاً لازم ہے کہ وہ اپنی عدت وفات اسی مکان میں پوری کرے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے گھر سے نکال کر بٹھا دیتے ہیں ان کا یہ عمل غیر شرعی اور احکاماتِ الہیہ کی کھلی خلاف ورزی ہے، برادری و محلے کے شرفاء کو چاہئے کہ انہیں ان کے اس غیر شرعی عمل پر غیرت دلائیں اور سمجھائیں کہ معتدہ کو کم از کم عدت کے ایام اس گھر میں گزارنے دیں، آپ کی بہن جس مکان میں رہ رہی تھیں، اگر وہ ان کے شوہر کی ملکیت ہے تو اس پر ان کا اور ان کے بچوں کا حق وراثت بھی ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کی پرورش و نگہداشت شرعاً و قانوناً ماں کا حق ہے، لہذا سسرال والوں کا، ان کے بعض بچوں کو جدا کرنا قطع رحمی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن محمد بن جبیر بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يدخل الحنة قاطع"۔ قال ابن أبي عمير: قال سفیان: یعنی قاطع رحم۔

ترجمہ: محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ابن ابی عمر فرماتے ہیں: کہ سفیان نے فرمایا: یعنی رشتے توڑنے والا، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 1909، مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت)۔

صلہ رحمی سے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

عن أبي هريرة قال : أبصر الأقرع بن حابس النبي ﷺ وهو يقبل الحسن - قال ابن أبي عمير الحسين أو الحسن - فقال : انّ لى من الولد عشرة ، ما قبلت أحداً منهم فقال رسول الله ﷺ : إنّه من لا يرحم لا يرحم -

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اقرع بن حابس نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حسن کو چوم رہے ہیں (ابن ابی عمر فرماتے ہیں کہ حسین یا حسن تھے)۔ اس نے کہا: میرے دس بچے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیتا، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا“، (سنن ترمذی رقم الحدیث: 1911)۔

تاہم اگر سوال میں درج آپ کا بیان درست ہے، تو سسرال والوں کے شروا ذمیت سے بچانے کے لئے آپ اپنی بہن کو دورانِ عدت بھی عدت گزارنے کے لئے اپنے گھر لاسکتے ہیں۔

WWW.NAFSEISLAM.COM



## ﴿کتاب الرضاع﴾

مسئلہ رضاعت

سوال: 133

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اندر یہ مسئلہ کہ زید نے اپنے چچا عمر کے ساتھ (زینب) اپنی دادی کا دودھ پیا ہے اور عمر نے زید کے ساتھ اپنی بھابھی (والدہ زید) ہند کا دودھ پیا ہے، اب زید کا چھوٹا بھائی ہے حسن اور عمر کی بیٹی ہے فاطمہ، حسن، فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ظاہر فرمائیں کہ حسن کا عقد نکاح فاطمہ کے ساتھ از روئے شریعت مطہرہ جائز ہے یا کہ نہیں؟، (گلزار احمد، اورنگی ٹاؤن کراچی)۔

جواب:

صورت مسئلہ عنہا میں چونکہ عمر نے اپنی بھابھی یعنی زید اور حسن کی والدہ کا بھی دودھ پیا ہے، لہذا عمر، زید اور حسن کا چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی ہوا اور شریعت اسلامیہ کی رو سے، نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، وہ رضاعی یعنی دودھ کے رشتے میں بھی حرام ہوتے ہیں۔ چونکہ نسبی بھتیجی سے از روئے شرع نکاح حرام ہے، لہذا رضاعی بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اس تمہید کے بعد صورت مسئلہ میں عمر کی بیٹی مسماۃ فاطمہ کا عقد نکاح حسن کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ فاطمہ حسن کی رضاعی بھتیجی ہے۔

شک سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی

سوال: 134

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس سے پہلے میری ایک بیٹی ہے۔ میرے بھائی کے گھر میرے بیٹے کی پیدائش کے ایک ماہ بعد بیٹا پیدا ہوا۔ بھائی نے اپنے بیٹے کی ختنہ کروائی اور ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں، میں نے بھی شرکت کی اور بھی رشتہ داروہاں موجود تھے۔ اسی دوران بھائی کا بچہ رونے لگا، میں نے کہا اس کی امی کو جگاؤ تا کہ بچے کو دودھ پلائے، میرے بھائی کے سر نے کہا کہ اسے سونے دو (یعنی بچے کی ماں کو)۔ اور تم اپنا دودھ پلا دو، مجھے ان کی اس بات پر غصہ آیا اور میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے دودھ سے لگایا۔ اسی دوران فوراً ہی میری والدہ نے بچے کو میری گود سے چھین لیا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو۔ اب اس کے منہ میں دودھ کے قطرے گئے یا نہیں، مجھے علم نہیں، کیونکہ فوراً ہی میری والدہ نے بچے کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ اور اب میرے بھائی میری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہتے ہیں۔

نوٹ: جب میں نے اپنے بھائی کے لڑکے کو دودھ سے لگایا تو میری گود میں میرا اپنا بیٹا تھا۔ ان دونوں سے پہلے میری لڑکی ہے، جس کا رشتہ میرے بھائی مانگ رہے ہیں اپنے بھائی کو رشتہ دوں یا نہ دوں، اس کا حل بتادیں، (منیر بیگ، محمود 3/1199 شاہ فیصل کالونی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں چونکہ سائل کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا دودھ کا قطرہ بچے کے منہ میں گیا یا نہیں۔ اگر یہ بیان مبنی بر حقیقت ہے تو اس سے حرمت

رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور مذکورہ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ از روئے شرع جائز ہے۔  
 البتہ اگر از راہ احتیاط بچا جائے تو بہتر ہے، علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:  
 المعرلة اذا جعلت ثديها في فم الصبي ولا تعرف امص اللبن ام لا فحی العضاء لا تثبت  
 الحرمة بالشك وفي الاحتياط تثبت۔

ترجمہ: ”عورت جب اپنا پستان بچے کے منہ دے دے، اور اسے یہ پتہ چلے کہ بچے  
 نے دودھ چوسا یا نہیں، تو قضاءً تو حرمت (رضاعت) ثابت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی  
 تقوے اور احتیاط (شرعی) پر عمل کرنا چاہے تو اجتناب کرے امکان ثبوت موجود  
 ہے“، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 ص: 344 مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

الاشباه والنظائر ص: 34 میں ہے:

لمراد حملت المرأة حلمة ثديها في فم رضیعة ووقع الشك في وصول اللبن  
 الي جوفها لم تحرم لان في المانع شك الخ۔

ترجمہ: ”اگر دودھ پلانے والی عورت نے اپنا پستان دودھ پینے والے بچے کے منہ میں  
 دیا، لیکن اس بات میں شک واقع ہو گیا کہ دودھ بچے کے پیٹ تک پہنچا یا نہیں، تو  
 حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ شک سے حکم قطعی ثابت نہیں ہوتا“، واللہ اعلم  
 بالصواب۔

رضاعی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں

سوال: 135

میری والدہ نے میرے چچا کو میری بڑی بہن کے ساتھ دودھ پلایا ہے، کیا  
 میرا نکاح، میرے اس چچا کی لڑکی کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ میں اپنی بڑی بہن سے

نویں نمبر پر ہوں اور میرے چچا کی بیٹہ کی پانچویں نمبر پر ہے۔ شریعت کی رو سے مسئلہ کو تفصیل سے مدلل بیان فرمائیں، (محمد اکرم، بلاک F موسیٰ کالونی کراچی)۔

**جواب:**

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ط

ترجمہ: ”اور تمہاری مائیں، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں (تم پر حرام کی گئیں)“، (النساء، آیت 23)۔

۱۔ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ”يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة“۔

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں“۔  
(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3505، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، مکتبہ المکرمات)

۲۔ عن ابن عباس قال: قيل للنبي ﷺ: الا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: ”انها ابنة اخي من الرضاعة“۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے عرض کی گئی کہ آپ حضرت حمزہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟، ارشاد فرمایا: ”وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5100، مکتبۃ العصریہ، بیروت)۔

علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھتے ہیں:

”یحرم عملی الرضیع ابواہ من الرضاع واصلو لہما وفروعہما من النسب

والرضاع جميعاً حتى ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل او غيره قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت رضيعاً او ولد لهذا الرجل من غيره هذه المرأة قبل هذا الارضاع او بعده او ارضعت امرأة من لبنه رضيعاً فالكل اخوة الرضيع واخواته واولادهم اولاد اخوته واخواته واخوة الرجل عمه واخوته عمته واخوة المرضعة خاله واخوتها خالته وكذا في الجد والجدّة۔

ترجمہ: ”دودھ پینے والے پر اس کے رضاعی ماں باپ اور ان کے تمام اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں، خواہ وہ نسباً اصول و فروع ہوں یا رضاعاً حتیٰ کہ اگر دودھ پلانے والی کے ہاں اس کے موجودہ شوہر سے یا کسی اور شوہر سے کوئی اولاد ہو، خواہ دودھ پلانے سے پہلے یا دودھ پلانے کے بعد ہو یا وہ کسی اور بچے کو دودھ پلائے یا دودھ پلانے والی کے شوہر کی کسی اور بیوی سے اولاد ہو، خواہ اس کو دودھ پلانے سے پہلے یا بعد، تو یہ سب دودھ پینے والے کے بھائی اور بہن اور ان کی اولاد اس کے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد ہیں، دودھ پلانے والی کے شوہر کا بھائی اس کا چچا ہے اور اس کی بہن اس کی پھوپھی ہے اور دودھ پلانے والی کا بھائی اس کا ماموں ہے اور بہن اس کی خالہ ہے، اسی طرح دادا، دادی اور نانا، نانی کے رشتے ہیں“، (فتاویٰ عالمگیری، جلد اول، ص: 343 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

صورت مسئلہ میں چونکہ آپ کا چچا، آپ کا رضاعی بھائی ہے اور اس کی لڑکی، آپ کی رضاعی بہتیجی ہے، لہذا اس سے آپ کا نکاح شرعی طور پر جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

رضاعت کا ثبوت مرضعہ کے اقرار سے کوہوں سے ہوگا

میرا نام قاسمہ ہے میرے چار بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں، میری بہن جوشن آراء کے دو بیٹے اور چھ بیٹیاں ہیں۔ میری بیٹی کہکشاں کی پیدائش کے بعد میری طبیعت خراب رہی اور مجھے یہ شک ہے کہ شاید اس دوران میری بچی نے میری مرحومہ بہن جوشن آراء کا دودھ پیا ہو، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے اور نہ میری مرحومہ بہن نے کبھی بتایا اور نہ ہی کوئی رشتے دار اس کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی میری بیٹی نے میری بہن کا دودھ پیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کہکشاں کی شادی اپنی مرحومہ بہن جوشن آراء کے بڑے بیٹے اعجاز کے ساتھ کر دوں۔ جناب سے قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ درکار ہے کہ کیا کہکشاں اور اعجاز کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟، (قاسمہ، مکان نمبر R-191 سیکٹر 5-A/15 ناتھ کراچی)۔

**جواب:**

رضاعت کا ثبوت دودھ پلانے والی کے اقرار سے ہوگا یا گواہان شرعیہ سے ہوگا۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: الرضاع يظہر بما حمد امرين أحدهما الاقرار والثاني البينة كذا في البدائع۔

ترجمہ: ”رضاعت دو طریقوں سے ثابت ہوگی، ایک یہ ہے کہ مرضعہ (دودھ پلانے والی) خود اقرار کرے، دوسرا یہ کہ اس پر شرعی گواہ ہوں“، (فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 347، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

چونکہ اقرار اور گواہی دونوں یہاں مفقود ہیں اور محض شک و شبہ پایا جاتا ہے کہ جوشن آراء مرحومہ نے دودھ پلایا ہے یا نہیں؟، فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

لا تثبت الحرمة بالشك۔

ترجمہ: ”شک سے حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی“، (فتاویٰ عالمگیری، جلد 1 صفحہ 344 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، لیکن اگر احتیاط پر عمل نہ کیا اور نکاح کر دیا تو نکاح کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

مسئلہ رضاعت

سوال: 137

ہندہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے دو سال مکمل بچے کو دودھ پلایا اس کے بعد تقریباً ایک سال نو ماہ بعد زہنب کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، اور اس بچی کو لاکر ہندہ کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کو دودھ پلا دو کہ شرط پوری ہو جائے جب ہندہ سے پوچھا کہ بچی کو دودھ پلاتے وقت کیا چھاتی میں دودھ تھا تو ہندہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے بچے کو تقریباً ایک سال نو ماہ پہلے دودھ چھڑا دیا تھا اب چھاتی میں کیا دودھ ہوگا۔

دریافت یہ کرنا ہے کہ رضاعت ثابت ہے یا نہیں؟۔

(مولانا ضیاء الرحمن صابری، جامع مسجد ابراہیم بلاک 15 فیڈرل بی ایریا، کراچی)

جواب:

مذکورہ استفتاء میں ہندہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو دو سال مکمل دودھ پلایا پھر ایک سال نو ماہ مزید گزرنے کے بعد اس نے زہنب کی بچی کو دودھ پلایا لیکن اسے یہ یقین نہیں کہ پستان میں دودھ تھا یا نہیں؟، چونکہ اس بات کا یقین نہیں پایا جاتا کہ دودھ کا قطرہ بچے کے منہ میں گیا یا نہیں، تو رضاعت و حرمت کا

حکم نہیں دیا جاسکتا۔

درمختار میں ہے:

فلو التغم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه ام لا لم يحرم، لان في المانع شكاً۔ ”ولو الحمية“۔

ترجمہ: پس اگر دودھ پلانے والی عورت نے پستان بچے کے منہ میں دیا، لیکن یہ پتا نہیں چلا کہ آیا دودھ بچے کے حلق میں گیا یا نہیں، تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس لئے کہ شک سے حکم قطعی ثابت نہیں ہوتا۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

و في ”الفتح“: لو أدخلت الحلمة في فم الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك۔

ترجمہ: ”اور فتح القدير میں ہے: اگر دودھ پلانے والی ماں نے بچے کے منہ میں پستان داخل کیا اور شک ہو گیا کہ دودھ پیا ہے یا نہیں، شک سے حرمت ثابت نہیں ہوتی،“ (ردالمحتار علی الدر المختار، جلد 4 صفحہ 296، دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

الممرأة اذا جعلت ثديها في فم الصبي ولا تعرف أمص اللبن أم لا ففي القضاء لا تثبت الحرمة بالشك وفي الاحتياط تثبت۔

ترجمہ: ”عورت جب اپنا پستان بچے کے منہ میں دے دے، اور اسے یہ پتہ نہ چلے کہ بچے نے دودھ چوسا یا نہیں، تو قضاءً تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی تقویٰ اور احتیاط (شرعی) پر عمل کرنا چاہے تو اجتناب کرے (کیونکہ امکان ثبوت موجود ہے)“، (عالمگیری، جلد اول ص: 344 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)



## ﴿کتاب الفرائض﴾

والدین کی نافرمانی کا وبال اور اولاد کو عاق کرنے کی شرعی حیثیت

سوال : 138

میری بڑی بیٹی میری اور اپنی ماں کی نافرمان ہے، لہذا میں اسے عاق کرنا ہوں اور اس کے کسی معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کسی لین دین کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، عاق کرنے کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:

1- سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کیا خصوصاً چھوٹے بھائی سے ہر روز لڑنا جھگڑنا اور ناخونوں سے چہرہ زخمی کرنا ایک معمول بنالیا تھا جو شخص دخل دیتا گالیاں کھاتا۔

2- شادی کے بعد ساس، سر، شوہر اور اس کے اہل خانہ سے ہر وقت ہنگامہ آرائی کرنا۔ چھوٹوں اور بڑوں کا لحاظ کئے بغیر انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرنا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ بن گیا۔ باوجود اس حقیقت کے ہم سب لوگوں نے بارہا مداخلت کر کے معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کی مگر کوئی بات کارگر نہیں ہوئی آخر کار سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اور بچی رکھ لی۔ چار ماہ بعد لڑکے کی پیدائش ہوئی جو اس کے ساتھ ہے۔

3- اس کے بعد نانا اور نانی کو گالیاں اور کوسنے دینے شروع کئے ہر وقت ان کی قبروں میں کیڑے پڑنے کی بددعا دینی شروع کی اور ساتھ یہ کہ جو بھی نازیبا الفاظ کہہ سکتی تھی روزانہ فون کر کے کہتی تھی یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے گھر آنا جانا ترک کر دیا۔ میرے سسر اپنی بیٹی سے ملنے اچانک 28 دسمبر 2000ء کو آئے اور چند منٹوں

بعد واپس جانے لگے پیر پھسلنے سے گرے اور کوہے کی ہڈی ٹوٹ گئی چونکہ ذیابیطس کے مریض ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے 30 دسمبر 2000ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

4۔ میری والدہ یعنی دادی کو خبیث بڑھیا کہتی تھی والدہ نے سن لیا اسی وقت میرے یہاں سے چلی گئیں اور تقریباً دس سال سے میرے گھر نہیں آئیں ہم لوگوں کے اصرار پر ہمیشہ خاموشی سے بات کونال دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے میری والدہ کسی قیمت پر میرے گھر آنے پر راضی نہیں ہوتیں۔

5۔ میری بیوی کی والدہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہر روز صدمے سے دوچار ہوتی رہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ذیابیطس کی مریض ہو کر انتہائی کمزور ہو گئیں اور شوگر متعدد اوقات میں 580 سے لے کر 605 تک پہنچ جاتی ہے جس کی بنا پر میری بیوی کی ماں کو بار بار کونسنے دیتی ہے کہ اتنی شوگر ہونے کے باوجود یہ بڑھیا مرتی نہیں ہے کہ مجھے صبر آجائے۔

6۔ اپنے بیٹے پر بھی بے انتہا ظلم و تشدد کرتی تھی اس دوران کئی مرتبہ افراد خانہ کو مداخلت کرنی پڑی تھی جس کے صلہ میں ناشائستہ اور انتہائی تکالیف دہ الفاظ سننے کو ملتے تھے، کئی مرتبہ تو اپنی ماں کو دھکا دیا دو مرتبہ ماں دھکے سے زمین پر گرمی کافی چوٹیں آئیں اور کندھا کافی زخمی ہوا جو کہ شوگر کی مریضہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک پوری طرح کام نہیں کرتا۔ کئی مرتبہ یہ سوچا گیا کہ انسداد بے رحمی والوں کو اطلاع دی جائے مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔

7۔ سب سے آخر میں میری باری بھی آگئی۔ چونکہ میں دل کا مریض ہوں اور روڈ ایکسپڈینٹ ہونے کی وجہ سے ضعیفی میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، بیٹی کی غلط بات کی وجہ سے اور باپ ہونے کے ناطے ٹوک دیتا تھا۔ پہلے تو صرف زبان سے مجھے برا بھلا کہتی تھی اس کے بعد میری خرابی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو مرتبہ میری پٹائی کر دی۔ پہلی بار تو ناخنوں سے میرا چہرہ زخمی کیا۔ میرا چشمہ توڑ دیا اور گریبان پھاڑ دیا اتفاقاً میرا چھوٹا داماد آگیا اور اس نے مجھے بچایا۔ دوسری مرتبہ چپلوں سے میری پٹائی کی اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکا۔ آج جب میں تفصیلات لکھ رہا تھا اسی دوران بلا وجہ گھر کی ملازمہ کی پٹائی کر دی اور دھمکی دی کہ میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گی، شریف اور غریب ملازمہ ہم لوگوں کے سمجھانے کی وجہ سے خاموش رہی۔ اب جبکہ حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے ہیں اس لئے مجھے یہ عاق نامہ تفصیل کے ساتھ لکھنا پڑا، اسی عاق نامہ کے ذریعہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کو یہ وصیت کرنا ہوں کہ میرے مرنے پر میری بڑی بیٹی اور اس کے بیٹے کو میرے جنازے میں اور میرے لئے کسی بھی ایصالِ ثواب کی مجلس / محفل میں ہرگز ہرگز شریک نہ ہونے دیا جائے۔ جو شخص / اشخاص حالات کی تفصیل کو جانتے ہوئے، میری بیٹی اور نواسے کو شرکت سے نہ روکے گا تو وہ شخص یا اشخاص اللہ رب العزت کے سامنے روز قیامت میرا مجرم تصور کیا جائے گا۔ تحریر لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔

☆ اوپر دی ہوئی تفصیلات کی روشنی میں اس تمام سلسلے کی شرعی نوعیت کیا ہے؟۔

☆ کیا اس کو اوپر دی ہوئی وجوہات کی بناء پر ہر قسم کی وراثت سے محروم کیا جاسکتا ہے؟۔ (سید فاروق احمد، A.333 بلاک نمبر 5 گلشن اقبال، کراچی)۔

### جواب:

والدین کی نافرمانی اور ان کی ایذا رسانی انتہائی شقاوت، بد نصیبی، دنیا میں رسوائی اور عاقبت کی بربادی کا باعث ہے حدیث مبارک میں ہے: عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ: ایک نوجوان قریب المرگ ہے، اسے کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو پا رہا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں، وہ پڑھتا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا تو اب موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری ہونے سے کیا چیز مانع ہوگئی ہے؟، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ اٹھ کر وہاں تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ کے ہمراہ گئے، یہاں تک کہ ہم سب اس قریب المرگ نوجوان کے پاس پہنچ گئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نوجوان! کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھو، اس نے عرض کیا: میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پا رہا، حضور ﷺ نے دریافت فرمایا: کیوں؟، اس نے عرض کیا: اپنی ماں کی نافرمانی کے سبب، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا وہ زندہ ہے؟، اس نے عرض کیا: ہاں وہ زندہ ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کی ماں کو بلاؤ، وہ حاضر ہوئیں، آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟، اس نے عرض کیا: جی

ہاں! آپ نے فرمایا: بتاؤ، اگر آگ بھڑکادی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اس کی شفاعت نہیں کرو گی تو اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس نے عرض کیا: تب میں ضرور اس کی شفاعت کروں گی، تو حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کو گواہ بنا کر کہو اور ہم بھی گواہ بنتے ہیں کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو، اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ ﷺ) میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، پھر آپ ﷺ نے اس نوجوان سے فرمایا: کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھو، تو اس نے (آسانی سے) کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اس نے میری بیبہ سے اس نوجوان کو نارنجہنم سے بچالیا۔

یہ روایت شرح الصدور، طبرانی اور بیہقی کی شعب الایمان میں مذکور ہے اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی ”زواجر“ میں بھی مذکور ہے۔

علامہ ابن حجر نے اس واقعے کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں، کہ اس نوجوان کا نام علقمہ تھا، یہ صوم و صلوة کا پابند، نہایت عبادت گزار اور صدقات دینے کا عادی تھا، یہ جب شدید بیمار پڑ گئے تو ان کی بیوی نے رسول اللہ ﷺ کو ان کی تشویشناک حالت کی اطلاع دی کہ میرے شوہر نزع کی حالت میں ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ بلال، عمار اور صہیب رضی اللہ عنہم کو بھیجا، وہ آئے اور جب اسے حالت نزع میں پایا تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے، لیکن کلمہ پاک اس کی زبان پر جاری نہیں ہو پا رہا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اس کی اطلاع دی۔

آپ نے دریافت فرمایا:

کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے، آپ کو بتایا گیا کہ اس کی بوڑھی ماں زندہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ آپ چل کر آسکتی ہوں تو فیہا ورنہ اپنے گھر پر میرا انتظار کریں، جب اس خاتون کے پاس رسول اللہ ﷺ کا قاصد آیا اور اسے صورت حال کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا: آپ پر میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی، وہ لاکھی پر ٹیک لگائے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا، حضور ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اے علقمہ کی ماں: مجھے سب کچھ سچ بتاؤ، اگر جھوٹ بولو گی تو میرے پاس وحی ربانی آجائے گی، پھر فرمایا ”تمہارے بیٹے کے معاملات کیسے تھے“۔؟ اس نے عرض کیا! یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم)، وہ بکثرت نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقات دیتا تھا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا:

تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا؟، اس نے عرض کیا: میں اس سے ناراض ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا! کیوں؟ اس نے عرض کیا: یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! علقمہ کی ماں کی ناراضی کے سبب اس کی زبان پر (حالت نزع میں) کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو پا رہا۔

پھر آپ ﷺ نے حکم فرمایا: بلال! جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ ان سے کیا کریں گے۔؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ تو علقمہ کی ماں نے عرض کیا! یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا

برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ام علقمہ: اللہ کا عذاب تو اس سے بدرجہا زیادہ سخت اور دائمی ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ جل شانہ اسے معاف فرمادے تو تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اس بوڑھی ماں نے عرض کیا! یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم): میں اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام موجود مسلمانوں کو گواہ بنا کر اقرار کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو چکی ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے بلال سے فرمایا کہ جا کر دیکھو اب علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ام علقمہ نے اس کو دل سے معاف نہ کیا ہو بلکہ میری دل داری کی خاطر کہہ دیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو انہوں نے اندر سے علقمہ کو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں کو بتایا کہ علقمہ کی ماں کی ناراضی کے سبب اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو پارہا تھا، اب ماں کے راضی ہونے پر جاری ہو گیا، پھر اسی دن علقمہ کا وصال ہو گیا، پھر حضور ﷺ نے اس کے غسل و کفن کا حکم فرمایا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی تدفین کے موقع پر تشریف لائے اور اس کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر فرمایا: اے گروہ مہاجرین و انصار! جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دی، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سوائے اس کے کہ وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر اس کے بعد ماں سے حسن سلوک کرے اور ہمیشہ ماں کی رضا کا طلب گار رہے کیونکہ ماں کی رضا میں اللہ کی رضا، اور ماں کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، (فتاویٰ قاسمیہ جلد

اول ص ۲۸۲ تا ۲۸۳ مرتبہ مخدوم عبدالواحد سیوستانی)۔

اس تفصیلی روایت سے آپ بہ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کرنا شریعت کی نظر میں کتنا سنگین جرم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ سب صادق تھے، عادل تھے، متقی تھے، مومن مخلص تھے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں کسی سے کبھی بھی بہ تقاضائے بشری کوئی خطا سرزد ہی نہ ہوئی ہو، بلکہ ہمارا ایمان و اعتقاد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کبھی کسی سے بہ تقاضائے بشری کوئی خطا سرزد ہو بھی گئی ہو تو فیضانِ صحبتِ نبوت سے ان کو تو بہ نصوح و توبہ صادقہ کی توفیق نصیب ہو جاتی تھی، اور حضور ﷺ کا کسی مومن صادق کی نماز جنازہ پڑھا لینا اور اس کیلئے دعائے مغفرت کرنا اس کی مغفرت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے!

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ: ”آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کے باطن کو صاف کریں گے اور آپ ان کیلئے دعا کیجئے، بیشک آپ کی دعا ان کیلئے باعثِ تسکین ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے“، (التوبہ: ۱۰۳)۔

والدین کی نافرمانی کے بارے میں مزید احادیث ملاحظہ کیجئے:

۱۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا



تین آدمیوں کا اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل، ماں باپ کا نافرمان، احسان  
جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا، (کتاب السنۃ)۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا  
کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، (ناحق کسی کو  
قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، (صحیح بخاری)۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا  
تین شخصوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، (ایک) ماں باپ کا  
نافرمان، (دوسرا) عادی شرابی اور (تیسرا) کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا  
)، (نسائی رقم الحدیث: )۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے  
تین بار فرمایا: ”اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی (یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا)، عرض  
کیا گیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم)! کون شخص؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ  
شخص جو اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر  
(ان کی خدمت و اطاعت کر کے) جنت میں داخلے کا حق دار نہ بنے، (صحیح مسلم رقم  
الحدیث: )۔

۵۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا  
:والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضی رب کی ناراضی کا سبب  
ہے، (ترمذی رقم الحدیث: )۔

ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْلُ لَّهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ط

ترجمہ: انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں، (بنی اسرائیل: ۲۳)۔

قرآن و سنت کے ان واضح ارشادات کی روشنی میں، آپ کی بیٹی کو دنیا و عاقبت  
برباد کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے اور ماں  
باپ کا اطاعت گزار بن کر رہنا چاہیے۔

ہر عاقل و بالغ شخص اپنے ہر قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ شریعت کی رو سے بھی اور قانون  
کی نظر میں بھی، لہذا آپ پر اپنی بالغ اولاد کے کسی فعل یا لین دین کی ذمہ داری عائد  
نہیں ہوتی۔

جہاں تک اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کا سوال ہے تو اس کا اختیار شرعاً والدین کو  
نہیں ہے، کیونکہ وراثت یا ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو کوئی شخص چھوڑ کر مر جاتا ہے  
اس متروکہ مال میں مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال پر وصیت کے  
ذریعے تصرف کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ وہ وفات سے پہلے اپنی زندگی میں ایسی  
وصیت کر چکا ہو، لیکن وصیت میں بھی یہ شرط ہے کہ وارث کے حق میں وہ معتبر و مؤثر  
نہیں ہوتی۔ باقی متروکہ مال پر وراثت کے احکام قرآن کا ثابت شدہ قانون ہے اور  
اس کے رد کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی ایک وارث  
کے حق میں بھی وصیت کو اس لئے ناقابل اعتبار اور غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے کہ اس  
طرح اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظام وراثت میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی

کو اپنے جنازے میں شرکت سے منع کرنے کی وصیت کر لے تو یہ قابل عمل نہیں ہے اور باطل ہے، کیونکہ جنازہ میت کیلئے دعائے مغفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جسے شریعت نے مشروع کیا ہے۔ حکم شرع سے روکنا معصیت ہے اور معصیت میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ لہذا میت کے ورثاء پر لازم نہیں ہے کہ وہ ایسی وصیت پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں ہے: لا طاعة للمخلوق فى معصية الله۔ ترجمہ: کسی ایسا مر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آئے۔

اسی طرح کسی کیلئے دعائے مغفرت یا ایصال ثواب کوئی بھی کر سکتا ہے، بلکہ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے آپ پر حقوق ہیں: مثلاً آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ شخص وفات پا چکا ہے اور اب اس سے معافی مانگنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کی تلافی کی ایک ممکنہ صورت یہ ہے کہ آپ اس کیلئے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن مجید کی رو سے ”مناع لسخیر“ (یعنی خیر سے روکنے والا) ہونا ایک مذموم صفت ہے، دنیوی زندگی میں ہر ایک کیلئے دعائے ہدایت کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے اور ہر زندہ یا فوت شدہ مومن کے لئے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں بلکہ قرآن میں اسے اہل ایمان کے وصفِ کمال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، البتہ جس کے بارے میں قرآن ظاہری سے یقین ہو کہ اس کی موت کفر پر واقع ہوئی ہے، تو اس کیلئے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔

والدین کو ہمیشہ اپنی گمراہ اولاد کیلئے دعائے ہدایت کرنی چاہیے اور ان کیلئے بددعا ہرگز

نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے: اپنی اولاد کیلئے بددعا نہ کرو۔  
 اولاد میں سے کسی کو اپنے ماں باپ سے ان کی زندگی میں یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں  
 ہے کہ اپنے مال یا جائیداد یا وراثت میں سے ہمیں حصہ دو۔ ہر عاقل و بالغ زندہ شخص  
 کو اپنے مال پر شرعی حدود میں تصرف کرنے کا پورا پورا حق ہے۔ اور جب تک کوئی شخص  
 زندہ ہے، اس کا مال اس کی ملکیت ہے، ترکہ یا وراثت نہیں ہے کہ کوئی وارث بن کر  
 اس میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کرے۔

مسئلہ وراثت و ہبہ

### سوال: 139

ہم پانچ بہن بھائی ہیں، والدہ حیات ہیں، والد کے انتقال کو 4 سال گزر  
 چکے ہیں، تین بہنیں کنواری ہیں، ایک والدہ اور دو بھائی ہیں۔ والد کی چھوڑی ہوئی  
 جائیداد میں ایک مکان ہے، ایک دکان ہے، اور ایک گاڑی ہے۔ والد اپنی زندگی میں  
 والدہ اور تینوں بہنوں کے نام ایک ایک پلاٹ اسی اسی گز کالے کر دے چکے ہیں، یہ  
 پلاٹ ان لوگوں کے نام پر ہیں۔ بتائیے کہ والد کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور والد  
 مرحوم نے اپنی زندگی میں ہماری والدہ اور تینوں بہنوں کے نام جو پلاٹ لئے تھے، ان  
 کا کیا حکم ہے، کیا وہ بھی ترکہ میں شامل ہیں، (محمد جاوید ولد خورشید احمد مکان نمبر  
 1672/15 دنگیر کالونی، کراچی)۔

### جواب:

صورت مسئلہ میں (ا) اگر سائل کا بیان درست ہے۔

(ب) اور وراثاء یہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو مصارف تجھینر و تکفین وضع کرنے، قرض کی ادائیگی (اگر کوئی ہو) اور زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تر کے کی حد تک نفاذ وصیت کے بعد (اگر متوفی نے کی ہو)۔ تر کہ حسب ذیل شرح سے تقسیم ہوگا۔ تر کے کے کل آٹھ حصے ہوں گے اور ہر ایک وارث کا حصہ مندرجہ ذیل ہوگا۔

بیوہ:  $1/8$ ، دو بیٹے:  $4/8$ ، (فی کس  $2/8$ )، تین بیٹیاں:  $3/8$  (فی کس  $1/8$ )۔ شرعاً کوئی اپنی زندگی میں اولاد کو حصہ دینا چاہے تو اسے سب کو مساوی حصہ دینا چاہیے، لیکن اگر مساوات کا لحاظ کئے بغیر کسی کو دے دیا تو وہ شرعاً ناپسندیدہ امر ہونے کے باوجود نافذ ہو جائے گا بلکہ متوفی نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں جو پلاٹ حصہ کر کے اس کا مالک بنا دیا تھا، وہ بلا کراہت جائز ہے، اور دونوں بیٹوں کو محروم رکھ کر اپنی بیٹیوں کو جو پلاٹ حصہ کر کے ان کا مالک بنا دیا تھا، وہ بھی اب ان کی مالک ہیں، اگر چہ متوفی کا یہ عمل شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے۔

مسئلہ حصہ

### سوال: 140

میری گزارش ہے کہ میرے شوہر حیات میں اور میری چار بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے ہیں جس مکان میں رہتی ہوں یہ میرا اپنا ہے یعنی مجھے یہ اپنے میکے سے ملا اور اس کی تعمیر میں کچھ حصہ میرے شوہر کا بھی شامل ہے۔ میرے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں لیکن میں ان کی کمائی میں سے کچھ نہیں لیتی میں یہ مکان بیچنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اولاد کو ان کا حصہ دے دوں اور اپنا حصہ رکھ لوں تاکہ ہماری گزر بسر ہو سکے میں

دوسرا گھر خرید سکتی ہوں یا رقم بینک میں بھی رکھ سکتی ہوں شرعی طور پر یہ تقسیم کس طرح سے ہوگی۔

مکان: 120: گز ☆ لڑکیاں: چار بڑے کے: دو، ہم میاں بیوی  
(ولی النساء، R.21/15A2 بفرزون، نارٹھ کراچی)

### جواب:

صورت مسئولہ میں محترمہ ولی النساء صاحبہ اپنے مکان کی مالکہ ہیں، جب چاہیں اسے فروخت کر سکتی ہیں، شوہر نے مکان پر جو رقم خرچ کی ہے، اگر انہوں نے وہ رقم بطور فضل و احسان کے دی تھی تو عند اللہ ماجور ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے وہ رقم قرض کے طور پر خرچ کی تھی تو اسے واپس لے سکتے ہیں اور انہیں اس کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔

مکان بیچنے کے بعد محترمہ اپنے لئے جتنی رقم پس انداز کر کے رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں، وہ کل رقم بھی رکھ سکتی ہیں، یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا حصہ رکھنا چاہیں رکھ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنے مال پر شرعاً اور قانوناً تصرف کا پورا حق حاصل ہے۔ رقم کا جو حصہ وہ اولاد میں تقسیم کرنا چاہیں، یہ بطور وراثت کے نہیں ہوگا، کیونکہ ترکہ اور وراثت وہ مال کہلاتا ہے، جو آدمی کی وفات کے پیچھے رہ جائے۔ زندگی میں کوئی اپنی اولاد کے درمیان کچھ مال تقسیم کرنا چاہے تو وہ ہبہ کہلاتا ہے، اور ہبہ کے لئے شرعاً مستحسن اور پسندیدہ امر یہ ہے کہ تمام اولاد دیٹیوں اور بیٹیوں کو مساوی حصہ دیا جائے۔ لہذا کر مثل حظ النثیین“ (النساء: 11) یعنی یہ کہ بیٹی کو بیٹی کے مقابلے میں دُگنا حصہ ملتا ہے

اس اصول کا اطلاق ترکے پر ہوتا ہے، ہبہ پر نہیں ہوتا۔  
مرحومہ بیوی کے ترکے کا مسئلہ

### سوال: 141

محترمی درج ذیل مسئلہ میں قرآن و احادیث نبوی کی روشنی میں آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مسمیٰ غفران ولد عبدالسبحان کی شادی بتاریخ 16 فروری 2002ء حیدرآباد میں جناب مقبول احمد صاحب کی صاحبزادی سے انجام پائی۔ مذکورہ خاتون کئی ماہ کی علالت کے بعد مورخہ 16 مارچ 2002ء کو لیاقت نیشنل ہسپتال میں انتقال کر گئیں۔ انتقال کے بعد مقبول احمد صاحب یعنی خاتون مذکورہ کے والد، میت کراچی میں اپنے گھر لے گئے اور آخری رسوم وہیں پر ادا کی گئیں۔ انتقال کے وقت مرحومہ غفران کی زوجیت میں تھیں۔ مرحومہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اسی طرح مہر کی رقم بھی ادا نہیں ہوئی ہے۔

### سوال: 142

(1) لڑکی کو جہیز میں ملنے والے سامان کا وارث اور حق دار کون ہے؟ (2) مہر کی رقم کے متعلق کیا ہدایت ہے، یعنی اب مہر کی رقم کن افراد کو ادا کی جائے؟ (3) مزید کوئی کام از روئے شریعت محمدیہ کرنا ضروری ہو تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ (4) مرحومہ کے ورثاء کون کون لوگ ہوں گے اور وراثت میں کتنے کتنے حصے کے حق دار ہوں گے؟ (محمد صالحین)۔

## جواب:

صورت مسئلہ میں مستثنیٰ محمد غفران نے اگر اپنی بیوی کا مہر ان کی زندگی میں ادا نہیں کیا ہے، تو یہ دین مہر اس کے شوہر کے ذمہ قرض ہے، اس کی ادائیگی ان پر لازم ہے اور یہ وفات شدہ بیوی کے ترکے میں شامل ہے، اسی طرح جہیز کا مال بھی مرحومہ کا ترکہ ہے۔ چونکہ مرحومہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لئے ان کے کل ترکے میں سے (بشمول مہر کی رقم و جہیز کے) ان کے شوہر کو نصف ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ“

ترجمہ: ”اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ کر وفات پا جائیں، تو اس میں سے تمہیں آدھا مال ملے گا، اگر ان (بیویوں) کی اولاد نہیں ہے“، (النساء: 12)۔ بقیہ نصف ترکہ مرحومہ کے دوسرے ورثاء کو شریعت کے مقررہ تناسب کے مطابق ملے گا، چونکہ سوال میں دوسرے وارثوں کا ذکر نہیں ہے، اس لئے ان کے حصے درج نہیں کئے جاسکتے۔ ورثاء کا تعین مفتی کا کام نہیں ہے، ان کے شرعی حصص کو بیان کرنا مفتی کا کام ہے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

تقسیم ترکہ

(دو بیوی، تین بیٹے، تین بیٹیاں)

سوال: 143

مرحوم مالدار شخص تھے، مرحوم کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے بچے نہیں ہیں اور دوسری بیوی کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ برائے مہربانی ترکہ کس طرح تقسیم



ہوگا، تحریر فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، (بی بی روحانہ، ایف بی ایریا، کراچی)۔

**جواب:**

نوٹ: تقسیم وراثت سے پہلے ایک جامع اصول سمجھ لیجئے کہ کسی بھی شخص کی وفات کے وقت جو مال و جائیداد اس کی ملک میں ہوتا ہے، وہ اس کا ورثہ، ترکہ یا مال متروکہ کہلاتا ہے۔ ترکے کی وراثت میں تقسیم سے قبل، اس میں تین قسم کے مصارف کا منہا کرنا ضروری ہے، (1) مصارف تجہیز و تکفین و تدفین، (2) متوفی کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی، (3) اگر متوفی نے اپنی وفات سے پہلے کوئی وصیت کی ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک تہائی ترکے کی حد تک اس کی تنفیذ، اس کے بعد، اگر وراثت وہی ہے جو سوال میں مذکور ہے، تو ترکہ وراثت میں حسب ذیل تناسب سے تقسیم ہوگا:

مرحوم کی ہر بیوی کا حصہ =  $9/144$ ، دو بیویوں کا مجموعی حصہ =  $18/144$

ہر بیٹے کا حصہ =  $28/144$ ،

تین بیٹیوں کا مجموعی حصہ =  $84/144$

ہر بیٹی کا حصہ =  $14/144$

تین بیٹیوں کا مجموعی حصہ =  $42/144$

مسئلہ وراثت

**سوال: 144**

میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے وراثت میں تین افراد یعنی مرحوم کی

بیوہ (میری والدہ) ایک بیٹا (یعنی میں) ایک بیٹی (یعنی میری بہن) ہیں، والدہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، بیٹی شادی شدہ ہے۔ مرحوم کا کل ترکہ 60000 روپے ہے۔ برائے مہربانی شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارے درمیان یہ کس طرح تقسیم ہوگا؟، (عثمان فاروقی، R-14/9-ڈیجیٹل سوسائٹی، کراچی)۔

### جواب:

صورتِ مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے اور وراثہ یہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور تقسیم سے قبل کے لازمی حقوق کی ادائیگی (یعنی مصارفِ تجہیز و تکفین و تدفین، متوفی کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو اس کی ادائیگی اور اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی تھی، تو تہائی ترکے کی حد تک اس کی تنفیذ) کے بعد بقیہ ترکہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ بیوہ کو 3 حصے، بیٹی کو 7 حصے اور بیٹے کو 14 حصے ملیں گے۔

تقسیم وراثت کا مطالبہ کرنا

### سوال: 145

میرا نام ریحانہ پروین بنت محمد ہاشم خان ہے اور والدہ کا نام انوری بیگم ہے۔ مسئلہ: میرے والد صاحب حیات ہیں، انہوں نے اپنی جائیداد فروخت کر دی ہے، جس سے ان کو کل رقم 1 کروڑ 80 لاکھ ملے ہیں، اس رقم کی تقسیم قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح ہونی چاہئے، ہم چھ بہنیں اور تین بھائی ہیں۔ والدہ بھی حیات ہیں اور ہمارے والد صاحب کا کاروبار بھی ٹھیک ہے۔

نوٹ: ہم سب بہنیں اچھے حالات میں نہیں ہیں۔ ہم اپنا حصہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔

ہمیں اپنا حصہ لینا چاہئے۔ اور کس حساب سے لینا چاہئے۔ اور ہمارے والد صاحب کا اس مسئلے میں کیا حصہ بنتا ہے۔ اور ہمارے والد صاحب کو اس رقم کو ہم سب بہن بھائیوں میں کس طرح تقسیم کرنی چاہئے۔ مہربانی فرما کر (ہم 6 بہنوں کا حق کیا ہونا چاہئے۔) بیان فرمائیں، (ریحانہ پروین، مکان نمبر 472 بلاک 2 ایف بی ایریا، عزیز آباد، کراچی)۔

### جواب:

کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیم وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔

نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارک ہے:

حدثني النعمان بن بشير أن أمة بنت رباحة سألت أباہ بعض الموهوبة من ماله لابنہا، فالتوى بها سنة، ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تُشہد رسول اللہ ﷺ علي ما وهبت لابني، فاخذ ابني بيدي، وانا يومئذ غلام، فأتاني رسول اللہ ﷺ فقال: يا رسول اللہ ﷺ! إن أم هذاه بنت رباحة، أعجبها ان أشهدك علي الذي وهبت لابنہا، فقال رسول اللہ ﷺ: "يا بشير! ألك ولدٌ سوى هذا؟" قال: نعم، فقال: اكلهم وهبت له مثل هذا؟

قال: لا - قال: فلا تشهنذني إذن، فأنى لا اشهدُ عليّ جوراً“.

ترجمہ: ”نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت بنت رواحہ نے ان کے والد سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ ان کے بیٹے (حضرت نعمان) کو ہبہ کر دیں، میرے والد نے ایک سال تک یہ معاملہ ملتوی رکھا، پھر انھیں اس کا خیال آیا، میری والدہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم میرے بیٹے کے ہبہ پر رسول اللہ ﷺ کو کواہ نہ کر لو، میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے۔ اس وقت میں نو عمر لڑکا تھا، انہوں نے کہا! یا رسول اللہ ﷺ! اس کی ماں بنت رواحہ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اس چیز پر کواہ کر لوں، جو میں نے اپنے اس لڑکے کو ہبہ کی ہے، رسول اللہ ﷺ نے پوچھا، اے بشیر! کیا اس کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟، انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے سب کو اتنا ہی مال ہبہ کیا ہے؟، انہوں نے کہا نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: پھر مجھے کواہ نہ بناؤ، کیونکہ میں ظلم پر کواہ نہیں بنوں گا۔“

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: 4104، جلد: 7، مطبوعہ نزار مصطفیٰ الباز الرياض، مکة المكرمة)

مذکورہ حدیث سے واضح ہوا کہ جب کوئی شخص اپنی حیات میں اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرے تو تمام اولاد کے درمیان مساوات کو روارکھے بنا ہم باپ کی زندگی میں اولاد کو اس سے یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت تقسیم کر دیں، کیونکہ ابھی تو ماشاء اللہ وہ حیات ہیں، اور ان کا مال ترکہ تو ان کے انتقال پر بنے گا، اُس وقت جو

شرعی ورثاء موجود ہوں گے، وہ حسب احکام شریعت اپنے اپنے حصے کے حق دار ہوں گے۔

بیوہ کی شادی سے اس کا حق وراثت باطل نہیں ہوتا

**سوال: 146**

گزارش یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی عدت میں نے پوری کر لی میرے والدین میری دوسری شادی کرانا چاہتے ہیں، میرے مرحوم شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی میرا ترکہ اس وقت برقرار ہے کہ نہیں صلاح الدین کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی اور فقط میں ہی ایک بیوہ تھی وہ لا ولد فوت ہوئے تھے، (شاہدہ صلاح الدین R-913 بلاک نمبر 5 افیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

**جواب:**

بر تقدیر صدق سائلہ و صورت مسئلہ مسماۃ شاہدہ صلاح الدین اپنے متوفی شوہر، جو کہ لا ولد فوت ہوئے، کے ترکے میں سے ایک چوتھائی کی حق دار ہے، عدت وفات گزرنے کے بعد وہ کہیں بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اور شادی کی صورت میں بھی اس کا حق وراثت باطل نہیں ہوگا بلکہ قائم رہے گا، اسی طرح اگر شوہر نے اپنی زندگی میں اس کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو تقسیم ترکہ سے پہلے وہ اپنا دین مہر، قرض کی دیگر واجب الادا قیوم کی طرح وصولی کی حق دار ہوگی۔

اصول وراثت یہ ہے کہ کسی مورث کے انتقال کے بعد جب ایک مرتبہ کسی وارث کا حق وراثت شرعاً ثابت ہو جائے، خواہ جملہ ترکہ سے بذریعہ تقسیم الگ کر کے اس پر

اس وارث کا قبضہ ہو چکا ہو یا نہ ہو، وہ حق باطل نہیں ہوتا۔ حق وراثت کے تعین اور اثبات کے بعد خدانخواستہ اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کا حق باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جسے علم المیراث میں مناخہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

دفتر کے واجبات میں ورثاء کا حق

سوال: 147

شریعت کے مطابق قوم/بقایا جات کی ادائیگی کے لئے فتویٰ درکا ہے۔  
مسئلہ: میرے شوہر محمد اجمل صبح (مرحوم) کراچی ٹانوی تعلیمی بورڈ آفس میں بحیثیت کلرک ملازمت کرتے تھے، دوران ملازمت ان کے انتقال کے بعد جو واجبات ادارے کی جانب سے ملنے ہیں، ان پر مرحوم کی اہلیہ (میرا)، دونوں لڑکوں اور ان کی والدہ کا کتنا حق ہے اور شرعی طور پر اس رقم کی تقسیم کس طرح ہوگی۔

تفصیل:

میری شادی ۱۹۹۶ء میں ہوئی تھی اور شوہر کا انتقال ہوئے ایک سال ہو گیا ہے۔  
میرے دو بیٹے ہیں جن کی عمریں پانچ سال اور ڈھائی سال ہیں۔ میری ساس بیوہ ہیں سرگورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں تھے ان کا ریٹائرمنٹ اور میری شادی کے بعد انتقال ہوا تھا، اس کے علاوہ میرے شوہر کی دو شادی شدہ بہنیں ہیں جو اپنی ماں (میری ساس) کے ساتھ رہتی ہیں ایک پینک آفیسر اور دوسری انشورنس کا کام کرتی ہے، ہماری رہائش ایک لکٹری فلیٹ میں تھی سر کے انتقال کے بعد تمام پینک پینلنس

، فلیٹ اور کمرشل پلاٹ تمام ساس کے نام ہے۔ دوسری بیٹی کی شادی سے قبل مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دیا تھا، میرے شوہر انا پرست تھے گھر سے بے دخلی کے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہمارا آپ کی دولت اور پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ شادی کے کچھ ماہ بعد آفس میں (Nomination Form) میں مجھے اور میری ساس کو آدھے آدھے کا وارث بنایا تھا جب حالات بگڑے اور گھر سے نکالا گیا تو میرے شوہر نے کہا تھا کہ میں تمہارا اور دونوں بچوں کا نام ڈلوادوں گا لیکن قدرت نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا، شوہر کے سوئم والے دن میری ساس اور زندوں نے دور اندیشی کے پیش نظر مجھے اور دونوں بچوں کو میری بیوہ ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے بھیج دیا اور اب تک کوئی تعلق نہیں رکھا۔ میرے بچوں کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں میں ہی ان کی واحد کفیل ہوں۔ ادارے سے انشورنس کی کچھ رقم ملی تھی جس کا نصف حصہ میری ساس نے بغیر ہچکچاہٹ کے خود آفس سے لے لیا اب فنڈ کی کچھ رقم ملنی ہے (فنڈ سے پہلے ہی میرے شوہر نے نند کی شادی کے لئے ایک لاکھ روپے نکالے تھے) اس وجہ سے وہ بھی کم ہے۔ لہذا موجودہ حالات کی روشنی میں مجھے شرعی لحاظ سے فتویٰ درکار ہے تا کہ میں ادارے سے مزید ملنے والی رقم خالصتاً بچوں کے بہتر مستقبل کے لئے لے سکوں۔ برائے مہربانی مجھے شرعی فتویٰ دیں جس سے واضح ہو کہ شوہر کی وراثت میں بیوہ اور یتیم بچوں کا کیا حق ہے۔ آپ کا دیا ہوا مشورہ میرے لئے قابل احترام ہوگا، (بیوہ محمد اجمل صبح الدین، کراچی)۔

## جواب:

صورت مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائلہ وبعد ادا یگی حقوق متقدمہ علی الارث آپ کے شوہر کا ترکہ حسب ذیل طریقے سے تقسیم ہوگا۔ ترکہ کے کل 48 حصے ہوں گے اور ان میں سے ان کی والدہ کو آٹھ حصے، بیوہ کو 6 حصے اور ہر ایک بیٹے کو فی کس سترہ سترہ حصے (یعنی دونوں کو مجموعی طور پر 34 حصے) ملیں گے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ سے آپ کے مرحوم شوہر کے ورثاء کو جو رقم ملنی ہے، اگر وہ ان کا حق ہے تو انہوں نے آپ کے اور اپنی والدہ کے نام جو نصف نصف کی وصیت کی ہے وہ باطل ہے اور شرعاً غیر مؤثر ہے، کیونکہ آپ دونوں مرحوم کے وارث ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: "لا وصیة لوارث" یعنی وارث کے حق میں وصیت (بالفرض اگر کسی نے کی بھی ہو تو) معتبر نہیں ہے اور ترکہ کی تقسیم احکام شریعت کے مطابق ہوگی۔ اور اگر وہ رقم آپ کے شوہر کا حق نہیں ہے بلکہ مذکورہ ادارے کی جانب سے تبرع اور فضل و احسان ہے تو پھر وہ اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق جسے چاہیں، اسے دے سکتے ہیں۔

آپ کے سر صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے نام جو جائیداد ہبہ کر دی تھی، اگر وہ ہبہ مکمل ہو گیا تھا اور اس پر آپ کی ساس کا قبضہ ہو گیا تھا، تو وہ مؤثر ہے اور وہ اس کی مالکہ ہیں، اور جب قضائے الہی سے آپ کی ساس کا انتقال ہو جائے گا، تو ان کا ترکہ ان کے اس وقت موجود ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، لیکن ان کے کسی ایک بیٹے کے بھی ہوتے ہوئے آپ کے بچے ان کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ کیونکہ "علم المیراث" کا ایک مسلمہ



ضابطہ ہے کہ: ”قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے“ لہذا دادی کو چاہئے کہ اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کو کچھ نہ کچھ ہبہ کر دیں یا اتنی مالیت کا ہبہ کر دیں جتنا بصورتِ حیات ان بچوں کے والد کو ان کے ترکے میں سے ملتا یا ان کیلئے کچھ وصیت کر جائیں، یہ صلہ رحمی اور اجر کی بات ہوگی، اور اگر دادی کو یہ توفیق نہ ہو تو بعد والوں کیلئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

ترجمہ: ”اور جب (ترکہ کی) تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتے دار، یتیم اور محتاج آجائیں تو انہیں (بھی) اس میں سے کچھ دے دو اور (اگر اپنے طبعی بخل کی وجہ سے کچھ دے نہ سکو تو) کم از کم ان سے اچھی بات کہو“، (النساء: 8)۔

تقسیم ترکہ یا ہبہ؟

## سوال: 148

شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں درج ذیل مسئلے کا حل عنایت فرمائیں۔ میرا نام حسینب الدین بن وحید الدین ہے میں لیاقت آباد کا رہنے والا ہوں، میرے پاس ساڑھے سات لاکھ روپے کی مالیت ہے، میرے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے جو کہ ان بچوں کی سگی ماں نہیں ہے اور بچے ان کو ماں مانتے بھی نہیں، اب میں ان بیویوں کو اپنی زندگی میں اپنی اولاد پر اور بیوی پر تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ۲۔ اس مال میں سب کے حصے کیا بنتے ہیں؟

۳۔ کیا میں اپنی بیوی کو اس کے حصے سے زیادہ دے سکتا ہوں یا اس حصے کے بدلے میں کوئی گھر دے سکتا ہوں؟ بیٹو او تو جروا، (حسیب الدین بن وحید الدین، لیاقت آباد نمبر ۴)۔

**جواب:**

آپ اپنے مال میں سے اپنے لئے جتنا حصہ رکھنا چاہیں، رکھ سکتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی حسبِ منشا جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، نقد بھی دے سکتے ہیں، مکان بھی اس کے نام کر سکتے ہیں، لیکن یہ تقسیم ترکہ یا تقسیمِ وراثت نہیں کہلائے گا، بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا۔ کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیمِ وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

اولاد کو ہبہ کرنا

**سوال: 149**

میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیمِ وراثت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میری دو بیویاں تھیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، پہلی بیوی سے میری اولاد ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں (ان میں سے بڑی بیٹی بیوہ ہے) اور دوسری بیوی سے

ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، یہ بیٹی مریضہ ہے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ:

۱۔ کسی ایک اولاد کو مکان فروخت کر سکتا ہوں۔

۲۔ کسی ایک اولاد کو مکان گفٹ (تحفہ) کر سکتا ہوں، جس کا میں جائز حق سمجھتا ہوں۔

۳۔ زندگی میں حصہ لگانا چاہوں تو تقسیم کس طرح ہوگی۔ اپنے لیے کتنی رقم مختص کر سکتا ہوں، اولاد میں کسی (بڑے بیٹے) نے میری اور میرے زیر کفالت افراد کی بہت زیادہ خدمت اور خرچ کیا ہو تو کیا میں کل لاگت میں سے اس کے حصہ کے علاوہ زیادہ رقم دے سکتا ہوں۔

۴۔ کوئی اولاد مجھ سے اپنے حصہ کا تقاضہ کرنے کا حق رکھتی ہے۔

۵۔ مکان کی تعمیر (خصوصاً بالائی منزل میں بڑے بیٹے اور بڑی بیٹی (بیوہ) کا پیسہ لگا ہوا ہے، کل لاگت میں سے صرف اتنی ہی رقم مہیا ہو کر تقسیم ہوگی یا مہنگائی کے لحاظ سے کچھ زیادہ رقم مہیا کر سکتے ہیں۔

۶۔ بندہ کی وفات کے بعد تقسیم کار کیا ہوتا ہے؟

(شمس الاسلام، 18/171-R فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کل یا بعض حصہ اپنی اولاد کو ہبہ کرنا چاہے تو شریعت کا حکم ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں سب کو برابر دے، اگر کسی ایک کو زیادہ دے گا تو یہ نافرمان ہو جائے گا لیکن شرعاً یہ ناپسندیدہ امر ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اسے ”جور“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی

بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

اسی باب کی حدیث نمبر 4073 میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد منقول ہے  
، آپ ﷺ نے فرمایا:

اَكَل بَسْمِيكَ قَدْ نَحَلْت مِثْلَ مَا نَحَلْت النِّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ اِبِسْرُكُ اِنْ يَكُونُوا  
الْمِيكَ فِي الْبِرِّ سِوَاآءٍ قَالَ بَلِيْ قَالَ فَلَا اِذَا۔

ترجمہ: ”کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو اتنا دیا ہے جتنا نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا  
نہیں! آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے  
میں تمہاری سب اولاد برابر ہو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا پھر  
ایسا مت کرو، (یعنی اولاد کو ہبہ کرتے وقت ان میں تفاوت نہ کرو)۔“ اب رہا  
یہ سوال کہ آیا کسی خاص وجہ سے باپ اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ میں زیادہ  
حصہ دے سکتا ہے؟۔ خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک کی دین داری دوسروں  
سے زیادہ ہو، کوئی ایک والدین کا خدمت گزار اور وفادار زیادہ ہو یا کوئی ایک  
معذوری یا کسی اور سبب سے معاشی اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں کمتر ہو۔  
فتاویٰ عالمگیری، جلد ۴، صفحہ ۳۹۱ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ میں ہے:

ولو وهب رجل شيئاً لاولاده في الصحة وأراد تفضيل بعض علي البعض  
في ذلك لارواية لهنا في الاصل عن أصحابنا وروى عن أبي حنيفة رحمه  
الله تعالى أنه لا بأس به اذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وان كانا  
سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى انه لا بأس به اذا

لم يقصد به الاضرار وان قصد به الاضرار سوى بينهم يعطى الابنة مثل  
 ما يعطى لالابن وعلمه الفتوى هكذا في فتاوى قاضيخان وهو المختار  
 كذافي الظهيرية -

ترجمہ: اگر کوئی اپنی صحت کے عالم میں اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرے اور اس میں بعض کو  
 بعض پر ترجیح دینا چاہے، ہمارے اصحاب سے اصل (یعنی مبسوط) میں اس کی بابت  
 کوئی روایت منقول نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ  
 اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ سبب ترجیح اس کی دین داری میں فضیلت ہو، اور اگر  
 دونوں (یا سب) دین داری میں برابر ہوں تو پھر کسی کو ترجیح دینا مکروہ ہے۔ اور المعالی  
 نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب کہ  
 مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہے تو پھر سب کو مساوی  
 دے، بیٹی کو وہی دے جو بیٹے کو دیتا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے اور فتاویٰ قاضی خان میں  
 بھی اسی طرح ہے اور یہی مختار ہے اور ظہیر یہ میں اسی طرح ہے“

فتاویٰ عالمگیری کی اس عبارت کی رو سے جب ہبہ کرتے وقت دین داری اور تقویٰ  
 کی بناء پر اولاد میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جاسکتی ہے تو کسی کی معذوری یا معاشی  
 بد حالی (مثلاً کثیر الاولاد اور قلیل الوسائل ہے) کی بنا پر بھی ترجیح کی گنجائش ہونی  
 چاہیے اور اسی طرح اولاد میں سے جو ماں باپ کا بہت زیادہ فرماں بردار اور خدمت  
 گزار ہے یا جو خود بھی ماں باپ پر زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کیلئے بھی ترجیح کی گنجائش  
 ہونی چاہیے۔ لیکن محض جنس یا صنف کی بناء پر ترجیح بہر حال مکروہ ہے۔

ہاں اولاد کو مکان فروخت کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن اولاد میں مساوات ضروری ہے کیونکہ یہ ہبہ ہے، تقسیم وراثت نہیں۔ اپنے لئے جتنا حصہ یا مال چاہے وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے۔ جب وہ کل مال اپنی ملکیت اور تصرف میں رکھ سکتا ہے تو بعض حصے پر کوئی تحدید کیسے کر سکتا ہے۔

والدین کی زندگی میں اولاد کو اپنا حصہ وراثت طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کسی بیٹے کا پیسہ آپ کے مکان میں خرچ ہوا ہے تو آپ اسے واپس دے سکتے ہیں۔ ترکہ یا وراثت انسان کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، پیشگی طور پر کے معلوم ہے کہ کون پہلے مرے گا اور کون بعد میں اور کون کس کا وارث بنے گا؟۔ ترکے یا ورثے کا سوال کسی کی موت کے بعد اٹھتا ہے، نہ کہ اس کی زندگی میں۔

بندے کی وفات کے بعد اس کے ترکے میں سب سے پہلے اس کی تجھیز و تکفین کے مصارف کئے جائیں گے، اس کے بعد اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو بقیہ ترکے کے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی تک مؤثر اور نافذ العمل ہوگی، بشرطیکہ وہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت معتبر نہیں ہے۔ اگر وصیت کی مقدار بقیہ ترکے کی ایک تہائی سے زیادہ ہے، تو تہائی سے زیادہ مقدار کا نافذ بالغ و رثاء کی مرضی پر موقوف ہے، وہ سب یا ان میں سے بعض رضا کارانہ طور پر اس زائد مقدار و وصیت کو پورا کرنا چاہیں تو اپنے حصے میں سے کر سکتے ہیں، مگر نابالغ و رثاء کے حصے میں سے کسی بھی

صورت میں نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر ورثاء میت کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ یا مالی صدقہ اس ترکہ میں سے کرنا چاہیں تو بالغ ورثاء صرف اپنے حصے سے کر سکتے ہیں، نابالغ ورثاء کے حصے پر انہیں اس تصرف کی بھی اجازت نہیں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

مسئلہ وراثت

سوال: 150

میرے ابو صاحبِ جائیداد تھے، جس میں مکان، فلیٹ اور دکان ہیں۔ فلیٹ اور دکان میرے والد نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر دیئے تھے، مکان والدہ کے نام ہے مکان میں اس وقت چار بھائی رہائش پذیر ہیں، ایک اپنا حصہ لے کر الگ ہو گیا ہے، فلیٹ اور دکان کا کرایہ آتا ہے۔ میری شادی کے گیارہ ماہ بعد والد کا انتقال ہو گیا، اس وقت میرے پانچوں بھائی پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے میرا حصہ دے دیں تاکہ میں الگ گھر لے لوں، امی نے کہا کہ میں تمہارا حصہ ضرور دوں گی لیکن ابھی نہیں دے سکتی، ابھی مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، سب لڑکے پڑھ رہے ہیں، پھر ان کی شادیاں کرنا ہے، ”لیکن تمہارا حصہ ضرور دوں گی“۔ حصہ نہ ملنے پر میرے اور میرے شوہر کے آئے دن جھگڑے ہونے لگے اس مسئلے کو دس سال ہو گئے ہیں۔ میری امی بہت بیمار رہتی ہیں اور میری ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے حصے کا ذکر کروں، وہ نہیں دے سکتیں اور پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، برائے مہربانی اس مسئلے کا حل بتائیں اور میرے،

میرے شوہر اور میری امی کے لئے کیا حکم ہے؟، (عالیہ، کراچی)۔

**جواب:**

آپ کے والد مرحوم نے اپنی زندگی میں جو دکان اور فلیٹ اپنے بیٹوں کے نام کر دیئے تھے اور اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو یہ ”ہبہ“ کہلاتا ہے، رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے بموجب اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو ہبہ کرنا چاہے، تو اسے ساری اولاد یہاں تک کہ بیٹوں اور بیٹیوں میں مساوات برتنی چاہئے، آپ کے والد کا آپ کو اس مساویانہ رویے سے محروم رکھنا، اگرچہ ارشاد نبوی کے خلاف ہے، لیکن بہر حال قانوناً یہ ہبہ نافذ ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ آپ کے والد نے اپنی وفات کے وقت اگر کوئی ترکہ چھوڑا ہو، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں، تو اس میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے تمام ضروری امور کی ادائیگی کے بعد اگر ان کے ورثاء وہی ہیں جو سوال میں مذکور ہیں تو آپ کا حصہ 7/88، آپ کی والدہ یعنی مرحوم کی زوجہ کا 11/88 اور پانچ بیٹوں کا 70/88 (فی کس 14/88) بنتا ہے۔ آپ کی تحریر کے مطابق مکان چونکہ آپ کی والدہ کی ملکیت ہے، اس لئے جب تک وہ حیات ہیں، اس میں سے آپ کو حصہ وراثت کے مطالبے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وراثت کسی کی وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں اولاد کو جو کچھ دیا جائے، وہ ”ہبہ“ کہلاتا ہے، اور اس میں اولاد کے درمیان مساوات کا حضور ﷺ نے حکم فرمایا ہے، اور عدم مساوات کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ کے شوہر کا آپ کے والدین کی جائیداد یا وراثت میں کوئی حصہ



نہیں ہے، اس لئے ان کاڑنا جھگڑنا یا مطالبہ ”خلاف شرع“ ہے۔

مناخہ

سوال: 151

جناب مفتی صاحب! ہم آپ سے ایک مسئلہ کا حل قرآن و سنت یعنی شرعی نقطہ نظر سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ صابرہ کا انتقال 1996ء میں ہوا، ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں ایک گھر نارٹھ کراچی میں ہے اور مرحومہ نے ایک پلاٹ U.P نارٹھ کراچی میں اپنے نام پر خریدا تھا اور H.B.F.C سے لون لے کر اس مکان کی تعمیر کروائی تھی اور انہوں نے اپنی کمپنیاں ڈال کر اس مکان کا لون اتارا پھر وہ مکان فروخت کر کے والدہ مرحومہ نے مذکورہ گھر اپنے نام پر خریدا۔ وفات کے بعد والدہ مرحومہ نے پیچھے وارثوں میں شوہر عبدالرحمن رائٹور جن کا بعد میں 2000ء میں انتقال ہو گیا اور پھر والدہ مرحومہ کے وارثوں میں صرف (سگی حقیقی) تین بیٹیاں (1) فرزانہ (2) شمینہ (3) شائستہ۔ تین بیٹے (1) بشیر رائٹور (2) حنیف رائٹور (3) عرفان رائٹور۔ علاوہ ازیں والد مرحوم کی پہلی بیوی (جن کا انتقال ہو چکا ہے) کی اولادیں ہیں، جن میں دو بیٹیاں (1) محمودہ (2) فیروزہ، دو بیٹے (1) عارف رائٹور (2) حشمت رائٹور اور حقیقین چھوڑے ہیں۔

برائے مہربانی ہمیں یہ بتایا جائے کہ مرحومہ والدہ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سوتیلے بچوں کا بھی حصہ ہو گا یا نہیں اور کن کن وارثوں کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جامع فتویٰ ہمیں جاری کیا جائے، (محمد بشیر رائٹور، L-1159 مسلم

ٹاؤن نارٹھ کراچی)۔

## جواب:

صورت مسئلہ میں اگر سائل کا بیان درست ہے اور وراثہ یہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور تقسیم سے قبل کے لازمی حقوق کی ادائیگی (یعنی مصارف تجہیز و تکفین و تدفین، متوفی کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو اس کی ادائیگی اور اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی تھی، تو تہائی ترکے کی حد تک اس کی تحفید) کے بعد بقیہ ترکہ 180 حصص میں، تمام وراثہ میں درج ذیل طریقے پر منقسم ہوگا۔

۱۔ بشیر راٹھور 36 حصے ۲۔ حنیف راٹھور 36 حصے

۳۔ عرفان راٹھور 36 حصے ۴۔ فرزانه 18 حصے

۵۔ شمینہ 18 حصے ۶۔ شائستہ 18 حصے

۷۔ حشمت راٹھور 6 حصے ۸۔ عارف راٹھور 6 حصے

۹۔ محمودہ 3 حصے ۱۰۔ فیروزہ 3 حصے

صاحبہ مرحومہ کا ترکہ ان کے شوہر عبدالرحمن راٹھور اور ان کے تینوں بیٹے (۱)

بشیر راٹھور (۲) حنیف راٹھور (۳) عرفان راٹھور اور تینوں بیٹیاں (۱) فرزانه

(۲) شمینہ (۳) شائستہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔ پھر مرحوم عبدالرحمن راٹھور کو جو

ترکہ ان کی بیوی صاحبہ مرحومہ سے ملا، وہ ان کی تمام اولاد یعنی پانچوں بیٹے اور پانچوں

بیٹیاں (جن میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ان کی پہلی بیوی سے ہیں) کے درمیان تقسیم

ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔

غیر مسلم ہونے کے شک کی بنا پر وراثت میں حصے کا حکم

سوال: 152

دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ میرے چچا کراچی سے 1970ء میں انگلینڈ آئے تھے، جب میں 1986ء میں انگلینڈ آیا تو میرے چچا نے اپنی فیملی سے متعارف کرایا اور مجھے بتایا کہ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے چار بچوں کے نام بھی اسلامی ہیں۔ ان کا انتقال 1998ء میں ہوا، مگر ان کے انتقال سے پہلے ان کی فیملی کی علیحدگی ہو گئی تھی (طلاق نہیں دی تھی) ان کی وفات کے بعد ہم نے لسٹر مسجد سے نکاح نامہ لیا۔ بچوں نے اپنا نام اسلامی رکھا ہوا ہے جو ان کے والد نے انہیں دیا تھا۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر بچے ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرتے تو کیا وہ ترکے کے وارث ہوں گے؟۔ (آفتاب صدیقی، Old 32 Ayres Road

(Trafford Manchester

جواب:

جیسا کہ آپ نے سوال میں تحریر کیا ہے کہ آپ کے چچا نے نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو شرف باسلام کیا اور پھر اس سے نکاح کیا، اور نکاح بھی شرعی طریقے سے ہوا، مسجد میں عالم دین سے ان کا نکاح کرایا اور ان کے بچوں کے نام بھی اب تک اسلامی ہیں۔ بد عملی اور بے عملی تو بد قسمتی سے بہت سے مسلمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ آپ کے چچا کی اولاد مرید ہو چکی ہے، دین اسلام کو ترک کر کے عیسائیت یا

کسی اور مذہب کو عقیدتاً قبول کر چکی ہے، وہ اپنے وفات شدہ باپ کے وارث ہوں گے اور اس کے ترکے میں سے حصہ پائیں گے، اگر مرحوم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی تو وہ بھی وراثت میں اپنا حصہ پائے گی۔

تقسیم ترکہ

### سوال: 153

میں والدین کی جائیداد کی تقسیم کیلئے شریعت محمدی ﷺ کے مطابق آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، میری والدہ مرحومہ عائشہ بی بی زوجہ شیخ عبدالرب مرحوم کا مکان R-1650 بلاک 18 فیڈرل بی ایریا، کراچی، جس کی کل ملکیت مبلغ انیس لاکھ - / 19,00000 طے پائی ہے، کاغذات کی تکمیل کیلئے مبلغ پچاس ہزار - / 50,000 طے پائے ہیں، اصل رقم مبلغ ساڑھے اٹھارہ لاکھ - / 1850,000 ہے۔ مجھے شرعاً بتایا جائے کہ بہن اور بھائیوں کا حصہ اس رقم میں سے کتنا ہے، ہم تین بہنیں اور تین بھائی ہیں۔

تین بھائی  
تین بہنیں

۱۔ رضیہ ناز زہبہ محمد ہارون خان	۱۔ شیخ عبدالرزاق ولد شیخ
۲۔ رقیہ بیگم زہبہ محمد جاوید	عبدالرب (مرحوم)
۳۔ پروین کوثر زہبہ انور خان	۲۔ شیخ سلیم اختر ولد شیخ
	عبدالرب (مرحوم)
	۳۔ شیخ مختار احمد ولد شیخ
	عبدالرب (مرحوم)

(شیخ عبدالرزاق، فیڈرل بی ایریا، کراچی)

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک صحیفہ وصیت اگر متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے نو (9) حصے ہوں گے، ان میں سے ہر بیٹے کو دو حصے (یعنی 2/9) اور ہر بیٹی کو ایک حصہ (یعنی 1/9) ملے گا، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

تقسیم ترکہ

**سوال: 154**

عرض یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کا مکان میرے بھائیوں نے سوا، بیس لاکھ روپے میں فروخت کیا، سو لاکھ روپے اخراجات میں صرف ہوئے باقی 19 لاکھ روپے

بچے۔ ورثاء میں ہم تین بھائی اور پانچ بہنیں اور ہماری والدہ ہیں۔ والد صاحب پر کوئی قرضہ نہیں اور نہ ہی کوئی وصیت کی ہے۔ برائے مہربانی شرعی طور پر اس ترکے کی تقسیم بیان فرمائیں، (زاہدہ بانو، مکان نمبر A-168 سیکٹر 5-15/A، بفر زون، نارٹھ کراچی)۔

### جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر کوئی متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 88 حصے ہوں گے، ان میں سے بیوہ کو 11/88، تین بیٹوں کو 42/88 (یعنی فی کس 14/88) اور 5 بیٹیوں کو 35/88 (یعنی فی کس 7/88) حصے ملیں گے۔

ترکہ میں نواسے اور نواسیوں کو حصہ ملے گا یا نہیں؟

### سوال: 155

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کی ذیل میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ورثاء میں مرحوم کا ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک بیٹی کا انتقال مرحوم کے انتقال سے پہلے ہو چکا ہے تو جو ترکہ مذکورہ شخص چھوڑ گیا ہے، اس میں سے فوت شدہ بیٹی کی اولاد (نواسے، نواسیاں) کو بھی کچھ حصہ ملے گا یا صرف مرحوم کے ایک بیٹے اور تین بیٹیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، (عزیز الحق لائبریری، کراچی)۔

## جواب:

بر تقدیر صدق سائل وبصورت انحصار وراثت در مذکورین بعد ادائیگی حقوق  
متقدمہ علی الارث مرحوم کا ترکہ اس کے موجودہ وراثت (یعنی ایک بیٹے اور تین بیٹیوں  
کے درمیان تقسیم ہوگا، ترکہ کل پانچ حصوں میں منقسم ہوگا، ان میں سے بیٹے کو دو حصے  
اور ہر بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، متوفی کی جس بیٹی کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا  
تھا، قانون وراثت کے ”اصول مجب“ (یعنی یہ کہ قریب کا وارث دور کے  
وارث کو محروم کر دیتا ہے یا اس کے حصے میں کمی واقع ہو جاتی ہے) کے تحت اسے ترکہ  
میں سے حصہ نہیں ملے گا، لہذا اس کی اولاد محروم رہے گی۔ قرآن مجید نے اسے واجب  
کا درجہ تو نہیں دیا، مگر تبرع، فضل و احسان اور استحباب کا درجہ ضرور دیا ہے کہ ایسے یتیم  
، مسکین اور قرابت دار، جواز روئے احکام وراثت ترکہ میں حصے دار نہیں ہیں، اگر  
تقسیم ترکہ کے وقت آجائیں تو ان کی دلداری کے لئے انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دینا  
چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا  
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَسْخَسُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَرَ كُفْرًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

ترجمہ: ”اور جب (ترکہ کی) تقسیم کے موقع پر (غیر وارث) رشتے دار اور یتیم اور محتاج  
آجائیں تو انہیں (بھی) اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو ۝ اور وہ  
لوگ (جو وراثت میں حصے دار ہیں یہ سوچ کر) ڈریں کہ اگر وہ اپنی موت کے وقت

اپنے پیچھے کمزور (بے سہارا) اولاد چھوڑ گئے ہوتے تو انہیں (ان کے بارے میں کیا کیا) خدشات ہوتے، تو انہیں چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں، (النساء: 8-9)۔

لہذا اگر متوفی کے ورثاء سب کے سب یا بعض خداترس افراد آمادہ ہوں تو اپنی مرحومہ بہن کی اولاد کو تقسیم ترکہ کے وقت کچھ نہ کچھ حسب توفیق دے دیں، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تقسیم ترکہ

سوال: 156

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ حاجی ہاشم صاحب کا انتقال 1971ء میں ہوا، جن کا ترکہ ایک مکان تھا، مرحوم کی زوجہ حاجیانی حوالبائی کا انتقال 1996ء میں ہوا ان کے ترکہ میں بھی ایک مکان ہے۔ مرحومین (حاجی ہاشم صاحب اور حاجیانی حوالبائی) کے ورثاء میں ان کی اولاد پانچ بیٹے اور ایک بیٹی ہیں، ایک بیٹے کا انتقال 1994ء میں ہوا (اس کی کوئی اولاد نہیں ہے) اب ورثاء میں چار بیٹے اور ایک بیٹی موجود ہیں۔ از روئے شریعت ان تمام ورثاء کے حصوں کی وضاحت فرمائیں۔ (عبدالقادر، S-B/2، بلاک 13/D-2 گلشن اقبال)

جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی



قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر کوئی متوفی نے کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 9 حصے ہوں گے، ہر بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔

تقسیم ترکہ

سوال: 157

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ متوفی غلام رسول کی تقریباً تین یا چار لاکھ کی جائیداد ہے ورثاء میں دو بیٹے، چار بیٹیاں، دو بیویاں (ایک بیوی غلام بی کا انتقال شوہر کے انتقال کے بعد ہوا، جس سے مرحوم کا ایک بیٹا مشتاق ہے) ہیں۔ اس وقت ورثاء میں مرحوم کی ایک بیوہ نیازی بیگم اور اس کی چار بیٹیاں، ایک بیٹا اور پہلی بیوی (جس کا انتقال ہو گیا) کا ایک بیٹا ہے۔ اب اس جائیداد میں سے کس طرح حصے ہوں گے، جن کا انتقال ہو گیا کیا ان کے بھی حصے ہوں گے؟، (نیازی بیگم، C/47 سیکٹر M-5 نازیہ اسکوائر ناتھ کراچی)۔

جواب:

اگر سائلہ کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 128 حصوں پر منقسم ہوگا، جس میں سے زوجہ (نیازی بیگم) کو 8 حصے، زوجہ متوفیہ غلام بی بی کے

بیٹے کو 36 حصے، دوسرے بیٹے کو 28 حصے اور چار بیٹیوں کو 56 حصے (فی کس 14 حصے)  
(میں گے۔

لے پالک بیٹی کا شرعاً کوئی حصہ نہیں

**سوال: 158**

ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے ورثاء میں دو بیویاں ہیں، پہلی بیوی کا نام  
صغره بیگم اور دوسری کا نام نسیم بیگم ہے۔ مرحوم کی پہلی بیوی بے اولاد ہیں، جبکہ دوسری  
بیوی سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں، جو کہ سب شادی شدہ ہیں، مرحوم کی پہلی بیوی کی  
ایک لے پالک بیٹی ہے کیا مرحوم کے ترکے میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ کل ترکہ  
کتنے حصوں پر تقسیم ہوگا، (صغره بیگم، 673/2 عزیز آباد، کراچی)۔

**جواب:**

اگر سائلہ کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور  
ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی  
قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی  
ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکے، کے 16 حصے ہوں  
گے۔ 2 حصے دونوں بیویوں کو (ہر بیوی کو ایک حصہ) ملے گا، دو بیٹیوں کے 8 حصے (فی  
کس 4 حصے) اور تین بیٹیوں کے 6 حصے (فی کس 2 حصے) ملیں گے۔ لے پالک بیٹی  
کا شرعاً کوئی حصہ نہیں۔

## تقسیم وراثت و ہبہ

سوال: 159

باپ اپنی زندگی میں اپنی ملکیت میں سے اپنی اولاد کو جو 5 بیٹوں اور 3 بیٹیوں پر مشتمل ہیں، حصہ دے تب وہ کتنا ہوگا؟، خود باپ کا حصہ کتنا ہوگا؟، بچوں کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے؟۔

سوال: 160

باپ کے انتقال کے بعد باپ کی ملکیت میں بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا اور بیٹے کا کتنا ہوگا؟، اور بچوں کی والدہ کا حصہ کتنا ہوگا؟۔

(نوٹ: بیوی، 5 بیٹے اور 8 بیٹیاں ہیں)۔ (رضوان احمد خان، بلاک نمبر 6 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیم وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

## جواب:

کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے چار حقوق کا ترتیب وار ادا کیا جانا لازم ہے، (1) میت کی تجہیز و تکفین و تدفین، (2) قرض کی ادائیگی (اگر کچھ ہو)، (3) اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو تہائی ترکے کی حد تک اس وصیت کا پورا کیا جانا (4) بقیہ ترکے کو اس کے ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا۔

اگر باپ کی وفات کے بعد ورثاء یہی رہے جو سوال میں مذکور ہیں تو تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 144 حصص میں منقسم ہوگا، اس میں سے بیوہ کو 18 حصے، پانچ بیٹوں کو 70 حصے (فی کس 14 حصے) اور 8 بیٹیوں کو 56 حصے (فی کس 7 حصے) ملیں گے۔ لیکن یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس کی وفات پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں۔ اس لئے کسی فوت شدہ شخص کی وفات کے وقت جو ورثاء زندہ موجود ہوتے ہیں، ان میں ترکہ احکام شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، پیشگی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔

تقسیم ترکہ

(بیوہ، تین بیٹے، تین بیٹیاں)

سوال: 161

ہمارے والد صاحب کے انتقال کو تقریباً 9 ماہ ہو چکے ہیں، ان کا ترکہ تقریباً چار کروڑ نقدی و جائیداد کی صورت میں موجود ہے، ورثاء میں مرحوم کی زوجہ اور تین

بیٹے، تین بیٹیاں موجود ہیں، ہر ایک کا ترکے میں کتنا حصہ ہوگا؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلہ کی وضاحت فرمائیں، (رخسانہ بیگم، R-120/18 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

**جواب:**

اگر سائلہ کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تعفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ ۷ حصوں میں منقسم ہوگا۔

بیوہ کو ۹ حصے، تین بیٹوں کو ۳۲ حصے (فی کس ۱۴ حصے)، تین بیٹیوں کو ۲۱ حصے (فی کس ۷ حصے) ملیں گے۔

دادی اور پھوپھیاں محروم رہیں گی

**سوال: 162**

میرے دو بیٹے غیر شادی شدہ (1) نورالانوار نظامی (2) غلام دستگیر نظامی تھے جنہیں اپنے والد مرحوم سے ورثے میں زمین (چک 36-37/2 RA اوکاڑہ) ملی تھی، نورالانوار نظامی کو 123 کنال 2 مرلہ، غلام دستگیر نظامی کو بھی 123 کنال 2 مرلہ زمین ملی تھی، غلام دستگیر نظامی کا انتقال 3 جون 1995ء کو ہوا، ورثاء میں والدہ (سیدہ کاملہ بانو) ایک بھائی نورالانوار نظامی، دادی، پانچ چچا اور تین پھوپھیاں

تھیں۔ اس کے بعد نور الانوار نظامی کا انتقال 22 مارچ 2005ء کو ہو گیا، ورثاء میں والدہ (سیدہ کاملہ بانو) دادی، پانچ چچا، تین پھوپھیاں موجود ہیں، میرے دونوں مرحوم بیٹوں کی مذکورہ بالا اراضی ورثاء میں کس طرح تقسیم ہوگی، براہ کرم فتویٰ صادر فرمائیے، نوازش ہوگی، (سیدہ کاملہ بانو، B-488 Sector 11-A، نارٹھ کراچی)۔

**جواب:**

اگر ساکنہ کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکلیفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ اس طور پر تقسیم ہوگا کہ مرحوم غلام دستگیر نظامی کی اراضی کے تین حصے ہوں گے ایک حصہ والدہ کو اور دو حصے مرحوم کے بھائی نور الانوار نظامی کو ملیں گے، دادی، چچا اور پھوپھیاں محروم رہیں گی۔ پھر مرحوم نور الانوار نظامی کے ترکے کے 15 حصے ہوں گے، والدہ کو 5 حصے اور چچاؤں کو 10 حصے (فی کس 2 حصے) ملیں گے، دادی اور پھوپھیاں محروم رہیں گی۔

تقسیم وراثت

**سوال: 163**

گزارش یہ ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، والد صاحب نے

سولہ لاکھ روپے کا مکان بیچا تھا، میری چھ بہنیں ہیں اور میں ایک بھائی ہوں، ہم کل سات بہن بھائی ہیں ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی، (محمد سلیم، 307/8 عزیز آباد، کراچی)۔

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکلفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 8 حصوں میں تقسیم ہوگا، مرحوم کے بیٹے (یعنی آپ) کو دو حصے اور بیٹیوں کو چھ حصے (فی کس 1 حصہ) ملیں گے۔

تقسیم ترکہ (بیوہ، 4 بیٹے، 1 بیٹی)

**سوال: 164**

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اس نے اپنے ورثاء میں چار بیٹے، ایک بیٹی اور ایک بیوی چھوڑی ہیں، قرآن و حدیث اور اصولوں کی روشنی میں بیان فرمائیں کہ ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا، (محمد سعید انصاری، لطیف آباد، حیدرآباد)۔

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور

ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کچھ ہو، اور تہائی ترکے کی حد تک بمنفید وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 72 حصص میں منقسم ہوگا، بیوہ کو 9 حصے، چار بیٹوں کو 56 حصے (فی کس 14 حصے) اور بیٹی کو 7 حصے ملیں گے۔

وراثت میں حق تلفی کا عذاب

سوال: 165

دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دے، اور اسی کے نام سے خریدے، جبکہ اس کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں بھی ہیں، اس صورت میں کیا اس نے اپنی وراثت کی درست تقسیم کی، اس کے مرنے کے بعد اُس پر اولاد کی حق تلفی کا عذاب ہوگا یا نہیں؟ (شریف الرحمن نقشبندی، 94/5 سیکٹر G-11 نیوکراچی)۔

جواب:

ہر شخص کو اپنے مال کا زندگی میں اختیار ہے چاہے کل خرچ کر ڈالے یا باقی رکھے، مگر اس غرض سے اپنا تمام مال اور جائیداد کسی ایک وارث کو دینا تاکہ دوسرے ورثاء محروم ہو جائیں ناجائز اور باعث گناہ ہے، بلا وجہ شرعی وارث کو محروم کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا:

عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "من فرّ من ميراث وارثه، قطع



اللہ میراثہ من الحنة يوم القيامة“۔

ترجمہ: ”جو شخص اپنے وارث کو میراث (پہنچنے سے) راہ فرار اختیار کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی میراث جنت سے قطع کر دے گا“، (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: 2703 مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔

مگر کوئی شخص اپنی زندگی اور صحت میں جو کچھ کسی کو ”ہبہ“ کرے اور اس کا قبضہ بھی دے دے اور موہوب لے اس پر قبضہ کر لے تو شرعاً و قانوناً وہ ہبہ صحیح اور مؤثر ہوگا، اگرچہ شرعی وراثہ کو محروم کر دینے کا وبال اس پر رہے گا، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے، ہبہ صحیح ہوگا، وراثہ کو واپس لینے کا کوئی حق نہ ہوگا لیکن اگر ہبہ صحیح نہ ہو تو وہ مال حق وارث ہے اور تمام وراثہ میں اس کی تقسیم اسلام کے قانون وراثت کے مطابق ہوگی۔

تقسیم ترکہ و ہبہ

نوٹ: چونکہ ایک ہی استثناء میں چار سوالات کئے گئے ہیں، اس لئے ہم ترتیب وار سوال درج کر کے اس کے آگے اس کا جواب درج کر رہے ہیں۔

(محمد رفیق انصاری، North Karachi، Sec 11-C/1، R-607)

چند سوال پیش خدمت ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ:

سوال: 166

والد محترم اپنی حیات میں اپنی جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں (تقریباً) جائیداد کی رقم پچاس لاکھ روپے ہے) تو شرعی حکم کیا ہے؟، وراثہ میں ایک زوجہ، پانچ

بیٹے اور پانچ بیٹیاں ہیں۔

**جواب:**

کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیم وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

**سوال: 167**

جو مکان جائیداد میں شامل ہے، اس کی قیمت موجودہ قیمت فروخت کے حساب سے لگائی جائے گی یا جس قیمت پر دس سال پہلے خریدا گیا تھا، وہ قیمت لگائی جائے گی؟۔

**جواب:**

جائیداد میں شامل مکان کی تقسیم اس کی موجودہ قیمت کے مطابق کی جائے گی۔

**سوال: 168**

اگر والد محترم قانون وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم کریں، تو اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں، ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟۔

## جواب:

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں ترکہ ”قانونِ وراثت“ کے اصول پر تقسیم نہیں ہوتا کیونکہ زندگی میں تو مال اس کی ملک ہے، وہ اس کا مالک و مختار ہے، جیسے چاہے تصرف کرے، صاحبِ جائیداد کے وفات پاتے ہی وہ مال ”ترکہ“ ہو جاتا ہے، یعنی ایسا مال جسے وہ چھوڑ کر مرا۔ چونکہ اسلامی قانونِ وراثت کا اطلاق و نفاذ ترکہ چھوڑ کر مرنے والے کی وفات کے بعد ہوتا ہے، لہذا بوقتِ وفات جو اقارب موجود ہوتے ہیں، وہ قرابت کے ترجیحی اصولوں کے مطابق اس متوفی کے وارث بنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ کس کی وفات پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں۔ اس لئے کسی شخص کی زندگی میں اس کے ترکہ یا وراثہ کا تعین نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ترکہ اس کی وفات کے بعد احکامِ شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، پیشگی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا اور ترکہ کی تقسیم میں ”لِلْمَلَذَّةِ كَمِثْلِ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ“ (لڑکے کے لئے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، النساء: 11) کے ارشادِ قرآنی کے تحت متوفی کے بیٹے کو بیٹی سے دگنا حصہ ملتا ہے، لیکن زندگی میں اولاد کو ہبہ کرنے کی صورت میں شریعت نے اولاد کے درمیان مساوات کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اولاد کے علاوہ دیگر جس کو جتنا چاہیں، دے سکتے ہیں۔

سوال: 169

والد صاحب کے ساتھ بھائی اور بہنوئی کا روبرو میں شامل ہیں، کافی عرصہ پہلے ایک مکان خریدا اور اس مکان میں بیٹی اور داماد کو شفٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ کہا

تھا کہ یہ مکان بیٹی کا ہے، یعنی بیٹی کو دے دیا اور وقتاً فوقتاً اس مکان کی مرمت کے زمرے میں خاصا روپیہ خرچ کرتے رہے اور اپنے کاروبار میں سے بیٹی اور داماد کے تمام اخراجات پورے کرتے ہیں، اس صورت میں یہ مکان تقسیم میں شامل ہوگا یا نہیں؟، اور اگر یہ مکان تقسیم میں شامل نہ ہو تو باقی جائیداد کی تقسیم میں ان کا کیا حصہ ہوگا؟، یا حصہ نہیں ہوگا؟۔

(محمد رفیق انصاری، North Karachi، Sec 11-C/1، R-607)

**جواب:**

بیٹی اور داماد کو جو مکان انہوں نے دیا اور ساتھ ہی اسے اس کا مالک بھی بنا دیا تو اب یہ مکان اس بیٹی کی ملکیت ہے، والد کے ترکے یا جائیداد میں اسے شامل نہیں کیا جائے گا، نیز جو کچھ رقم وغیرہ وہ اپنی بیٹی داماد کو اپنی خوشی سے دیتے ہیں، اس سے ان کے شرعی حصے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی ترکہ تقسیم ہوگا انہیں اپنے حصے کے مطابق پورا حصہ دیا جائے گا۔ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اولاد کے درمیان حصہ میں عدم مساوات شرعاً ناپسندیدہ امر ہے لیکن نافذ ہو جاتا ہے۔ نیز آپ نے سوال میں یہ بھی درج کیا ہے کہ بہنوئی آپ کے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں، اگر ایسا ہے اور انہوں نے ان کی خدمات کے معاوضہ کے طور پر ان کو مکان لے کر دیا ہو تو، یہ درست اور جائز ہے۔

سوال: 170

میرے پاس ایک مکان اور نقدی موجود ہے اور کچھ رقم کاروباری حوالے سے ایک پارٹی کے پاس ہے، ابھی ایک سال نہیں ہوا، دسمبر 2005 میں حساب ہوگا۔ زندگی میں طریقہ تقسیم کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا طریقہ ہوگا۔ اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، (محمد احسان قریشی، شکارپور کالونی، کراچی)۔

جواب:

کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیم وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

اگر باپ کی وفات کے بعد ورثہ یہی رہے جو سوال میں مذکور ہیں تو تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 6 حصوں میں منقسم ہوگا، اس میں سے دو بیٹوں کو 4 حصے (فی کس 2 حصے) اور 2 بیٹیوں کو 2 حصے

(فی کس 1 حصہ) ملیں گے۔ لیکن یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس کی وفات پہلے ہوگی اور کس کی بعد میں۔ اس لئے کسی وفات یافتہ شخص کی وفات کے وقت جو ورثاء زندہ موجود ہوتے ہیں، ان میں ترکہ احکام شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، پیشگی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تقسیم کے وقت جو ترکہ موجود ہوتا ہے وہی موجودہ ورثاء میں شرعی اصول کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے اور جو رقم کاروبار میں لگائی ہوئی ہے، وہ بھی اصل مع منافع مجموعی ترکہ میں شامل ہوگی۔

مسئلہ وراثت و ہبہ

سوال: 172

میرے والد نے اپنی زندگی میں میرے نام پر گھر لیا، کاغذات بھی میرے نام سے بنوائے اور میرے حوالے کر دیئے یعنی مکان مکمل طور پر میری ملکیت میں تھا اور ہے۔ اور سب بھائی بہنوں اور ماں سے تازندگی یہی کہا کہ یہ گھر رضوان احمد خان کا ہے، پھر کچھ سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ گھر جو کہ میرے نام پر ہے، میرے والد صاحب کے ترکے میں آئے گا یا نہیں؟، (رضوان احمد خان، بلاک نمبر 6 فیڈرل بی ایریا، کراچی)۔

جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیر صدقِ سائل، اگر ان کے والد نے مکان ان کے نام پر لیا تھا، کاغذات میں اندراج بھی انہی کے نام پر ہوا اور اس پر ان کا قبضہ بھی مکمل رہا، تو یہ ہبہ مکمل ہو گیا اور اب وہ مکان انہی (رضوان احمد) کی ملک

میں رہے گا، ان کے والد کے ترکہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اگرچہ شرعاً مستحسن اور پسندیدہ امر یہ ہے کہ اولاد کے درمیان ہبہ میں مساوات برتی جائے، الا یہ کہ کسی خاص ترجیحی سبب سے کسی کو کچھ زائد دے دیا جائے، مثلاً اس کی دین داری کی وجہ سے یا کسی معذوری کے سبب، یا کاروبار وغیرہ میں اس کی خدمات کے عوض وغیرہ، مگر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ دیگر اولاد کی رضامندی حاصل کر لی جائے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### مسئلہ وراثت

### سوال: 173

ہم سب کا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ رقم والد صاحب نے ترکہ میں چھوڑی ہے، وراثہ میں بیوہ، چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں،

جن کے نام حسب ذیل ہیں:

بیٹے بیٹیاں

(1) سید جاوید اشرف (1) سیدہ ناہیدہ اشرف

(2) سید آصف اشرف (2) سیدہ مہ جبین اشرف

(3) سید عارفین اشرف (3) سیدہ یاسمین اشرف

(4) سید عامر اشرف ☆ مرحوم کی بیوہ عفت آرا

شریعت کے مطابق ان وراثہ کے حصوں کی وضاحت فرمائیں، مہربانی ہوگی۔

(سید عارفین اشرف، B.307 ڈسینٹ آرکیڈ بلاک 7 گلستانِ جوہر، کراچی)

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور تر کے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکلفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی تر کے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ تر کہ 88 حصوں پر تقسیم ہوگا، جس میں مرحوم کی زوجہ کو 11 حصے، چار بیٹوں کو 56 حصے (فی کس 14 حصے)، تین بیٹیوں کو 21 حصے (فی کس 7 حصے) ملیں گے۔

زندگی میں والد نے جو کچھ دیا، تر کے سے منہا نہیں ہوگا

**سوال: 174**

ہم اپنے والد صاحب کے تر کے کی تقسیم کا فتویٰ 12 جون 2005ء کو آپ سے لے چکے ہیں۔ اب مزید معلوم یہ کرنا ہے کہ: ہمارے والد صاحب اپنی زندگی میں جو کچھ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو رقم یا دیگر ضروریاتِ زندگی کی مد میں دیتے رہے ہیں کیا اسے تر کے میں سے منہا کیا جائے گا؟ نیز کیا وہ ورثاء مرحوم کے انتقال کے بعد وراثت میں حصے کے حق دار ہوں گے؟ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرمائیں۔ (سید عارفین اشرف، B-307 ڈسینٹ آرکیڈ بلاک 7، گلستانِ جوہر، کراچی)۔



## جواب:

کسی شخص کی زندگی میں، اس کا ترکہ یا وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسا چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کی رو سے مستحسن امر یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، مگر یہ تقسیم وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ”ہبہ“ کہلائے گا اور ”ہبہ“ میں اولاد کے درمیان مساوات کی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ سوال: 145 کے جواب میں مسلم شریف کی بیان کردہ حدیث میں گزرا۔

آپ کے والد نے جو کچھ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ”ہبہ“ کیا وہ اب ان کی ملکیت میں شمار نہیں ہوگا اور تقسیم ترکہ کے وقت اس رقم یا جائیداد کو ترکہ کے میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تقسیم ترکہ کے وقت مرحوم کے جو ورثاء زندہ ہوں ان سب کو ترکہ کے میں شامل کیا جائے گا۔

مختصر یہ کہ آپ کے والد اپنی زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو کسی بھی مد میں دیتے رہے، وہ ان کی ملکیت اور ان کے ترکہ کے سے خارج ہو گیا، لہذا جب میراث تقسیم کی جائے گی، تو جتنا مال وفات کے وقت ان کی ملکیت میں ہوگا، وہی تقسیم کیا جائے گا۔ اور جو ورثاء ان کی وفات کے وقت موجود ہوں گے، وہ اس کے حق دار ہیں، ہر ایک وارث کو قانون وراثت کے شرعی اصول کے مطابق اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اور جو کچھ والد اپنی زندگی میں دے چکے ہیں، اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔

## مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وراثت

سوال: 175

- ایک شخص نے ایک کتابیہ (عیسائی) عورت سے شادی کی، اس سے اس کی اولاد ہوئی۔ پھر اس (شوہر) کا انتقال ہو گیا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ:
- (1) کیا وہ عیسائی عورت اپنے شوہر کی وارث بنے گی؟
  - (2) اور اس کی اولاد نے اگر عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے تو کیا وہ وارث بن پائیں گے؟
  - (3) اگر بچے نابالغ ہیں تو کیا وہ وارث بنیں گے؟، (ایم عتیق الرحمن، کراچی)۔

جواب:

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن اسامة بن زيد ان النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم:

ترجمہ: ”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے، نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے“، (صحیح مسلم رقم الحدیث: 4028، ابی داؤد رقم الحدیث: 2901)۔

اس حدیث کے تحت علامہ نووی لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور جمہور صحابہ اور

فقہاء، تابعین اور بعد کے علماء کے نزدیک مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوتا، (شرح مسلم للنووی، جلد 2 ص: 34، نور محمد اصح المطابع)۔

میراث سے محروم کرنے والے چار اسباب ہیں، ایک سبب دین کا اختلاف ہے، یعنی مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا۔

عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جدہ عبداللہ بن عمرو قال: قال رسول اللہ ﷺ: لا يتوارث اهل ملتین شتی۔

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو مختلف ملتوں کے افراد ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے“، (شرح مسلم للنووی، جلد 2 ص: 34، نور محمد اصح المطابع)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

واختلاف المذین ایضاً یمنع الارث والمراد به الاختلاف بین الاسلام والكفر واما اختلاف ملل الکفار کالنصرانیة والیهودیة والمجوسیة وعبدة الوثن فلا یمنع الارث حتی یجری التوارث بین الیهودی والنصرانی والمجوسی واختلاف الدارین یمنع الارث کذا فی التبین۔ ولكن هذا الحکم فی حق اهل الکفر لا فی حق المسلمین۔

ترجمہ: ”اور دین کا اختلاف بھی مانع ارث ہے، اور اس سے مراد اسلام اور کفر کے درمیان اختلاف ہے اور جب اختلاف کفار قوموں کے درمیان ہو، جیسا کہ نصرانی اور

یہودی اور مجوسی اور بت پرست، تو پھر وہ وراثت سے مانع نہیں ہوگا (یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں)۔ یہاں تک کہ یہودی اور نصرانی اور مجوسی کے درمیان وراثت جاری ہوگی اور دار کا مختلف ہونا (یعنی دار الاسلام و دار الحرب) مانع وراثت ہے، جیسا کہ تمبین میں بیان کیا گیا ہے اور یہ حکم اہل کفر کے حق میں ہے نہ کہ مسلمان کے حق میں“، (عالمگیری جلد 6 ص: 454 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(واختلاف الدین) و اسلاماً و کفرأ .

ترجمہ: ”(اور دین کا مختلف ہونا) مانع وراثت ہے یعنی کہ اسلام اور کفر کا اختلاف“۔

اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

قیسہ بہ لأنّ الکفار يتوارثون فيما بينهم وان اختلف مللهم عندنا، لأنّ الکفر کله ملة واحده۔

ترجمہ: ”یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ ہمارے نزدیک کفار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں اگرچہ ان کا تعلق مختلف ملتوں سے ہو، اس لئے کہ تمام کفر ملت واحدہ ہے“۔

(رد المحتار علی الدر المختار جلد 10 ص: 418، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس مسئلہ شرعی اصول کے تحت کتابیہ عورت (خواہ نصرانی ہو یا یہودی) اپنے

متوفی مسلمان شوہر کی وارث نہیں بن سکتی۔ مسلمان شوہر اور کتابیہ عورت کی

اولاد اگر نابالغ ہے تو وہ دین میں ”خیر الابوین“ کے تابع ہے، یعنی انہیں مسلمان

تصور کرتے ہوئے ان کے مسلمان باپ کی وراثت میں حصہ دیا جائے اور اگر وہ بالغ ہیں تو مسلمان ہونے کی صورت میں اپنے باپ کے وارث بنیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ بالغ ہونے کے بعد وہ نصرانی یا یہودی بن گئے ہیں، تو مسلمان باپ کی وراثت سے محروم رہیں گے۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(والولد يتبع خيبر الأبوين ديناً) ان اتحدت الدر ولو حكماً، بان كان الصغير في دارنا والأب ثمة۔

ترجمہ: ”اور اولاد دین میں خیر الابوین (یعنی ماں باپ میں سے جس کا دین بہتر ہو، جیسا کہ یہودی یا نصرانی ہے اور دوسرا مسلم، تو نابالغ اولاد مسلم تصور ہوگی، اور اگر ایک نصرانی ہے اور دوسرا مجوسی یا مشرک، تو نابالغ اولاد نصرانی تصور ہوگی) کے تابع ہوتی ہے، اگر دار ایک ہی ہو، خواہ حکماً ہی سہی، جیسے نابالغ اولاد دار الاسلام میں ہے اور باپ بھی وہیں ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد: 4 ص: 276 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مسئلہ وراثت

سوال: 176

ایک عدد کارخانہ، جس کی مالیت تیس لاکھ روپے ہے اور ایک عدد کودام، جس کی مالیت سترہ لاکھ روپے ہے۔ مرحوم کے ورثاء میں دو بھائی چار بہنیں ہیں، شرعی اعتبار سے ان کے حصے کیا ہوں گے، شرعی حساب سے بتادیں، عین نوازش

ہوگی، (صلاح الدین، C-115/6 عائشہ منزل، فیڈرل بی ایریا کراچی)۔

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکلفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 8 حصوں میں منقسم ہوگا۔ دو بیٹوں کو چار حصے (فی کس 2/8) اور چار بیٹیوں کو چار حصے (فی کس 1/8) ملیں گے۔

**مسئلہ وراثت**

**سوال: 177**

ہمارے والد صاحب نے سنگل اسٹوری پر تین کمرے چھوڑے تھے اور دوسری منزل پر میں نے اپنی رقم سے تین کمرے بنوائے ہیں۔ ہم دو بھائی تھے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور چھ بہنیں تھیں (جن میں سے دو کا انتقال ہو گیا ہے) موجودہ ورثاء ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں، شرعی طور پر ہر ایک کا حصہ کتنا بنتا ہے؟  
نوٹ: بھائی اور دونوں بہنوں کا انتقال والد صاحب کی زندگی میں ہوا تھا۔  
(محمد اسحاق، 3/425 لیاقت آباد کراچی)

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور

ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کچھ ہو، اور تہائی ترکے کی حد تک منفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 6 حصص میں منقسم ہوگا، بیٹے کو 2 حصے اور چار بیٹیوں کو 4 حصے (فی کس ایک حصہ) ملے گا اور جو کمرے آپ نے اپنی رقم سے بنوائے ہیں وہ رقم اس میں سے منہا کر لی جائے گی۔

### وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں

### سوال: 178

ہمارے والد عبدالوحید کا انتقال 19 اگست 2004ء کو ہوا اور والد عبدالوحید نے انتقال سے پہلے انہوں نے زبانی ہم سب سے فرداً فرداً اور اجتماعی طور پر کہا، ہم سب ان کی اولاد اور ان کی زوجہ ان کی زبانی بات، جو انہوں نے کہی، ہم سب اس پر متفق ہیں، تا کہ مرحوم عالم ارواح میں پرسکون رہے۔ وہ باتیں زبانی مرحوم عبدالوحید صاحب کی یہ تھیں۔

۱۔ مکان نمبر 111 - C کورنگی نمبر 6 مرحوم کی چاروں صاحبزادیوں (صفیہ۔ شاہدہ۔ عابدہ۔ زاہدہ) کا ہے۔

۲۔ مکان نمبر 515/15 ڈنگیر فیڈرل بی ایریا، مرحوم کے چاروں صاحبزادوں (عبدالحمید، عبدالحمید، عبدالودود، عبدالغفار) کا ہے، اس کے علاوہ صدر کی دکانیں بھی ہیں۔

والد صاحب نے عرصہ بیس سال قبل ایک دوکان بڑے بیٹے کے نام کر دی تھی، اس پر

دوسرے بھائیوں کو اعتراض ہے، جس پر والد سے احتجاج کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔

عرصہ اٹھائیس سال سے بڑا بیٹا کام کر رہا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں دوکان کی چابی ہے۔

۳۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ اور اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ بھی مرحوم کے نام سے ہیں، جو کہ انہوں نے بینک میں Nominate بچوں کو کر دیا ہے اور کہا کہ جس کے نام ہے، وہی لے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے گا۔

تمام ورثاء والد صاحب کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن ایک بھائی اور ایک بہن کا کہنا یہ ہے کہ از روئے شرع تمام ترکے میں سے جو حصہ بنتا ہے، دیا جائے، (عبدالحمید، 515/15 ایف بی ایریا، کراچی)۔

### جواب:

صورتِ مسئلہ میں بر تقدیر صدق سائل، متوفی نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام جو جائیداد ہبہ کرنے کا کہا، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں انہیں اس جائیداد کی ملکیت اور قبضہ منتقل نہیں کیا تو ہبہ مکمل نہیں ہوا اور وہ جائیداد بدستوران کی ملکیت رہی۔ اب زیادہ سے زیادہ والد کی خواہش وصیت کے درجے میں ہے اور شرعاً وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”سمعت أبا أمامة، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل

ذی حقّ حقّه فلا وصیة لوارث“



ترجمہ: ”ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرما رہے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ نے (ترکے میں سے) ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو (اب) وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے“، (سنن ابی داؤد رقم الحدیث 2862، مؤسسۃ الریان، بیروت)۔

لہذا ترکہ تمام ورثاء کے درمیان از روئے شرع تقسیم ہوگا۔ اور وہ اس طرح کہ ترکہ کل 96 حصوں پر منقسم ہوگا، ان میں سے بیوہ کو 12 حصے، 4 بیٹوں کو 56 حصے (فی کس 14 حصے) اور 4 بیٹیوں کو 28 حصے (فی کس 7 حصے) ملیں گے۔ جو دوکان وہ اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کو ہبہ کر کے ان کی ملک کر چکے تھے اور قبضہ بھی دے دیا تھا، تو وہ ہبہ مکمل ہو گیا اور وہ دوکان اب اس بیٹے کی ملکیت رہے گی، اگرچہ شرعاً والد کا یہ فعل ناپسندیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اولاد کے درمیان ہبہ کرنے میں مساوات کا حکم دیا ہے اور عدم مساوات کو ناپسند فرمایا ہے، تاہم قانوناً ایسا ہبہ مؤثر اور نافذ العمل ہو جائے گا۔

بینک ڈیپازٹ، ڈیفنس سرٹیفیکیٹ اور سیونگ سرٹیفیکیٹ کی رقم مجموعی ترکے میں شامل ہوگی اور مذکورہ بالا تناسب سے تقسیم ہوگی۔ اس میں بیٹوں یا بیٹیوں کی نامزدگی وصیت کے درجے میں ہے اور جیسا کہ حدیث پاک کے حوالے سے بتایا گیا ہے، وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔

میرے والد محترم کا انتقال 1989ء میں ہو گیا تھا، والد صاحب نے ورثہ میں -/80,000 روپے جو کہ ایک مکان میں ایڈوانس تھے۔ اور کچھ رقم نقد چھوڑی تھی جو کہ زیر تعمیر مسجد میں دے دی گئی تھی۔ مکان کے ایڈوانس کے -/80,000 روپے تمام ورثاء نے راضی برضا والدہ کے لئے چھوڑ دیئے۔ والد کے انتقال کے وقت یہ ورثاء تھے، (1) بیوہ (2) دو بہنیں (3) پانچ بھائی (4) مرحوم کی بہنیرہ۔

اب دریافت مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ورثاء اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، (محمد اخلاق قادری، جمن شاہ کاپڑ حیدر آباد)۔

**جواب:**

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکلفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تعفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 96 حصوں میں منقسم ہوگا۔

بیوہ کو 12 حصے، پانچ بیٹوں کو 70 حصے (فی کس 14 حصے)، دو بیٹیوں کو 14 حصے (فی

کس 7 حصے) ملیں گے، مرحوم کی ہمشیرہ محروم رہے گی۔ تمام ورثاء اگر باہمی رضامندی سے والدہ کے حق میں اپنے اپنے حصے سے دست بردار ہونا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں اور یہ ان کی سعادت مندی ہوگی البتہ اگر بعض ورثاء رضا کارانہ طور پر اپنی والدہ کے حق میں اپنے حصے سے دست بردار ہونے کے لئے آمادہ ہیں اور بعض اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو جو اپنا حصہ لینا چاہے، وہ لے سکتا ہے، اسی طرح جو رقم وہ باہمی رضامندی اور اتفاق رائے سے والد صاحب کے ایصالِ ثواب کے لئے تعمیر مسجد کے لئے دے چکے ہیں، وہ درست ہے۔

### بیٹے کا باپ سے تقسیم وراثت کا مطالبہ

سوال: 180

میں نے ایک مکان بوسیدہ حالت میں خریدا جو میری ملکیت ہے اور اس کے بعد اس مکان میں میرے تین بیٹوں نے رقم لگا کر اسے بنایا۔ میرے سات بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی شدہ ہیں باقی سب غیر شادی شدہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بیٹا ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اسے اس مکان میں سے حصہ دیا جائے، شرع کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ آیا اسے اس مکان میں سے کتنا حصہ دیں، (محمد سلیم، 81/6 سیکٹر F-5 نیو کراچی)۔

جواب:

کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کا مال و جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، اور نہ اس سے بطور وراثت اس کی تقسیم ہی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے، وہ اپنے مال میں مختار

ہے، جس طرح سے چاہے، اسے خرچ کرے۔

صورت مذکورہ میں مکان جو آپ کی ملکیت ہے، اس کی تقسیم کا مطالبہ کرنے کا کسی بیٹے کو کوئی حق نہیں، ہاں اگر وہ بیٹے جنہوں نے مکان میں رقم لگائی ہے، اگر اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کریں، تو ان کو وہ رقم دے دی جائے۔ جب تک ماں باپ یا کوئی بھی مورث زندہ ہے، کسی وارث کا اس کے مال پر نہ کوئی استحقاق ہے اور نہ ہی کوئی وارث بطور وراثت اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتا ہے، کسی شخص کا مال ترکہ بنتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے، اس وقت جو وارث زندہ ہوں گے، شریعت کے احکام وراثت کے مطابق ترکہ میں سے اپنا اپنا حصہ پائیں گے، پیشگی طور پر کے معلوم ہے کہ کون پہلے مرتا ہے اور کون بعد میں، کون وارث بنتا ہے اور کون مورث (وراثت چھوڑ کر وفات پانے والا)۔ اپنی زندگی میں کوئی شخص اپنے مال میں حسبِ منشا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، جسے جو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، البتہ اولاد کو کوئی شخص اپنی زندگی میں حصہ دینا چاہے تو لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر دے، شرعاً مستحسن یہ ہے کہ اولاد کے درمیان ”حصہ“ کرنے میں مساوات برتی جائے۔

مسئلہ وراثت

سوال: 181

ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے ورثاء میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں  
جائیداد کی تقسیم شرعی طور پر ان ورثاء کے درمیان کس طرح ہوگی۔ وضاحت فرمائیں۔

(محمد اکرام الرب، R-896/4 فیڈرل بی ایریا، کراچی)

## جواب:

اگر سائل کا بیان درست ہے اور ورثاء وہی ہیں، جو سوال میں مذکور ہیں اور ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے کے واجبات (مصارف تکلیفین و تدفین، ادائیگی قرض اگر کوئی تھا، اور تہائی ترکے کی حد تک تنفیذ وصیت اگر متوفی نے کوئی وصیت کی ہو) شرعی ترجیحات کے مطابق ادا کرنے کے بعد بقیہ ترکہ 12 حصوں پر تقسیم ہوگا چار بیٹوں کو 8 حصے (فی کس 2 حصے) چار بیٹیوں کو 4 حصے (فی کس 1 حصہ) ملیں گے۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

﴿حلال و حرام﴾

﴿جائز و ناجائز﴾

حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت

سوال: 182

کیا جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز ہے؟ اگر بہ حالت  
مجبوری غسل نہ کر سکیں، (آصف خلیل بہادر آباد کراچی)۔

جواب:

جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے،  
”جنابت“ سے مراد وہ حالت ہے، جس میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے اور نفاس  
سے مراد وہ ایام ہیں جن میں بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے رحم سے خون جاری رہتا  
ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ممکنہ طور پر چالیس دن ہے اور کم سے کم مدت متعین  
نہیں ہے، جنبی اور حائض زبان سے تلفظ کے بغیر دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں  
اسی طرح جنبی اور حائض تسبیح (سبحان اللہ کہنا)، تہلیل (لا الہ الا اللہ کہنا)  
تحمید (الحمد للہ کہنا)، تکبیر (اللہ اکبر کہنا)، تہجد (انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا)،  
درود شریف اور دیگر اذکار و تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین بطور  
تلاوت کے پڑھنا منع ہے مگر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت پر اظہار تشکر کے طور پر پڑھ سکتے  
ہیں، اسی طرح مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون بھی پڑھ سکتے ہیں، بے  
وضو اگرچہ تلاوت کرنا جائز ہے لیکن تقاضائے ادب یہ ہے کہ پاک جگہ پر با وضو قبلہ رو

بیٹھ کر تلاوت کی جائے اور تلاوت سے پہلے خوشبو کا استعمال اور منہ سے بدبو (اگر کچی پیاز، لہسن کھانے یا تمباکو سے ہو) کا ازالہ مسواک یا پیسٹ سے کرنا مستحب ہے، اگر عذر شرعی کی بناء پر غسل نہ کر سکیں تو تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔

سورۃ الرحمن کی آیت کا جواب دینا

سوال: 183

ہماری اسلامیات کی میڈم نے بتایا ہے کہ جب سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں اور یہ آیت پڑھیں: ”فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ“، تو اس کا جواب دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیا یہ درست ہے؟، (افشاں بیگ، کراچی)۔

جواب:

یہ آیت سورۃ الرحمن میں اکتیس مرتبہ آئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: ”سو (اے گروہ جن و انس) تم دونوں (گروہ) اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟“۔

علامہ محمود آلوسی بغدادی متوفی 1270ھ اپنی تفسیر ”روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی“ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت، جلد 27، صفحہ 104 پر، بزار، ابن جریر، ابن منذر، دارقطنی، ابن مردویہ اور حافظ ابو بکر علی بن احمد الخطیب کی تاریخ بغداد کے حوالے سے لکھتے ہیں:

حدیث صحیح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

صحابہ کرام کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی تو وہ چپ رہے، اس پر آپ نے فرمایا: کیا بات ہے کہ جب میں اللہ کے قول ”فَبَيِّبِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانَ“ پر آیا تو جنات نے اپنے رب کو تم سے بہتر جواب دیا، انہوں نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا: ”لَا بَشِيءٌ مِّنْ نِّعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ“، یعنی اے ہمارے پروردگار! ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریف کا حقدار تو ہی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جناتِ مومنین کے جواب کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب فرمائی، لہذا اس آیت کا ان کلمات سے جواب دینا اجر و ثواب کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں کا اقرار و اعتراف ہے۔ اور اس جواب سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ قرآن کسی بہرے، کونگے اور غافل یا سنگدل سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ ایسے مومن سے مخاطب ہے جو قرآن کو غافل رہ کر نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے دل و دماغ پر قرآن اثر انداز ہوتا ہے، وہ قرآن کے پیغام کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے اور جہاں عملایا تولاً جواب دینا ہو، وہاں جواب دیتا ہے، یعنی اس کا سماع، ”سماع مطلق“ نہیں بلکہ ”سماع قبول“ ہے اور بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب وہ اعترافِ نعمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کا نزول فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے:

”لَقِينَ شُكْرًا ثُمَّ لَا تَنْبَغُكُمْ“ ط

ترجمہ: ”اگر تم (میری نعمتوں کا) شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرورت تم پر فیضانِ نعمت (



اور) زیادہ کروں گا“، (ابراہیم: 7)۔

مسجد میں تلاوتِ قرآن اور درس و وعظ میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال

سوال: 184

عرض یہ ہے کہ ہماری مسجد ”جامع مسجد القمر“ گنجان آبادی میں ہے، الحمد للہ! مسجد میں بیچ وقتہ اذان، نماز، جمعہ المبارک کی تقریر، ماہانہ محفلِ گیارہویں شریف (تقریباً ایک سے دو گھنٹے) ماہانہ درسِ قرآن (تقریباً ایک گھنٹے کا) اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مختلف پروگرام اس طرح منعقد ہوتے ہیں کہ نہ صرف مسجد کے اندر کا مائیک کھلا ہوتا ہے، بلکہ باہر کے ”ہارن“ بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس کی آواز خاصی دور تک کے گھروں میں بہت تیز جاتی ہے۔ اکثر لوگ باہر کے تیز ہارنوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں، (محض مجبوری کے سبب)۔ ہماری ارکان کمیٹی نے متفقہ فیصلے سے یہ ارادہ کیا ہے کہ اذان، نماز جمعہ المبارک کی تقریر اور دیگر پروگراموں کے صرف اعلان کے علاوہ ہم باہر کے ہارن نہ کھولیں۔ بلکہ صرف مسجد کے اندر کے اسپیکروں کو استعمال کریں، ہمارا یہ عمل از روئے شرع اور حکمت کیسا ہوگا۔ اس پر ان احباب کو کس طرح قائل کیا جاسکتا ہے، جو محض جذباتیت کا شکار ہو کر باہر کے ہارن کھولنے پر مجبور کرتے ہیں، امید ہے ایسی رہنمائی فرمائیں گے، جو باعثِ حق و تسکین ہو، (اراکین کمیٹی جامع مسجد القمر ٹرسٹ، شاہ فیصل کالونی نمبر 3، کراچی)۔

جواب:

ہمارے نزدیک فی نفسہ نماز باجماعت میں ضرورت کے تحت

لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز ہے، مگر ایک فقہی اصول ہے کہ ”الضرورة تنقذ بالضرورة“ یعنی ضرورت کی بنا پر اباحت دائرہ ضرورت کے اندر مونی چاہئے۔

نماز کے اندر تلاوت کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا“۔

ترجمہ: ”اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں (انتہاؤں) کے درمیان (معتدل) انداز اختیار کریں“، (بنی اسرائیل: 110)۔

آدابِ قراءتِ قرآن کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“۔

ترجمہ: ”اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے“۔

(الاعراف: 204)

علامہ ابن عابدین شامی ”رد المحتار علی الدر المختار“ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 237، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی میں ”فروع فی القراءۃ خارج الصلوٰۃ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”قولہ: بحسب الاستماع للقراءۃ مطلقاً) أى فی الصلاة وخارجها، لأن الآیة وإن كانت واردة فی الصلاة علی ما مر فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ثم هذا حیث لا عنده؛ ولذا قال فی ”القنیة“: صبى یقرأ

ففي البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة والأفلا، وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن. وفي "الفتح" عن "الخلاصة": رجل يكتب الفقه ويحنيه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فلا ثم على القارئ، وعلى هذا لوقرأ على السطح والناس نيام يأنم ا ه: أي لأنه يكون سبباً لاعتراضهم عن استماعه، أولأنه يغذهم بإيقاظهم. تأمل -

ترجمہ: ”(قراءت کو مطلقاً توجہ سے سننا) نماز کے اندر اور خارج نماز میں واجب ہے، کیونکہ آیت (وجوب استماع) اگرچہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ یہ بحث پہلے بھی آچکی ہے، لیکن (احکام شرعیہ کا اصول یہ ہے کہ) اعتبار ”عموم لفظ“ کا ہونا ہے نہ کہ ”سبب خاص“ کا، پھر یہ (حکم وجوب استماع) تب ہے جب کوئی عذر نہ ہو، اسی لئے ”القنیہ“ میں ہے: ایک بچہ گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے اور گھر والے کام میں مشغول ہیں تو (مصرفیت کے سبب) قراءت کو توجہ سے سننے کے بارے میں وہ معذور ہیں، یہ حکم تب ہے کہ وہ پہلے سے کام میں مشغول ہوں ورنہ نہیں (یعنی پھر انہیں توجہ سے قراءت سنی چاہئے)، اسی طرح قراءت قرآن کے وقت فقہ کی کتاب پڑھنے کا مسئلہ ہے، اور ”فتح القدير“ میں ”خلاصہ“ کے حوالے سے ہے: ایک شخص فقہ (کے مسائل) لکھ رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، تو اب اس (مسائل فقہ لکھنے والے کیلئے) قراءت کا توجہ سے سننا (عملاً) ممکن نہیں ہے، تو (ایسی صورت میں) گناہ قرآن پڑھنے والے پر ہوگا، اسی طرح اگر اس نے چھت پر (چڑھ

کر) قرآن پڑھا، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ (قاری قرآن) ان کے قرآن سننے سے اعراض کا سبب بن رہا ہے، یا یہ انہیں جگا کر (اور ان کے آرام میں مخل ہو کر) انہیں ایذا پہنچا رہا ہے۔“

قراءت کو سننا فرض ہے یا واجب؟، اس پر بھی فقہاء کرام نے بحث کی ہے، علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”وفی ”شرح المنیة“: والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لاقامة حقه بأن يكون ملتفتاً إليه غير مضيع وذلك يحصل بانصات البعض؛ كما في ردّ السّلام حين كان لرعاية حق المسلم كفي فيه البعض عن الكلّ الآ أنه يحب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيهما كان هو المضيع لحرمة، فيكون الاثم عليه دون أهل الاشتغال دفْعاً للخرج، وتماه في ”طحطاوى“، ونقل ”الحموى“ عن أستاذة قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقارى زاده: أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين“۔

ترجمہ: ”شرح المنیة“ میں ہے: اصل یہ ہے کہ قرآن کا سننا ”فرض کفایہ“ ہے، کیونکہ قرآن کے حق کو قائم رکھنے کا تقاضا ہے کہ اس کی جانب توجہ کی جائے اور اسے (بے توجہی کے سبب) ضائع نہ کیا جائے اور یہ مقصد بعض لوگوں کے سننے سے حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سلام کے جواب دینے کا مسئلہ ہے کہ یہ ”حق مسلم“ کی رعایت کے لیے ہے اور اس میں بعض کا جواب دینا سب کی طرف سے کافی ہے، لیکن (اس

کے باوجود) خودقاری پر قرآن کا احترام واجب ہے، کہ بازاروں میں کام کاج کے مقامات پر نہ پڑھے، پس جب وہ ان مقامات پر پڑھے گا تو وہ خود قرآن کی حرمت کو ضائع کرنے والا ہوگا، اور گناہ کا وبال اس پر ہوگا جو اس کا سبب بن رہا ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جو کام میں مشغول ہیں تاکہ (لوگوں کیلئے) دفعِ حرج ہو، اور پورا مسئلہ (تفصیل کے ساتھ) ”مططاویٰ“ میں ہے اور ”محموی“ نے اپنے استاذ قاضی القضاة یحییٰ المعروف بہ ”منقاری زادہ“ سے روایت کیا ہے کہ ان کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے تحقیق کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ: ”قرآن کا سننا فرض عین ہے“، (ردالمحتار علی الدر المختار ج 2 ص 237 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ داخل نماز قرآن پڑھا جائے یا خارج نماز، لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی رکھنی چاہئے کہ مسجد میں موجود نمازی یا حاضرین سن سکیں جو قصداً اس کا خیر اور حصولِ ثواب کیلئے مسجد میں حاضر ہیں۔ اور قراءتِ قرآن کے دوران لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی اونچی رکھنا کہ اہل محلہ اس آواز کو سننے پر مجبور ہوں اور ”حق استماع“ ادا نہ کر سکیں، اپنی کوتاہی، کاہلی یا بے توجہی کی بنا پر یا پہلے سے کسی کام میں مشغول رہنے کے سبب ایسا ہو، تو ایسی صورت میں قرآن کی بے ادبی اور اس سے اعراض کا سبب پڑھنے والے یا مسجد کے منتظمین ہوں گے۔ جو لوگ گانوں کے کیسٹس کی دکانوں یا ورائٹی شو یا دیگر غیر شرعی مجالس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان کو ٹو کوئی منع نہیں کرنا، تو یہ طرزِ استدلال درست نہیں ہے، کسی کی غلطی یا کوتاہی دوسرے کیلئے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ مزید یہ کہ ان خرافات کا سننا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ شرعاً

ممنوع ہے اور ان سے اعراض لازم ہے، لہذا کسی کی عدم توجہی و عدم سماع کا بے ادبی کا سبب بننا تو درکنار، اس کے لئے ثواب کا باعث ہوگا تو اس بنا پر بھی یہ قیاس مع الفارق ہے۔

البتہ جہاں تک مجالس درس و وعظ کا مسئلہ ہے تو عوامی افادیت کے پیش نظر ان کیلئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز خارج مسجد اہل محلہ کیلئے اونچی رکھی جاسکتی ہے، بہت سی خواتین اور معذور لوگ جو مساجد یا مجالس وعظ میں نہیں آسکتے، درس و وعظ کی ان مجالس میں بیان کردہ مسائل کو کافی توجہ سے سنتے ہیں۔ اور وعظ و تقریر کو اگر کوئی توجہ سے نہ سن سکے یا نہ سننا چاہے تو یہ خلاف ادب بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس پر سننا واجب ہے اور نہ اس کا ادب قرآن کی طرح لازم ہے، تاہم یہ سلسلہ بھی مناسب وقت تک جاری رہنا چاہئے نہ کہ رات بھر یا رات کا بیشتر حصہ کہ اس کے سبب لوگوں کی نیند متاثر ہو یا وہ نماز فجر کیلئے اٹھ نہ پائیں، اگر مجالس درس و وعظ کیلئے ہماری بیان کردہ رخصت کے استعمال میں غلو اور حد اعتدال سے تجاوز ہو تو یہ ”کلامۃ الحق ارید بہا الباطل“ کی مثل ہوگا اور اس کی تحسین ہرگز نہیں کی جاسکتی۔

مسجد کے ملے کا استعمال

سوال: 185

مسجد غوثیہ سیکٹر 11-D کراچی کی توسیع کی گئی ہے، دیواریں اور ستون وغیرہ توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے تعمیر ہوئی۔ جو ملہ توڑ پھوڑ میں نکلا (چونکہ یہ ملہ قابل فروخت نہیں تھا)، وہ مسجد کے قریب مدرسے میں ڈال دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ: ”یہ

ملبہ مدرسے یا کسی گھر وغیرہ میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ ملبہ چونکہ مسجد کی دیواریں وغیرہ تھا۔ کیا اس کا اب بھی وہی حکم ہے کہ اس کا احترام واجب اور اس پر چلنا وغیرہ نا جائز ہو؟ حکم شریعت سے مطلع فرمائیں، (سائل، عبدالرحمن، سیکٹر D-11 نیوکراچی)۔

### جواب:

مسجد کے ایسے ملبے کا، جو قابل فروخت نہیں ہے، مدرسے میں ڈالنا جائز ہے، فتاویٰ سراجیہ جلد نمبر 4 کتاب الوقف میں ہے:

حشیش المسجد اذا طرح فی ایام الربیع عن المسجد قالوا: ان لم یکن له قیمة لا بأس بطرحه ، و اذا طرح فممن اخذه كان له ان یصنع به ماشاء وان كان متقوما لا یجوز طرحه ۔

ترجمہ: ”مسجد کی خشک گھاس جب موسم بہار میں مسجد سے باہر پھینک دی جائے، تو فقہاء نے کہا ہے کہ اگر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھینکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو کوئی لے لے، اسی کی ہے، وہ اس سے جو چاہے کرے، اور اگر اس ملبے یا ان اشیاء کی کوئی قیمت ہے، تو ان کا پھینکنا جائز نہیں ہے۔“

فتاویٰ تاتارخانیہ جلد نمبر 5 ص: 850 پر ہے:

وفی المنتقی: بوارى المسجد اذا خلقت فصار لا ینتفع بها فاراد الذی بسطها أن یأخذها ویصدق بها ویبشرى مکانها فله ذلك ، وان كان هو غائبا فاراد أهل المحلة أن یأخذوا البوارى فتصدقوا بها ما خلقت، لم یکن

لهم ذلك ان كان لها قيمة، وان لم يكن لها قيمة فلا بأس بذلك۔

ترجمہ: ”اور منتقلی میں ہے: مسجد کی چٹائیاں وغیرہ جب اتنی پرانی ہو گئیں کہ ان سے اب فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے، انہیں بچھانے والے شخص نے چاہا کہ انہیں لے لے اور صدقہ کر دے اور ان کی جگہ اور خرید لے، تو یہ اس کیلئے جائز ہے۔ اور اگر وہ موجود نہیں ہے، اور محلے والوں نے چاہا کہ وہ چٹائیوں کو لے لیں اور پرانی ہونے کے بعد صدقہ کر دیں، تو ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے، بشرطیکہ ان کی کوئی قیمت ہے، اور اگر اب ان کی کوئی قیمت نہیں رہی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔“

فتاویٰ تاتارخانیہ کی اس عبارت کی روشنی میں مسجد کا وہ ملبہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ آج کل شہروں میں اس کے اٹھانے پر بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اسے کوئی عام آدمی بھی لے سکتا ہے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے دریافت کیا گیا:

”علمائے دین شرع متین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ مسجد کا فرش اور لکڑیاں جو خراب ہو جاتی ہیں سوا مسجد کے اور کسی کام میں تصرف کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟، آخر کیا کرنا چاہئے، تحریر فرمائیں، فقط۔“

آپ نے جواب دیا:

”فرش جو خراب ہو جائے کہ مسجد کے کام کا نہ رہے، جس نے وہ فرش مسجد کو دیا تھا، وہ اس کا مالک ہو جائے گا، جو چاہے کرے اور اگر مسجد ہی کے مال سے تھا تو متولی بیچ کر مسجد کے جس کام میں چاہے لگا دے اور مسجد کی لکڑیاں یعنی چوکھٹ کو اڑکڑی تختہ یہ



بیچ کر خاص عمارت مسجد کے کام میں صرف ہو، (فتاویٰ رضویہ، جلد ششم، ص: 430، مطبوعہ مکتبہ رضویہ، کراچی)۔

صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ بہار شریعت جلد دہم، ص: 112 (مطبوعہ شمس بک ایجنسی) پر لکھتے ہیں:

”مسجد کی چٹائی جائے نماز وغیرہ اگر بے کار ہوں اور اس مسجد کیلئے کارآمد نہ ہوں تو جس نے دیا ہے وہ جو چاہے کرے اسے اختیار ہے اور مسجد ویران ہوگئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اس کا سامان دوسری مسجد کو منتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی مسجد منہدم ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ اس کا ملبہ (سامان) لوگ اٹھالے جائیں گے اور اپنے صرف میں لائیں گے تو اسے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل کر دینا جائز ہے“، (درمختار رد المحتار)۔ علامہ ابن عابدین شامی نے ”رد المحتار علی الدر المختار“ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 430 پر ”مطلب فی انقضاء المسجد ونحوہ“ (یعنی مسجد کے ملبے اور شکستہ چیزوں کا بیان) کے عنوان کے تحت بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کا ایسا ملبہ، بوسیدہ یا شکستہ اشیاء جن کی اس مسجد کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور مسجد کے کام آسکتی ہیں، تو ایسی اشیاء دوسری ضرورت مند مسجد کو دے دی جائیں، ورنہ ان اشیاء کو چور یا زور آور لوگ یا اوقاف کے نگران ویسے ہی ہڑپ کر لیں گے۔ امام ابو شجاع نے بتایا کہ مجھ سے امیر نے اس طرح کی اشیاء کے دوسری جگہ استعمال کی اجازت کا فتویٰ دریافت کیا تو میں نے شرنبلالی کی متابعت میں منع کر دیا، بعد میں مجھے بتایا گیا کہ بعض دادا گیر لوگ اس مال کو ویسے ہی اٹھا کر لے گئے، تو مجھے اپنے فتویٰ پر ندامت ہوئی،

پھر اب میں نے ”الذخیرہ“ میں دیکھا، صاحب ذخیرہ لکھتے ہیں: ”فتاویٰ نسیمی“ میں ہے: شیخ الاسلام سے پوچھا گیا کہ ایک بستی کے لوگ اپنی مسجد کو ویران چھوڑ کر چلے گئے، بعض زور آور لوگ اس کی لکڑیوں (یعنی لمبے) پر قابض ہو گئے اور اسے اپنے گھروں کو لے گئے، تو کیا محلے کے کسی شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ قاضی کی اجازت سے لکڑیاں بیچ ڈالے اور قیمت بعض مساجد پر یا اسی مسجد پر صرف کرے؟، تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!۔

### مزارات پر حاضری

سوال: 186

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے والے زائرین مزاروں کو چومتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں، جو اپنی پیشانی اور ناک کو مزار کے ساتھ لگاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے، براہ کرم بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے کا صحیح اور مردہ جہ طریقہ بیان کریں؟، (سائل سردار محمد حبیب اللہ شاہین، مرشد آباد، آزاد کشمیر)۔

جواب:

علامہ ابن عابدین ”مطلب فی زیارة القبور“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ”زیارة قبور میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، جیسا کہ ”البحر الرائق“ میں ”الجبئی“ کے حوالے سے ہے، (بلکہ) اس کی صراحت کر دینی چاہئے۔ کیونکہ حدیث

میں اس کا حکم ہے، جیسا کہ ”الامداد“ میں ہے، (حدیث یہ ہے: کسنت نہیتکم عن زیارة القبور الا ضرور وها، (ترجمہ): میں نے (ابتداء میں) تمہیں زیارتِ قبور سے روکا تھا، تاہم زیارتِ قبور کیلئے جایا کرو، صحیح مسلم: 77-976، ترمذی: 1054)، اور ہر ہفتے قبرستان جانا چاہئے، جیسا کہ ”مختارات النوازل“ میں ہے، ”شرح لباب المناسک“ میں فرمایا: سنو! جمعہ، ہفتہ، پیر اور جمعرات کے دن قبرستان جانا افضل ہے، افضل یہ ہے کہ جمعہ کے دن نمازِ صبح کے بعد با وضو آئے، تاکہ واپس جا کر نمازِ جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ سکے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

”شرح اللباب للملا علی الفاری“ میں ہے: آداب زیارت کی بابت جو علماء نے بتایا، یہ ہے کہ زائرِ قبر کی پائنتی کی جانب سے آئے، ہر کی جانب سے نہ آئے، کیونکہ اس سے صاحبِ قبر کی توجہ میں دشواری ہوتی ہے (کیونکہ قبر میں میت کو قبلہ رو لٹایا جاتا ہے)، جب کہ پائنتی کی جانب سے آنے والا میت کے سامنے ہوتا ہے، اگر اس میں آسانی ہو، ورنہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات (یعنی المفلحون تک) میت کی سرہانے کی جانب پڑھیں اور آخری آیات (امن الرسول سے آخر تک) میت کے پیر کی جانب پڑھیں، اور آداب زیارت میں سے یہ بھی ہے کہ ”السلام علیکم“ کہے، ”علیکم السلام“ نہ کہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے: ”السلام علیکم دار قوم مؤمنین، وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، ونسأل اللہ لنا ولكم العافیة“، پھر آپ حالتِ قیام میں لمبی دعا فرماتے، اگر بیٹھ کر دعا کرنا چاہے تو حسب مرتبہ میت کی زندگی میں اس کے سامنے جتنے فاصلے پر بیٹھتا

تھا، اسی حساب سے بیٹھے۔۔۔۔۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

پھر ”سورۃ یٰسین“ پڑھے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کو ان سب اموات کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، بحوالہ البحر الرائق، اور ”شرح اللباب“ میں ہے: جتنا قرآن باسانی پڑھ سکتا ہے، پڑھے، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات (یعنی ہم المفلحون تک)، آیۃ الکرسی، بقرہ: 225، بقرہ: 285، سورۃ یٰسین، سورۃ الملک، سورۃ العنکبوت، سورۃ الاخلاص بارہ یا دس یا سات یا تین مرتبہ، پھر کہے: اے اللہ! جو کچھ ہم نے تلاوت کیا اس کا ثواب اس صاحبِ قبر اور جمع اہل قبور (مومنین) کی (ارواح) کو پہنچا، (رد المحتار علی الدر المختار جلد: 3 صفحات: 141-142 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

علامہ نظام الدین رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”زیارتِ قبور کے افضل ایام چار ہیں، پیر جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ جمعہ کے دن نماز کے بعد بہتر ہے، ہفتہ کے دن طلوع آفتاب تک جائے، جمعرات کے روز دن کے ابتدائی حصے میں اور ایک روایت دن کے آخری حصے کے بارے میں بھی ہے، اسی طرح مبارک راتوں میں جیسے شبِ برأت، مبارک ایام میں جیسے عشرۃ ذوالحجہ، عیدین، عاشورا اور دیگر مواقع پر، غرائب میں اسی طرح ہے“۔۔۔ آگے چل کر لکھا ہے:

”ابو بکر بن ابی سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: زیارتِ قبور کے موقع پر سات مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے، مجھے یہ روایت پہنچی ہے: کہ جس نے

ایصالِ ثواب کیلئے سات بار سورۃِ اخلاص پڑھی، اگر یہ میت پہلے سے مغفرت یافتہ نہیں ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر یہ میت پہلے سے مغفرت یافتہ ہے تو اس پڑھنے والے کی مغفرت فرمادی جائے گی، اور ثواب میت کو ہبہ ہوگا، ذخیرہ میں اسی طرح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ عالمگیری میں مزید لکھا ہے کہ۔۔۔۔۔۔۔۔ قبر کو نہ چھوئے اور نہ اسے بوسہ دے، کیونکہ یہ نصاریٰ کا طریقہ ہے، ماں باپ کی قبر کو بوسہ دینے میں حرج نہیں ہے،“ (فتاویٰ عالمگیری جلد: 5 ص: 351-350 مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں:

”زیارت ہر وقت جائز ہے، مگر شب میں تنہا قبرستان نہ جانا چاہئے اور زیارت کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے،“ (فتاویٰ رضویہ ج 9 ص: 523 رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں:

”مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پانچویں کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلہ پر مواجہہ میں کھڑا ہو اور متوسط آواز سے باادب سلام عرض کرے السلام علیک یا سیدی ورحمة اللہ وبرکاتہ پھر درودِ غوثیہ تین بار، الحمد شریف ایک بار، آیۃ الکرسی ایک بار، سورۃِ اخلاص سات بار، پھر درودِ غوثیہ سات بار، اور وقت فرصت دے تو سورۃِ یسین اور سورۃِ ملک بھی پڑھ کر اللہ عزوجل سے دعا کرے کہ الہی! اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے، جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اُسے میری طرف سے اس بندۂ مقبول کو نذر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی

ہو اس کے لئے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام“، (فتاویٰ رضویہ جلد: 9 صفحہ نمبر: 522-523، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور)۔

امام احمد رضا قادری سے پیر و مرشد کے مزار کے طواف، مزار اور مزار کی چوکھٹ کو بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے اور مزار سے الٹے پاؤں واپس آنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا:

”مزار کا طواف کہ محض نیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے۔ مزار کو بوسہ دینا نہ چاہئے، علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر بچنا، اسی میں ادب زیادہ ہے۔ آستانہ بوسی میں حرج نہیں اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شرع میں ممانعت نہ آئی، اور جس چیز کو شرع نے منع نہ فرمایا اس میں حرج نہیں۔ ہاں اگر اس میں اپنی یا دوسرے کی ایذاء کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراز کیا جائے“، (فتاویٰ رضویہ جلد: 9 صفحہ نمبر: 528، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور)

امام احمد رضا قادری سے مزارات اولیاء کرام کو چومنے یا شرک قرار دینے کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: فی الواقع بوسہ قبر میں علماء مختلف ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے جو دو چیزوں داعی (یعنی جو امر اس کے کرنے کا سبب بن رہا ہے) و مانع (یعنی وہ امر جو اس سے روکنے کا سبب بن رہا ہے) کے درمیان دائر، داعی محبت ہے اور مانع ادب، تو جسے غلبہ محبت ہو اس پر مواخذہ نہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہم سے ثابت ہے۔ اور عوام کیلئے منع ہی احوط ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی درجے میں مزار کو بوسہ دینا بعض صورتوں میں بر بنائے اختلاف علماء جائز بھی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی عوام کیلئے احتیاط اسی میں ہے کہ انہیں منع کیا جائے تاکہ آگے چل کر بات سجدے تک نہ پہنچ جائے، جو اگر بندگی کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہے اور محض تعظیماً کیا جائے، تب بھی حرام ہے، بقول شاعر

گس کو باغ میں گھسنے نہ دینا      کہنا حق خون پروانے کا ہوگا

یعنی شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، پھر اس سے شہد بنے گا اور اسی چھتے سے موم بھی بنتا ہے، موم سے شمع بنا کر جلائی جائے گی اور پھر پروانہ آکر اس پر نثار ہوگا اور اس کی جان جائے گی، یعنی امر ممنوع کے دواعی، اسباب اور محرکات (INLENTIVES) سے بھی بچنا چاہئے۔ مزار کی چوکھٹ کو چومنا مباح ہے، لہذا نہ اس کی ترغیب دی جائے اور نہ اس سے منع کیا جائے، کیونکہ حلال، حرام کا تعین شارع کا کام ہے۔

فاتحہ کا مفہوم، طریقہ، مروجہ فاتحہ کی شرعی حیثیت

**سوال: 187**

”فاتحہ“ سے کیا مراد ہے، مروجہ فاتحہ کی شریعت میں اصل اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟، (منور احمد نعیمی۔ ملیہ، کراچی)۔

**جواب:**

فاتحہ کی اصل ایصالِ ثواب اور دعا ہے اور یہ دونوں امور کتاب و سنت

سے ثابت ہیں اور ان میں کسی کا اختلاف نہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسے ”فاتحہ“ کیوں کہتے ہیں؟۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور بالعموم عامۃ المسلمین کے ہاں دعاء ایصالِ ثواب اور دعاء مغفرت میں سورۃ فاتحہ لازماً پڑھی جاتی ہے، یہ التزام شرعی نہیں بلکہ عرفی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی قرآنی سورتیں، رکوعات اور آیات مبارکہ حسب توفیق پڑھی جاتی ہیں اور درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو گویا سورۃ فاتحہ، اس مجموعی فاتحہ کا جزء ہے اور بعض اوقات جزء بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے قیام، قراءت، رکوع، یہ سب نماز کے اجزاء اور ارکان ہیں اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان میں سے ایک رکن یا جزء بول کر مکمل نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

(1) حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ ق وَفَرِّمُوا لِلَّهِ فَنِيئًا ۝

ترجمہ: ”اور تمام نمازوں کی پابندی کرو اور (خصوصاً) درمیانی نماز، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے قیام کرو“، (البقرہ: 238)۔

اس آیت میں قیام سے مراد نماز کے اندر قیام ہے، مطلقاً کھڑا ہونا مراد نہیں ہے، یعنی نماز کے تمام ارکان (قیام، رکوع، سجود، تشهد وغیرہ) پر قیام کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(2) لِمَا يَهَيِّئُ الْمُزْمَلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبُّهُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

ترجمہ: ”اے چادر لپیٹنے والے (محبوب) رات کو (نماز میں) قیام کریں مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں، یا اس سے کچھ زیادہ کر دیں اور (حسب



عادت) قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، (المزمل: 4 تا 1)۔

یہاں بھی قیام سے محض کھڑے ہو کر تلاوت کرنا مراد نہیں ہے بلکہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت کرنا مراد ہے۔

(3) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ط وَاللَّهُ يُغَيِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِرُكَ فَتَبَّ عَلَيْكُمُ الْفَاقِرُ وَأَمَّا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ط

ترجمہ: ”بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کو (نماز میں) قیام کرتے ہیں دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدھی رات، اور (کبھی) تہائی رات، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، (ان کی) ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، وہ جانتا ہے کہ (اے مسلمانو!) تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے، پھر اس نے (اپنی رحمت کے ساتھ) تم پر توجہ فرمائی، تو (نماز میں) جتنا تمہارے لئے آسان ہو (اتنا) قرآن پڑھ لیا کرو،“ (المزمل: 20)۔

یہاں پر بھی رات کو قیام کر کے مطلقاً قرآن پڑھنا نہیں بلکہ نماز کے اندر تلاوت مراد ہے، یعنی قرآن و قراءت سے نماز کو تعبیر فرمایا۔

(4) وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ترجمہ: ”اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ (البقرہ: 43)

یہاں رکوع سے محض حالت رکوع میں جھکنا مراد نہیں ہے بلکہ پوری نماز اور حالت نماز میں رکوع مراد ہے، اسی لئے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا: صَلُّوا مَعَ

الْمُصَلِّينَ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، بعض مفسرین نے اس سے جماعت کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔

امام احمد رضا قادری قدس سرہم العزیز سے دریافت کیا گیا کہ نیاز اور فاتحہ میں کیا فرق ہے اور نیاز و فاتحہ دینے کا مستحب طریقہ کیا ہے اور یہ کہ جس کی نیاز یا فاتحہ دلائی جائے اس کو ثواب کس طرح پہنچائے اور سوائے اس کے اور مسلمانوں کو کس طرح ثواب پہنچایا جائے؟۔

آپ نے جواب میں فرمایا:

”مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہا کھانے وغیرہ کے ساتھ پہنچایا جائے، عرف میں اسے ”فاتحہ“ کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اولیاء کرام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں، اسے تعظیماً ”نذرو نیاز“ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار یا سات بار یا گیارہ بار سورہ اخلاص، اول و آخر تین بار یا زیادہ بار درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کریں کہ الہی! میرے اس پڑھنے اور ان چیزوں (کھانا، کپڑا جو بھی ہوں ان سب کو شامل کر لے) کے دینے پر جو ثواب مجھے عطا ہو، اسے میرے عمل کے لائق نہ دے، اپنے کرم کے لائق عطا فرما اور اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلاً حضورِ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذر پہنچا، اور ان کے آباء کرام و مشائخ عظام اور اولادِ امجاد و مریدین، میرے ماں باپ اور فلاں اور فلاں اور سیدنا آدم علیہ السلام سے روزِ قیامت تک جتنے مسلمان ہو گزرے یا موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے سب کو ثواب

پہنچا، (احکام شریعت حصہ اول: 67)۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ چند آیات، سورتوں یا صدقے کا ثواب جمع مومنین کو کیسے پہنچ سکتا ہے اور اس سے سب کے سب کیسے فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ تو جواباً گزارش ہے کہ سورج کا نور ایک مادی نور اور حرارت ہے، اس سے ایک ہی وقت میں نصف کرۂ ارض فیض یاب ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے پڑھنے کے لئے کسی کھلے مقام پر ایک ٹیوب لائٹ یا سرچ لائٹ لگاتا ہے، اور اس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے لگتا ہے، اسی اثنا میں دوسو آدمی اور بھی آکر اس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے لگتے ہیں، سب کو یکساں روشنی ملتی ہے، اور جس شخص نے محض اپنی ذاتی منفعت کیلئے وہ روشنی لگائی تھی، اس کے حصے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر وہ یہ نیت کر لیتا کہ میرے ساتھ اس روشنی کا فیض دیگر انسانوں کو بھی پہنچے تو اس کا یہ عمل محض حسن نیت اور اخلاص کے باعث عبادت بن جاتا، کو یا اپنا مقصد بھی پورا ہوتا اور ثواب بھی پاتا، اسے کہتے ہیں: ہم خرماء ہم ثواب۔

اور قرآن میں ہے:

”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“

ترجمہ: ”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (یعنی منور فرمانے والا ہے)“، (النور: 35)۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ سورج اور چاند کا نور بیک وقت آدھی زمین کو منور کرتا ہے، غور کا مقام ہے کہ اگر ایک مادی نور ایک ہی وقت میں اربوں انسانوں اور آدھی زمین کو منور

کر سکتا ہے، تو اللہ کے کلام کے معنوی نور کا فیضان اور روحانی برکات ایک ہی وقت میں اربوں مومنوں اور ساری کائنات کو فیض یاب کیوں نہیں کر سکتیں؟، چنانچہ حدیث میں ہے: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَانِ أَوْ تَمَلُّا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ" (صحیح مسلم)۔

یعنی کلمہ "سبحان اللہ" اور "الحمد لله" (کانور) آسمانوں اور زمین کے درمیان تمام وسعتوں کو معمور کر دیتا ہے، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی کہ ہم مادی نور کے فیض عام کو تو مانیں، مگر آیات ربانی، کلام باری تعالیٰ، تسبیحات مقدّسہ اور درود شریف کے فیض عام کو نہ مانیں۔

اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

"فاتحہ ایصالِ ثواب کا نام ہے، جو کچھ قرآن مجید، درود شریف سے ہو سکے پڑھ کر ثواب نذر کریں اور ہمارے خاندان کا معمول یہ ہے کہ سات بار درودِ غوثیہ پھر ایک بار الحمد شریف و آیت الکرسی، پھر سات بار سورہٴ اخلاص اور پھر تین بار درودِ غوثیہ، درودِ غوثیہ یہ ہے:

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعِينِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔"

امام احمد رضا خان بریلوی سے دریافت کیا گیا کہ کیا فاتحہ کے لئے کھانے کا سامنہ رکھنا یا اسے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھنا یا دروازہ بند کر کے فاتحہ پڑھنا، کیا یہ امور فاتحہ کیلئے ضروری ہیں؟، آپ نے جواب دیا: "فاتحہ ایصالِ ثواب کیلئے ہے، کھانے کا پوشِ نظر

ہونا کچھ ضروری نہیں، اسی طرح حضرت خاتونِ جنت کی نیاز کا کھانا پردے میں رکھنا اور مردوں کو کھانے نہ دینا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، جو لوگ اپنی طرف سے ان امور کو بلا ثبوت ضرورت شرعیہ قرار دیں، انہیں تو بہ کرنی چاہیے، (مملخصاً از فتاویٰ رضویہ ج 4 ص 224 مطبوعہ مکتبہ رضویہ)۔

اسی طرح ایک مقام پر آپ نے فرمایا: کہ جس طرح شرعاً فاتحہ کے کھانے کا سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ایسا کرنے کی شریعت میں ممانعت بھی نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی ایسا کرے تو اسے ملامت نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک امر مباح ہے، شیخ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

(1) ”اگر کوئی شخص کوئی بکری گھریا لے تا کہ اس کا گوشت عمدہ ہو پھر اس کو ذبح کر کے اور پکا کر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھ کر کھلائے تو کوئی خلل نہیں۔“

(زبدۃ النصائح / فتاویٰ رضویہ مع تخریج و ترجمہ عربی عبارات، جلد 9 ص 566)

(2) ”جب میت کو کوئی فائدہ پہنچانا منظور ہو کھانا کھلانے پر موقوف نہ رکھے اگر میسر ہو تو بہتر ہے ورنہ سورہ فاتحہ و اخلاص کا ثواب بہترین ثواب ہے،“ (صراط مستقیم

ص 55 مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور / فتاویٰ رضویہ جلد 9 ص 572)

(3) شاہ ولی اللہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں:

”حضرت رسالت پناہ ﷺ کے ایام وفات میں کچھ میسر نہ ہوا کہ آپ حضرت کی نیاز کا کھانا پکایا جائے تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور قند سیاہ (گرٹ) پر فاتحہ کیا۔“

(انفاس العارفين ص 106 مطبوعہ المعارف گنج بخش روڈ لاہور / فتاویٰ رضویہ  
ج 9 ص 574)

(4) الدر الثمین میں اسی واقعہ کو اس طرح لکھا ہے:  
”بائیسویں حدیث، مجھے سیدی والد ماجد نے بتایا کہ حضور ﷺ کی نیاز کیلئے کچھ کھانا  
تیار کرنا تھا ایک سال کچھ کشائش نہ ہوئی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے میسر  
آئے وہی میں نے لوگوں میں تقسیم کئے، میں نے حضور اقدس ﷺ کو خواب میں  
دیکھا کہ ان کے سامنے یہ چنے موجود ہیں اور حضور مسرور و شادماں ہیں۔“  
(الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ص 40 مطبوعہ کتب خانہ علویہ / فتاویٰ رضویہ ج  
9 ص 574)

(5) ”تھوڑی شیرنی پر عموماً خواجگان چشت کے نام فاتحہ پڑھیں اور خدائے تعالیٰ  
سے حاجت طلب کریں، اسی طرح روز پڑھتے رہیں۔“  
(الانتباہ فی سلاسل الاولیاء ص 100 برقی پریس دہلی / فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 575)  
(6) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں اور  
مرشدوں کی طرح مانتی ہے اور امور تکوینیہ ان سے وابستہ جانتی ہے اور ان کے نام  
فاتحہ و درود اور صدقات کا معمول ہے اور ایسے ہی تمام اولیاء اللہ کے ساتھ یہی معاملہ  
ہے۔“

(تحفہ اثنا عشریہ باب ہفتم ص 214 مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور / فتاویٰ رضویہ

(7) مولوی خرم علی بلہوری لکھتے ہیں: ”حاضری حضرت عباس کی، صحنک حضرت فاطمہ کی، گیارہویں عبدالقادر جیلانی کی، مالیدہ شاہ مدارکا، سہ منی بوعلی قلندر کی، توشہ عبدالحق کا اگر منت نہیں صرف ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا منظور ہے تو درست ہے۔ اس نیت سے ہرگز منع نہیں اھ ملخصاً“، (نصیۃ المسلمین ص 41 چند شرکیہ رسمیں مطبوعہ سبحانی اکیڈمی لاہور/فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 577)۔

(8) شیخ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں:

اسی طرح اگر گذشتہ اولیاء قدس اللہ اسرارہم کیلئے نذر کرے تو جائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں انتقال کر جانے کے سبب نقد و جنس اور طعام سے نفع اندوز نہیں ہو سکتے بلکہ صرف ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پاک کو پہنچانا ہے۔ تو ان کے احوال بحالت حیات اور بعد وفات برابر ہیں، (زبدۃ المصالح/فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 579)۔

(9) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قرآن کی آیت ”والقمر اذا اتسق“ کے تحت لکھتے ہیں:

”وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریادری کا منتظر رہتا ہے اور اس وقت صدقے، دعائیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ موت سے ایک سال تک خصوصاً چالیس دن تک اسی طرح کی امداد میں بھرپور کوشش کرتے ہیں“، (تفسیر عزیزی ص 206 لال کنواں دہلی/فتاویٰ رضویہ

ج 9 ص 206)۔

(10) شاہ رفیع الدین محدث دہلوی سے فاتحہ کے بارے میں سوال کیا گیا:  
بز رکوں کی فاتحہ میں کھانوں کا خاص کرنا، مثلاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ میں  
کھجڑا، شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ میں توشہ وغیر ذلک، یوں ہی کھانے والوں کو  
خاص کرنا ان سب کا کیا حکم ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:  
فاتحہ اور طعام بلاشبہ مستحسن ہیں، اور تخصیص جو مختص (خاص کرنے والے) کا فعل ہے  
وہ اس کے اختیار میں ہے، ممانعت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص کر لینے کی مثالیں،  
سب عرف اور عادت کی قسم سے ہیں جو ابتدا میں خاص مصلحتوں اور خفی مناسبتوں کی  
وجہ سے رونما ہوئیں اور پھر رفتہ رفتہ عام ہو گئیں، (فتاویٰ شاہ رفیع الدین / فتاویٰ  
رضویہ ج 9 ص 590)۔

(11) ملا علی قاری کی المسلک المتعصّط میں ہے، اور اس کے حوالے سے ردالمحتار  
میں بھی نقل ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سات بار یا تین بار جس قدر میسر ہو  
پڑھے پھر یہ کہے کہ اے اللہ! ہم نے جو پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا ان سب کو  
پہنچا دے گا ملخصاً۔

شامی ہی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء نے ”باب الصحیح عن الغیر“ میں صراحت  
فرمائی ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے کیلئے کر سکتا ہے۔ نماز ہو یا روزہ یا  
صدقہ یا کچھ اور ایسا ہی ہدایہ میں ہے الخ، (المسلک المتعصّط فی المنسک المتعصّط مع



ارشاد الساری، فصل يستحب زیادة اهلی المصلی ص 334 مطبوعہ دارالکتاب العربیہ)، (رد المحتار مطلب فی القراءت للمیمت ج 1 ص 605 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)، (فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 2 0 6، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

(12) مسند احمد بن حنبل میں ہے: صوم یوم السبت لالک ولا علیک  
(مسند احمد بن حنبل حدیث امرءة رضی اللہ عنہا ج 6 ص 338 دار الفکر بیروت)  
تعمین عرفی میں نہ ضرر ہے اور نہ مزید فائدہ۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

(13) حضرت ابن حجر مکی سے سوال ہوا اگر اہل مقبرہ کیلئے فاتحہ پڑھی تو اب ان کے درمیان تقسیم ہو گا یا ہر ایک کو اس کا پورا ثواب ملے گا؟

انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے دوسری صورت پر فتویٰ دیا ہے اور وہی فضل ربانی کی وسعت کے شایاں ہے، (رد المحتار، مطلب فی القراءت للمیمت ج 1 ص 605 دار احیاء التراث العربی بیروت)، (فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 617)۔

یعنی سب کو پورا پورا اجر ملے گا اور پڑھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ایک بار شعبان کے آخری دن فضائل رمضان پر ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِنُدُوبِهِ وَعِتْقٌ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ  
أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ “۔

ترجمہ: ”جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور نارجہنم سے نجات ہوگی، اور اس کے لئے روزے دار کے ثواب میں کسی کمی کے بغیر روزے دار کے برابر اجر ہوگا“، (مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الصوم)۔

(14) جو مقابر پر گزرے اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب اموات کو بخشے بعد وتمام اموات کے ثواب پائے، (فتح القدر عن علی باب الحج عن الغیر ج 3 ص 5 6 مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)، (کنز العمال الرافعی عن علی حدیث: 42596 مؤسسۃ الرسالہ بیروت ج 15 ص 655)، (ردالمحتار عن علی مطلب فی اہتمام الثواب الاعمال للغیر ج 2 ص 257 مصطفیٰ البابی مصر)، (فتاویٰ رضویہ ج 9 ص 617)

باقی رہا یہ سوال کہ ایک آدمی کے کسی عمل کا ثواب دوسرے زندہ یا وفات پانے والے شخص کو کیسے مل سکتا ہے؟، تو جواباً عرض ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت دوسروں کیلئے دعا کی ترغیب آئی ہے اور حدیث میں جن دعاؤں کی قبولیت کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے، ان میں ایک ”الدُّعَاءُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ“ (یعنی کسی دینی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کیلئے دعا کرنا) ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(1) ”وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا“ ط  
(یعنی اے رسول) مومنوں کو فرما دیجئے (کہ تم اپنے ماں باپ کیلئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو) کہ اے میرے پروردگار: تو ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے (شفقت و محبت سے) پالا تھا“، (الاسراء: 24)۔

(2) ”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“

ترجمہ: ”(مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا مدح و ستائش کے انداز میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) اور جو ان کے بعد آئے وہ (بارگاہ خداوندی میں) عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ وفات پا چکے ہیں“، (الحشر: 10)۔

اسی طرح حج بدل (فرض ہو یا نفل) اور ایصالِ ثواب کی نیت سے، کسی کی طرف سے عمرہ کرنا یا کسی کے ایصالِ ثواب کیلئے مالی صدقہ دینا یا صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا یہ تمام امور بلا اختلاف جائز ہیں۔ اور کثیر احادیث مبارکہ سے یہ امور ثابت ہیں:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَلَّقْتُ بِهَا عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَحْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی عدم موجودگی میں وفات پا گئیں، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں غائب تھا اور اسی اثنا میں میری والدہ فوت ہو گئیں، تو (اب) اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا، آپ نے فرمایا: ہاں، انہوں نے عرض کیا: میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2756, 2762)۔

دوسری حدیث میں ہے: کہ حضرت سعد نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، آپ نے فرمایا: پانی کا، تو انہوں نے کٹواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لئے (صدقہ جاریہ) ہے، (صحیح بخاری ج 1 ص 386)۔

حنفیہ، مالکیہ، اور حنبلیہ اور غیر مقلدین (ملاحظہ ہو السراج الوہاج ج 2 ص 55 مؤلفہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی) سب کے نزدیک حج و دیگر عبادات اور مالی صدقات کے ساتھ ساتھ دعا، تلاوت، اذکار و تسبیحات اور درود پاک کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ  
يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ ط

ترجمہ: ”حاملین عرش اور اس کے گرد و نواح کے فرشتے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اہل ایمان کیلئے (اللہ تعالیٰ سے) بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔“

(الغافر: 7)

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ ط

ترجمہ: ”اور (اے حبیب!) آپ ان کیلئے استغفار کیجئے، بے شک آپ کی دعا و استغفار ان کیلئے طمانیت کا باعث ہے،“ (التوبہ: 103)۔

عن معقل بن يسار المزني ان النبي ﷺ قال من قرء يس ابتغاء وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤها عند موتك رواه البيهقي في شعب

الایمان، (مشکوٰۃ شریف ص: 189)۔

عقلی اعتبار سے اگر کسی کو اشتباہ ہو کہ تسبیحات، درود یا تلاوت سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ گالی گلوچ اور خبیث کلمات سے انسان کو روحانی اذیت پہنچتی ہے بلکہ ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ:

جراحة السنان يلنام جراحة اللسان لا يلنام

ترجمہ: ”کہ تیر و نشتر کے لگائے زخم تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگائے زخم (یعنی عداوت، بغض اور نفرت پر مبنی کلمات کے اثرات) کبھی مندمل نہیں ہوتے۔“

تو بڑی حیرت اور تاسف کا مقام ہوگا کہ ہم کلام الہی، تقدیس، تسبیح و تجمید باری تعالیٰ کے کلمات اور درود پاک کی روحانی تاثیر کا انکار کر دیں، کو یا کلماتِ شیطانی کی تاثیر کو تو مانیں مگر رحمانی کلمات کی تاثیر کو نہ مانیں۔ احادیث مبارکہ میں تو سورۃ فاتحہ کے وسیلہٴ شفاء ہونے، قرآنی سورتوں کی برکات، کلمات باری تعالیٰ کے رد بلا، وسیلہٴ شفاء، نذر بد سے بچاؤ اور دیگر جسمانی و روحانی برکات کے ساتھ ساتھ آخرت میں وسیلہٴ نجات و شفاعت کا ذکر موجود ہے، عذابِ قبر میں تخفیف کا بھی ذکر ہے۔

امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد (ج 2 ص 30) میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن نبی ﷺ نے دو سینگوں والے سرمیٰ خسی مینڈھے ذبح کئے، جب آپ نے ان کو قبلہ رخ گرایا تو یہ دعا پڑھی:

إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلْمَدِينِ فَطَرَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا  
 شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَن مُحَمَّدٍ  
 وَ أُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر انہیں ذبح کیا۔

امام ابوداؤد کی ایک اور روایت میں ہے:

”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ“، یعنی رسول اللہ ﷺ  
 نے دو مینڈھے ذبح کئے، ان میں سے ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری آل اور  
 امت کی طرف سے، یہی ایصالِ ثواب ہے، ہاں یہ سوال کہ ایک قربانی تو ایک فرد کی  
 جانب سے ہوتی ہے، پوری آل محمد اور امت کی جانب سے کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ رسول  
 اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

شادی کی قسم کھانا

سوال: 188

جناب عرض یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میری منگنی اپنے ماموں کے گھر  
 سے ہوئی لیکن اب گھریلو مسئلے کی وجہ سے انہوں نے رشتہ سے انکار کر دیا ہے، اور مجھے  
 ایک اور لڑکی پسند ہے اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور اس نے قرآن کی قسم کھائی ہے  
 کہ اگر اس کی شادی ہوئی تو صرف مجھ سے ہوگی اور میری بھی قسم ہے۔ دونوں کی قسم  
 ہے کہ اگر ہماری شادی آپس میں نہ ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ جناب اب آپ  
 اس مسئلہ کا حل بتائیں ہم کسی اور جگہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے یا

پھر قرآن پاک کی قسم کے بعد ہماری شادی صرف آپس میں ہی ہو سکتی ہے کسی اور سے نہیں کیونکہ دوسری جگہ شادی سے قسم روکتی ہے خودکشی بھی حرام ہے، جناب براہ کرم اس مسئلے کا کوئی حل ضرور بتائیں تاکہ ہم کوئی غلط اقدام نہ اٹھائیں، میری عمر 24 سال ہے اور میں بار بار کام کرتا ہوں اور روزنامہ ایکسپریس روز پڑھتا ہوں، حضور میں اب جواب کا انتظار کروں گا، (اعجاز حسین)۔

### جواب:

منگنی وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے لہذا آپ کی منگیتریا اس کے والد کو انکار کا حق حاصل ہے، آپ اور جس لڑکی نے باہم شادی کرنے کی قسم کھائی ہے، اگر دونوں کے والدین کی رضامندی سے آپ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو فیہما، ورنہ شادی نہ ہو سکنے کی صورت میں آپ دونوں پر قسم کا کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا، جو یہ ہے اپنے اوسط خرچ کے درمیان دس مساکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا اور یہ نہ کر سکیں تو تین دن کے روزے رکھنا، باقی خودکشی حرام ہے اور حرام چیز کی قسم کھا کر اس پر عمل کرنا بھی حرام ہے اور یہ دائمی عذاب کا باعث ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے۔

بلا ضرورت قسم کھانے کا حکم

سوال: 189

میرے شوہر نے مجھے فون پر ایک طلاق دی اور اس کے بعد فون ہی کے ذریعے رجوع کر لیا تھا، اور ہماری علیحدگی کو تقریباً تین سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے

اور کیونکہ میرے شوہر کی طبیعت میں شک موجود تھا/ ہے، اس لئے پچھلی زندگی میں ہر بات کی وضاحت کے لئے اللہ یا قرآن کی قسم کو ضروری سمجھتے تھے، اس لئے آئندہ کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے میں اور میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ میرے شوہر آکر قرآن کی قسم اٹھا کر یہ کہیں کہ آئندہ مجھ سے قسم نہ اٹھوائیں گے اور نہ ہی میرے گھر والوں سے تعلق منقطع کروائیں گے۔ جناب اعلیٰ کیا یہ شرعاً جائز ہے، فتویٰ جاری کیجئے۔  
 - شکر یہ (اُم لبتی) Al-Muslim Housing Society A1-67

(Scheme 33)

**جواب:**

اگرچہ مستقبل کے کسی ایسے کام کی یقین دہانی کیلئے، جس پر قائم رہنا شرعاً جائز ہے، قسم کھانا یا قسم لینا شرعاً جائز ہے لیکن شرعاً یہ پسندیدہ اور مستحسن امر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ط

ترجمہ: ”اور اللہ کی ذات (اور مقدس نام) کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ“،  
 (البقرہ: ۲۲۳)۔

قرآن مجید کی سورۃ القلم آیت نمبر 10 میں ایک دشمن رسول کے اوصاف ذمہ کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ”حلاف“ (یعنی بکثرت قسمیں کھانے والا) ہے۔ تاہم اگر آپ نے اپنے شوہر کو مجوزہ قسم دیدی اور اس نے قسم کھالی تو یہ شرعاً جائز ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:



وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ط

ترجمہ: ”اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو“، (المائدہ: ۸۹)۔

لیکن اگر خدا نخواستہ وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، جو قرآن مجید کی سورۃ المائدہ: کی آیت 89 میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اپنے اوسط معیار کے مطابق دس مساکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں لباس فراہم کرنا، اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ تین دن کے روزے رکھے، فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

عورت کا غیر محرم کے ساتھ مشترکہ خاندان میں رہنا

سوال: 190

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مہنوں کی وفات کے بعد اس کی بیوہ نے علم دین سے نکاح کر لیا، مہنوں سے ایک بیٹا سلام دین اور علم دین سے محمد نور ہے، بعد ازاں علم دین کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ اپنے پہلے مرحوم شوہر کے بیٹے سلام دین کے ساتھ رہنے لگی۔ سلام دین کی شادی ہوئی مگر جلد طلاق ہو گئی اب نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد۔ محمد نور شادی کر کے اپنی جوان بیوی کو سلام دین کے پاس چھوڑ کر آزاد کشمیر سے کراچی نوکری پر چلا گیا کچھ عرصے بعد محمد نور کی والدہ بھی فوت ہو گئی مگر اس کی جوان بیوی جس کے تین بچے اور پچاس بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے، ابھی تک سلام دین کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آیا محمد نور کی جوان بیوی، سلام دین (جس کا ماں کی طرف سے بھائی کا رشتہ ہے) کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب درکار ہے۔

(نذر حسین، F-75 اسٹاف ٹاؤن، کراچی یونیورسٹی)

**جواب:**

کوئی شخص اپنی بھابھی کے لئے محرم نہیں بنتا سوائے اس کے کہ کوئی اور ایسا رشتہ ہو جس سے وہ اس کا محرم بن جائے (مثلاً سلام دین نے اور محمد نور کی بیوی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو اور اس طرح دونوں کے درمیان رضاعی بہن بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں سلام دین، محمد نور کی بیوی کا رضاعی بھائی ہوگا اور محرم ہوگا) لیکن وہ مرد رشتے دار جو کسی بھی حوالے سے محرم نہیں بنتے ان کے ساتھ بے تکلف میل جول جائز نہیں ہے شرعاً وہ اجنبی عورت کے حکم میں ہے۔

حدیث میں ہے: عن عقبہ بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: "أياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الانصار: يا رسول الله أفرأيت الحمرة قال الحمرة الموت۔

ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اجنبی) عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو، انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! دیور کا کیا حکم ہے؟، فرمایا کہ دیور موت ہے،" (صحیح مسلم، رقم الحدیث 5570، جلد 9، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمات)۔

ایک اور حدیث میں ہے: لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان۔  
"کوئی مرد جب کسی (اجنبی) عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، تو ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے،" (رواہ الترمذی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم الحدیث 1171)۔

اور فرمایا: عن جابر، عن النبي ﷺ قال: لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان  
يمجري من احدكم مجرى الدم۔

ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ، جن کے شوہر موجود نہ ہوں، کیونکہ شیطان تمہارے وجود  
میں اسی طرح سرایت کرتا ہے جیسے تمہاری رکوں میں خون تیرتا ہے، (ترمذی، رقم  
الحدیث 1172 دارالکتب العلمیہ بیروت)۔

عن علی بن المحسین: كان النبي ﷺ في المسجد، وعنده ازواجه،  
فرحن، فقال لصفية بنت حبي: "لا تعجلي حتى أنصرف معك"۔ وكان  
بيتهما في دار أسامة، فنخرج النبي ﷺ معهما، فلقيه رجلان من  
الانصار، فنظر الي النبي ﷺ ثم أجازا، وقال لهما النبي ﷺ: "تعاليا، انهما  
صفية بنت حبي"۔ قالوا: سبحان الله يا رسول الله ﷺ، قال: "إن الشيطان  
يمجري من الانسان مجرى الدم، وانسى خشيت أن يلقي في أنفسكما  
شيئا"۔

ترجمہ: علی بن حسین سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مسجد میں تھے اور آپ کی ازواج  
مطہرات آپ کے پاس تھیں، وہ جانے لگیں تو آپ نے حضرت صفیہ سے فرمایا: ٹھہرو  
تا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں اور ان کا حجرہ حضرت اسامہ کے مکان میں تھا۔ نبی  
کریم ﷺ ان کے ساتھ نکلے تو آپ کو انصار کے دو شخص ملے، انہوں نے نبی کریم  
ﷺ کو دیکھا اور آگے نکل گئے۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں سے فرمایا: ادھر  
آؤ، یہ صفیہ بنت حبی ہے (یعنی میری بیوی ہے)۔ دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ

ﷺ: سبحان اللہ! (یعنی آپ کی ذات کے بارے میں مومن کسی بدگمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا)، آپ نے فرمایا: شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ (یا بدگمانی) ڈال دے، (صحیح بخاری، جلد 2 رقم الحدیث 2038، مطبوعہ مکتبۃ العصریۃ، بیروت)۔

صورتِ مسئلہ میں سلام دین ولد مہنوں اور محمد نور ولد علم دین کی بیوی کے درمیان حرمتِ نکاح کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے، سلام دین، محمد نور کا اخیافی (ماں کی طرف سے) بھائی ضرور ہے، لیکن اس کی بیوی اور سلام دین کے درمیان محرم ہونے کے کسی رشتے کا سوال میں تذکرہ نہیں ہے، لہذا محمد نور ولد علم دین کی بیوی کا سلام دین کے ساتھ اس طرح بے تکلف رہنا کہ ان کے خلوت میں ملنے کے مواقع ہوں، قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ محمد نور کی بیوی کا سلام دین سے پردہ لازم ہے۔ ہمارے ہاں مشترکہ خاندانی نظام (JOINT FAMILY SYSTEM) میں جہاں بہت سی خوبیاں ہیں، وہاں ایک خامی یہ ہے کہ شرعی حجاب، غیر محرم مرد سے اجتناب اور دونوں کے مابین خلوت سے کامل اجتناب کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، بشری کمزوریوں کے تحت بعض اوقات اس صورتِ حال سے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ شرعی احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ حقیقی بھائی (جسے عینی بھی کہا جاتا ہے) کی بیوی بھی اگر اپنے دیور یا جیٹھ کے ساتھ بعض مجبوریوں کے تحت ایک ہی مکان میں رہ رہی ہو، جسے عربی میں داریا ہمارے ہاں عرف میں حویلی کہتے ہیں، اس میں بھی اس خاتون کا یونٹ یا حجرہ الگ ہونا چاہئے، جس میں غیر محرم لوگوں کے بے تکلف آنے جانے پر پابندی ہو، اور گھریلو

کام کاج اور ضروریات کے لئے جب وہ خاتون اپنے ”ہیت سکنی“ یا حجرے سے باہر آئے تو ستر و حجاب کے شرعی حکم کا مکمل اہتمام کرے، ضرورت کی حد تک بات کرے، بے تکلف میل جول، خوش گپیاں اور آمنے سامنے آنے سے اجتناب کرے۔  
ہندوستان سے مسلمانوں کی کمپنی کے درآمد شدہ حلال ذبیحہ کا حکم

### سوال: 191

زید جو ایک مسلمان کاروباری ہے اور حلال گوشت کا کاروبار کرتا ہے، دوسرا شخص سلیم، زید کو حلال گوشت دینے کی پیشکش کرتا ہے، سلیم کا کہنا ہے کہ میں یہ حلال گوشت (بھینس کا بغیر ہڈی کا گوشت) کارٹن میں پیک انڈیا سے بذریعہ بحری جہاز منگوانا ہوں اور وہ گوشت دینے والی کمپنی بھی مسلمان کی ہے Allana Sons LTD ممبئی میں واقع ہے سلیم نے وہاں کی کمپنی ”محکمہ شرعیہ شہادۃ ذبح حلال“ کا سرٹیفیکیٹ بھی دیا ہے اور یہ گوشت اس وقت کراچی کی مارکیٹوں میں فروخت بھی ہو رہا ہے اور اس کمپنی نے Working Process کی C-D بھی دی ہے معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے کہ ”یہ حلال گوشت ہے“ اپنے کاروبار میں استعمال کر سکتے ہیں؟، (آصف قادری، لیاقت آباد نمبر 4 نزد اجمیری مسجد، کراچی)۔

### جواب:

سوال میں جو تفصیل آپ نے درج کی ہے، اس کے مطابق آپ مسلمان بھائی کی زبان پر اعتماد کر سکتے ہیں، جبکہ کمپنی کا مالک بھی مسلمان ہے اور وہاں کے علماء

نے اس کی توثیق بھی کر دی ہے، لیکن اگر کاروبار بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے تو آپ عین یقین کی حد تک اطمینان حاصل کرنے کے لئے پاکستان سے دو معتمد علماء کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ از اول تا آخر ذبح سے لے کر پیکنگ تک تمام Working Process کا مشاہدہ کر کے اس کے حلال ہونے کی تصدیق کریں، یا ہندوستان کے دو معتمد و مستند علماء کو بھی یہ ذمہ داری تفویض کی جاسکتی ہے اور ان کی دیانت پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، ”محکمہ شرعیہ شہادہ ذبح حلال“ کا ہمیں علم نہیں کہ یہ مسلمانوں کا غیر سرکاری ادارہ ہے یا حکومت ہندوستان کا قائم کردہ ہے، اس کے ارکان و ذمہ داران کون ہیں؟ سوال میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔

پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ میں حکومت کی طرف سے اضافی رقم

### سوال: 192

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کہ میں K-D-A میں ملازم تھا۔ 19 سال سروس کے بعد تقریباً 750 ملازمین کو کولڈن پنڈ شیک دے کر فارغ کر دیا گیا ہے۔ ہماری ماہانہ پینشن بھی مقرر کی ہے دوران سروس ہماری تنخواہ سے ماہانہ فنڈ کاٹا جاتا تھا۔ سروس سے فارغ کرتے وقت بالفرض ہمارے فنڈ میں پچاس ہزار روپے ہیں تو کورنمنٹ ہمیں ایک لاکھ دے گی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جو رقم ہمیں ملی ہے شرعی طور پر یہ کیسی ہے اور پینشن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مہربانی فرما کر مسئلہ حل فرمائیں؟، (محمد عرفان قادری)۔

## جواب:

پینشن چونکہ حکومت تبرعاً اپنے ملازمین کو دیتی ہے، چونکہ یہ شرائط ملازمت میں سے ہے، اس لئے ملازم کا استحقاق بھی بن جاتا ہے، یہ جائز ہے، اس کا دینا اور لینا دونوں جائز ہیں، اسی طرح جن اداروں میں یہ اصول ہے کہ ملازم کی تنخواہ سے جی پی فنڈ کی مد میں ماہانہ جتنی رقم کاٹی جائے گی، اتنی رقم وہ ادارہ اپنی طرف سے تبرعاً اس فنڈ میں جمع کرے گا، جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے: تو یہ اگر اس ادارے کی طرف سے بطور تبرع اور فضل و احسان کے ہے، تب بھی درست ہے اور اگر شرائط ملازمت کا حصہ ہے، تب بھی درست ہے۔

مسجد کے چندے پر حق الخدمت کی ادائیگی

## سوال: 193

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں جو مسجد اور مدرسہ کے لئے چندہ وغیرہ کرتا ہوں اس صورت میں چندہ کروں گا کہ اس چندے میں سے 15% کمیشن لوں گا، کیا ان کو 15% کمیشن دینا صحیح ہے، جبکہ وہ قاری صاحب اس ادارے کے باقاعدہ تنخواہ دار ملازم ہیں، شرعی حکم صادر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، (عبداللہ، گلشن اقبال، کراچی)۔

## جواب:

قرآن مجید میں ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

ترجمہ: ”زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں“، (التوبہ: 60)۔

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا کے تحت علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام (یعنی حاکم) صدقات کی وصول کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے اور ”البحر الرائق“ میں ہے کہ ”عامل“ عشر جمع کرنے والے اور وصول کرنے کے لئے کوشش کرنے والے کو بھی شامل ہے، اور ”عاشر“ سے مراد وہ شخص ہے جسے امام (حاکم) تجارتی گزرگاہوں پر، وہاں سے گزرنے والے تاجروں کے مال سے صدقہ لینے کے لئے مقرر کرتا ہے۔

”ساعی“ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو مختلف علاقوں میں لوگوں کے پاس جا کر ان سے جنگل میں چرنے والے مویشیوں کی زکوٰۃ وصول کرے اور (عامل کو) وصول کردہ زکوٰۃ و صدقات میں سے اتنا دیا جائے کہ آنے اور جانے کے زمانے میں ان کے اور ان کے کارکنوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو، مگر اسے اتنا نہ دیا جائے کہ اس کی وصول کردہ زکوٰۃ و صدقات کے نصف سے زائد ہو جائے، (روح المعانی، جلد 10 ص: 121، دار احیاء التراث العربی) وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا کا معنی اور اس کے شرعی احکام:

یعنی جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات کو وصول کر کے لاتے ہیں ان کو ان کی محنت اور مشقت کے مطابق مالی زکوٰۃ سے اُجرت دی جائے لیکن یہ اُجرت اتنی نہیں



ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی وصول کردہ تمام رقم یا اس کے نصف پر محیط ہو (عنایت القاضی ج ۲ ص ۵۸۷) اگر عامل کو اس مہم کے دوران کوئی شخص ذاتی طور پر کچھ ہدیہ اور تحفہ دے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ اس کو بھی وصول شدہ زکوٰۃ کی مد میں شامل کر دے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن ابی حمید الساعدی قال ان النبی ﷺ استعمل ابن اللتیبة علی صدقات بنی سلیم فلما جاء الی رسول اللہ ﷺ وحاسبه قال هذا الذی لکم ، و هذه هدیة اهدیت لی ، فقال رسول اللہ ﷺ ”فہلا جلست فی بیت ابیک و بیت امک حتی تاتیک ہدیتک ان کننت صادقاً“ ثم قام رسول اللہ ﷺ فخطب الناس ، و حمد اللہ و اثنی علیہ ، ثم قال : ”اما بعد ، فانی استعمل رجالا منکم علی امور مما ولانی اللہ فیاتی احدکم فیقول : ہذا لکم و ہذہ ہدیة اهدیت لی ، فہلا جلس فی بیت ابیہ و بیت امہ حتی تاتیہ ہدیتہ ان کان صادقاً ، فواللہ ، لا یأخذنا احدکم منها شیئاً ، قال ہشام بغیر حقہ ، الا جاء اللہ یحمله یوم القیامة الا فلا اعرفن ما جاء اللہ رجل ببعیر لہ رغماء او بسقمرۃ لہا خورار او شاة تیعر“ ثم رفع یدیہ حتی رایت بیاض ابطیہ :

”الا اهل بلغت“۔

ترجمہ: ”حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: نبی ﷺ نے ابن اللتیبة کو بنو سلیم کے صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا، جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے حساب لیا تو اس نے کہا: یہ وہ مال ہے جو آپ کے لیے دیا

گیا ہے اور یہ وہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں بیٹھے رہتے حتیٰ کہ تمہارے پاس یہ ہدیے آتے، پھر رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: میں تم میں سے کسی شخص کو کسی ایسے کام پر عامل بنانا ہوں، جس کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، پھر تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے: یہ حصہ آپ کے لئے ہے اور یہ حصہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، پس وہ شخص کیوں نہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کے پاس ہدیہ آتا، اگر وہ سچا ہے، اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی اس مال میں سے جو چیز بھی ناحق لے گا، مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کو اس کے اوپر لا دے گا، سنو! میں اس شخص کو قیامت کے دن ضرور پہچان لوں گا، جس کے اوپر اللہ بلبلا تا ہوا اونٹ لا دے گا اور جس کے اوپر ڈکارتی ہوئی گائے لا دے گا یا مینا کی بکری لا دے گا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی (کی جگہ) دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: سنو! کیا میں نے (اللہ کا) پیغام پہنچا دیا ہے؟، (صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۷۱۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۲)، (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۳۶، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۶۶۹)۔

عن عمیر بن عمیرة المکندی۔ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: "من استعملناہ منکم علی عمل، فکتمنا محیطاً فما فوقہ، کان غلواً یأتی بہ یوم القیامة" قال بفقام الیہ رجل أسود، من الانصار؛ کأنی أنظر الیہ۔ فقَالَ: یا رسول اللہ ﷺ! اقبل عنی عملک۔ قال: "و مالک؟" قال: سمعتک

تقول كذا وكذا قال: "وأنا أقول له الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجزي بقليله و كثيره فمما أوتى منه أخذ، وما نهى عنه انتهى"۔

ترجمہ: "حضرت عدی بن عمیرہ کندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! تم میں سے جس شخص نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا پھر اس میں سے کوئی چیز چھپالی خواہ وہ سوئی ہو یا اس سے بھی کمتر چیز تو وہ خیانت ہے اور وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا تب ایک سیاہ فام انصاری اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ! اپنا عمل مجھ سے لے لیجئے، آپ نے پوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے سنا ہے، آپ نے فرمایا: میں نے یہ کہا ہے کہ جس کو ہم کوئی کام سونپیں تو وہ قلیل اور کثیر ہر چیز لے کر آئے، پھر اس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جو نہ دیا جائے وہ نہ لے۔"

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۸۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۱)

علامہ علاؤ الدین حصکفی مصارفِ زکوٰۃ کی بحث میں لکھتے ہیں:

(و عامل فیعطی) ولو غنیاً لا ہاشمیاً، لانہ فرغ نفسه لہذا العمل۔

ترجمہ: "اور عامل کو اس مال میں سے دیا جائے گا اگرچہ وہ غنی ہو لیکن ہاشمی نہ ہو، اس لئے کہ اس نے اپنی ذات کو اس کام کے لئے فارغ کیا ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتے ہیں (بقدر عملہ) اس کے عمل کی مقدار (یعنی محنت) کے مطابق،" (ردالمحتار علی

الدرالمختار جلد 3 ص: 257 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ "عامل زکوٰۃ جسے حاکم اسلام نے

اربابِ اموال سے تحصیلِ زکوٰۃ پر مقرر کیا، وہ جب تحصیل کرے تو بحالتِ غنا بھی بقدر اپنے عمل کے لے سکتا ہے، اگر ہاشمی نہ ہو۔ (فتاویٰ رضویہ: جلد 10، ص: 110، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

خلاصہ کلام یہ کہ عاملینِ زکوٰۃ و عشر (یعنی زکوٰۃ، صدقات اور عشر کی وصولیابی پر مامور افراد) کے لئے شریعت نے حقِ الخدمت کو جائز رکھا ہے اور یہ حقِ الخدمت اسے اس کی وصول شدہ زکوٰۃ و عشر میں سے دیا جاسکتا ہے اور قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جہاں مصارفِ زکوٰۃ و صدقات کی آٹھ مدت (Categories) کو بیان کیا گیا ہے، ان میں تیسری مدت ”عاملینِ زکوٰۃ“ کی ہے، بشرطیکہ وہ عامل غیر سید ہو، فقہائے کرام نے مزید تصریح کی ہے کہ عاملِ زکوٰۃ خواہ غنی ہو، اسے اس کی وصول شدہ زکوٰۃ ہی سے حقِ الخدمت دیا جائے گا۔ لیکن فقہائے کرام نے اس کی شرح متعین نہیں کی بلکہ حکومتِ اسلامیہ یا متعلقہ ادارے کی صوابدید پر چھوڑا ہے کہ اس کی محنت کے مطابق اسے حقِ الخدمت عطا کر دیں، لیکن یہ اجرت اس کی وصول شدہ زکوٰۃ کے نصف سے زائد نہ ہو، اور جب زکوٰۃ و عشر (یعنی صدقات واجبہ) میں سے عامل یعنی کارکن کو اجرت دی جاسکتی ہے تو مسجد کے چندے میں سے (جو نفلی صدقہ یا عطیہ ہے) بطریقِ اولیٰ دی جاسکتی ہے۔

اب صورتِ مسئلہ میں اگر مسجد و مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنا قاری صاحب کے فرائضِ منصبی و شرائطِ ملازمت میں شامل ہے، تو ان کے لئے علیحدہ اجرت کا مطالبہ جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی ان کی منصبی ذمہ داری صرف تدریس، امامت و

خطابت یا بطور مؤذن خدمات انجام دینا ہے، تو ان کے لئے اپنی اضافی خدمات (یعنی چندہ جمع کرنے) کا معاوضہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، حق الخدمت یا اجرت کار کی شرح کا تعین انتظامیہ کا اختیار ہے اور جو معاملہ فریقین کی رضامندی سے طے پائے، وہ جائز ہے۔ سلف صالحین و فقہائے کرام نے صرف یہ شرط عائد کی ہے کہ عامل کو اس کی جمع کردہ رقم کے نصف سے زائد اجرت نہ دی جائے۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

## ﴿متفرق﴾

کیا عصری علوم کے ماہرین بھی قرآن وحدیث میں بیان کردہ  
فضیلتِ علم کے حق دار ہیں؟

سوال: 194

وہ آیات یا احادیث جن میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیا یہ  
صرف علماء اور دینی علوم کے ساتھ ہی خاص ہے یا دنیاوی علوم کے ماہرین مثلاً ڈاکٹر  
، سائنس دان وغیرہ اور عصری علوم بھی شامل ہیں؟، قرآن وحدیث کی روشنی میں  
جواب عنایت فرمائیں۔ (محمد طاہر سرفراز، اندروٹھ نکلیال آزاد کشمیر)

جواب:

علم فی نفسہ وجہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ سدھائے ہوئے اور تربیت  
یا فتنہ شکاری کتے اور عقاب کو اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار حلال  
ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ لَا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ  
الْحَيَاةِ مَكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ز فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ  
وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ص وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

ترجمہ: ”(اے رسول مکرم! لوگ) آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ان  
کے لئے حلال کی گئی ہیں، فرمادیجئے! تمہارے لئے پاک چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں  
اور تم نے جو شکاری جانور سدھائے لئے ہیں، دراصل حالیکہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے

والے ہو، تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو، جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، سو اس شکار سے کھاؤ جس کو وہ (شکاری جانور) تمہارے لئے روک رکھیں اور (شکار پر چھوڑتے وقت) اس (شکاری جانور) پر تم اللہ کا نام لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔“ (المائدہ: 4)

یہاں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں کہ شکاری جانوروں کے شکار کے حلال ہونے کی فقہی شرائط اور شرعی ضوابط کیا ہیں، بس اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ شکاری جانور کو شکار کیلئے سدھانے اور تربیت دینے پر اسے یہ امتیاز حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا شکار شرعی شرائط کے ساتھ حلال ہے، یعنی علم علی الاطلاق باعث فضیلت ہے اور قرآن کی تو پہلی وحی ہی قراءت اور علم سے متعلق ہے، اولین وحی قرآنی پر مشتمل سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات ملاحظہ فرمائیے۔ پھر قرآن میں انسان کے ادوار تخلیق کا ذکر ہے، جو براہ راست بیالوجی (Biology) سے متعلق ہے، نظام فلکی، شمس و قمر اور سیاروں کا ذکر ہے، جو فلکیات اور بالائی فضا (Astronomy) سے متعلق ہے، بادلوں کی تشکیل اور ہواؤں کی ترسیل کا ذکر ہے جو موسمیات (Metrology) کا علم ہے، تغیر بحر کا ذکر ہے جو بحریات (Oceanology) کا علم ہے، پوروں کا ذکر ہے، جو دست شناسی (Palmistry) کا علم ہے، بحری حیات و حیوانات کا ذکر ہے، فولاد اور اس کے منافع کا بطور خاص تذکرہ ہے، جو دھات سازی یا حدیدیات (Metallurgy) کا علم ہے، سورۃ سبا آیت: 7 میں ایٹم (یعنی بنیادی غیر

منقسم اکائی، جسے سائنسی زبان میں نیوٹرون اور پروٹون کہتے ہیں) کا اشارتاً ذکر ہے، شہد اور شہد کی مکھی، مکڑی اور اس کے جالے، مچھر، پرندوں، غرض ہر طرح کے ذی حیات جانوروں کا ذکر ہے، زراعت و نباتات کا ذکر، پہاڑوں یعنی جبکیات کا الگ سے ذکر ہے، سورۃ الرحمن کی آیت: 33 میں تسخیر خلا کے امکان کا بھی ذکر ہے، الغرض کوئی شعبہ علم ایسا نہیں جس کا قرآن وحدیث میں صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً ذکر نہ ہو۔

لہذا اپنی اپنی جگہ ہر شعبے کا علم اہمیت رکھتا ہے، البتہ یہ امر مسلم ہے کہ علوم میں باہم تفضیل (یعنی ایک علم کی دوسرے علم پر فضیلت) کی نسبت موجود ہے، بعض علوم عالیہ ہیں اور بعض آلیہ، بعض کا تعلق معاد سے ہے اور بعض کا ابتدا و ارتقاء کائنات اور اس دنیا سے ہے، بعض کا تعلق حیات ظاہری سے، بعض کا حیات برزخی سے اور بعض کا آخرت سے ہے۔ بعض کا تعلق ذات باری تعالیٰ، ذات رسول ﷺ، جملہ ایمانیات و عقائد اور عبادات سے ہے، بعض کا معاملات سے ہے، بعض کا حقوق اللہ اور بعض کا حقوق العباد سے ہے، پھر یہ بھی ایک مسلم امر ہے کہ علم کی فضیلت کا مدار موضوع کی فضیلت پر ہے، لہذا جملہ دینی علوم (یعنی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، علم العقائد و الکلام اور وہ جملہ معاون علوم جو کتاب و سنت کو براہ راست سمجھنے کا وسیلہ بنتے ہیں) اعلیٰ ہیں اور ان کے مقابل عصری علوم (جن میں تمام سائنسز، ٹیکنالوجیز، حسابیات، نظمیات (Administration)، معاشیات، سماجیات، ادبیات، تاریخ وغیرہ تمام شعبے آجاتے ہیں) ادنیٰ ہیں، لیکن عصری علوم کا ادنیٰ ہونا



، دینی علوم کے مقابل ہے، یعنی یہ ایک اضافی اصطلاح ( Relative Term) ہے فی نفسہ اس سے کسی علم کی تنقیص ثابت کرنا مقصود نہیں۔ ہاں جو علوم کفر یا ضلالت ہیں، وہ باطل ہیں اور ان کا سیکھنا بھی باطل ہے۔

پھر علم، خواہ وہ قرآن وحدیث یا دیگر دینی علوم ہی کیوں نہ ہوں، ان میں یہ امر بھی معتبر ہے کہ انہیں کس مقصد کیلئے حاصل کیا جا رہا ہے یا حاصل کیا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے:

”عن كعب بن مالك قال: قال رسول ﷺ: من طلب العلم ليحاري به العلماء او ليحاري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار“

ترجمہ: ”کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو علم اس لئے حاصل کرے کہ اس کے بل پر علماء کے مقابل اپنی برتری قائم کرے یا نادان و کم عقل لوگوں پر بحث میں غالب آئے یا علم کے ذریعے لوگوں کو اپنی جانب مائل کرے (یعنی دنیوی منافع حاصل کرے) تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا“، (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی وابن ماجہ بروایۃ عبد اللہ بن عمر)۔

”حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ایسا علم جسے صرف رضاءِ الہی کیلئے حاصل کرنا چاہیے، اسے کوئی شخص منافع دنیا پانے کے لئے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا“، (مسند

احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ 35-34)۔

مشکوٰۃ شریف (صفحہ: 470) میں جامع ترمذی کے حوالے سے علامات قیامت کا بیان ہے:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے گا، زکوٰۃ کو نانا سمجھ لیا جائے گا، اور دین سیکھا جائے گا مگر دین کے لئے نہیں (بلکہ دنیا کمانے کے لئے)، ایک شخص اپنی بیوی کی فرماں برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور اپنے دوست کو قریب رکھے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور رکھے گا، مسجد میں شور و شغب ہوگا، قوم کا بدکار شخص ان کا سردار ہوگا، قوم کا سب سے کمینہ شخص ان کے معاملات کا مختار ہوگا، کسی شخص کی عزت (اس کے علم و کردار کی بنا پر نہیں بلکہ) اس کے شر سے بچنے کے لئے کی جائے گی، گانے بجانے والیوں اور آلات غنا کا دور دورہ ہوگا، شراب (عام) پی جائے گی، اس اُمت کے بعد والے اپنے پہلوں پر لعن طعن کریں گے، تو ایسے دور میں سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دھنس جانے، صورتوں کے مسخ ہونے، آسمانوں سے سنگباری ہونے، الغرض (قیامت کی) ایسی نشانیوں کا انتظار کرنا جو اس طرح پے در پے نازل ہوں گی، جیسے جواہرات کے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے ہیرے ایک ایک دانہ کر کے گرنے لگیں۔“

اس طویل حدیث میں علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ ”علم دین کو محض دنیا کمانے کے لئے حاصل کیا جائے گا۔“

لہذا علم دین اور دیگر امور خیر پر بھی اجرِ آخرت کا مدار اس پر ہے کہ بندے نے وہ عمل محض رضاءِ الہی، تَقَرُّبِ الہی اور اجرِ آخرت کے لئے کیا ہو، ورنہ دنیوی اعتبار سے بظاہر نیک عمل پر بھی آخرت میں اجر کا حق دار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر عمل بظاہر خالص دنیوی ہو، لیکن مقصود اللہیت اور رضاءِ الہی ہو تو اس پر بھی اجر ملے گا، مثلاً رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انفاق فی سبیل اللہ“ کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، (ریاض الصالحین بحوالہ صحیح مسلم)۔ ایک اور روایت میں فرمایا: ”وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا“، (ریاض الصالحین بحوالہ صحیحین، باب النفقة علی العیال)۔

اب آئیے ان علوم کی طرف جنہیں عصری علوم کہتے ہیں، یہ سائنسز، ٹیکنالوجیز، سوشل سائنسز، اقتصادیات، ادبیات، حسابیات اور نفسیات وغیرہ کے اتنے شعبے ہیں کہ ان کا احاطہ دشوار ہے، صرف میڈیکل سائنس یعنی علم الطب ہی کو لے لیجئے، آج کل یہ علم اتنا پھیل چکا ہے کہ جسدِ انسانی کے تقریباً ہر ہر عضو کے ماہرین الگ الگ ہیں۔ یہ علوم فی نفسہ مباح ہیں، ان میں سے بیشتر علوم میں کسی نہ کسی حوالے سے انسان کی فلاح ہے۔ اگر کوئی شخص ان علوم کو اس لئے حاصل کرتا ہے کہ ان سے دنیا کمائے، عیش و عشرت کرے، نفسانی شہوات و خواہشات کو پورا کرے، دوسرے انسانوں کا استحصال کرے تو یہ راستہ معصیت

کا راستہ ہے۔

اگر کوئی شخص ان علوم کو اس لئے حاصل کرتا ہے کہ ان کے ذریعے حلال طریقے سے اپنی اور اپنے زیر کفالت افراد کے لئے حلال روزی کمائے، تو یہ نیک عمل ہے، وہ اس پر ماجور ہوگا۔ اگر ساتھ ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہے کہ اپنے اس علم و فن یا ہنر سے انسانیت بالخصوص مسلمانوں کی خدمت کرے گا، تو یہ ایک طرح سے عبادت ہے۔

حیات و کائنات اور انفس و آفاق پر ماہرانہ نظر رکھنے والے مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت پر ہر اس شخص سے زیادہ راسخ ہوگا، جو ان علوم سے بے بہرہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(1) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط  
ترجمہ: ”ہم عنقریب انہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھائیں گے آفاق (عالم) میں اور خود ان کی اپنی ذات میں، یہاں تک کہ ان پر خوب واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی (قرآن) حق ہے“، (الشوریٰ: 53)۔

(2) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝  
(ترجمہ): ”سورج اور چاند ایک حساب (اور کنٹرول) کے تابع ہیں“، (الرحمن: 3)۔

(3) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَلْبَرُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ

الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيهِ فَلَكَ يُسَبِّحُونَ ۝

ترجمہ: ”اور سورج اپنے مستقر پر رواں دواں ہے، یہ مقررہ نظام ہے، ایک ایسی ہستی کا جو بڑے علم اور غلبے والی ہے، اور ہم نے چاند کیلئے بمنزلیں مقرر کر رکھیں ہیں یہاں تک کہ (آخر ماہ میں وہ) کھجور کی خشک شاخ کی طرح (باریک) ہو جاتا ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ (جاتے جاتے) چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے، (بس) ہر ایک (اپنے اپنے) مدار میں تیر رہا ہے“، (یسین: 38 تا 40)۔

(4) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

ترجمہ: ”بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں اہل عقل و خرد کیلئے (اللہ تعالیٰ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں“، (آل عمران: 190)۔

ان آیات کو غور سے پڑھئے اور پھر سوچئے کہ اگر کوئی حیات و کائنات اور فلکیات کا ماہر صاحب ایمان جب کائنات اور خود انسانی ذات میں قدرت کی بے پایاں نشانیوں کا اپنے علم کی روشنی میں مشاہدہ و مطالعہ کرے گا تو اس کا ایمان کتنا صادق، قوی اور راسخ ہوگا۔ اور ذرا سوچئے: اگر چاند پر اترنے والا پہلا خلا نورد مسلمان ہوتا، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں پرچم اسلام ہوتا تو کیا دنیا پر اسلام کی عظمت و سطوت کا نقش مثبت نہ ہوتا؟۔ آج ہم مغرب اور اہل مغرب سے کیوں مرعوب ہیں، محض ان کی سائنسی، فنی، صنعتی، تجارتی، حربی اور اقتصادی برتری کے باعث، اور اس

کے حصول کا سبب عصری علوم پر ان کی مکمل دسترس اور غلبہ ہے۔

اگر وہ ان علوم کو اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ ان میں مرتبہ کمال حاصل کر کے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے اور باطل کو مغلوب کرے، اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس لائے تو یہ بہت بڑی سعادت و عبادت ہے، اگر ایسا شخص عام زندگی میں دینی فرائض، واجبات اور سنن کا پابند ہے، مگر بقیہ وقت نیک نیتی کے ساتھ غلبہ اسلام کے لئے علوم جدیدہ یا عصری علوم میں مہارت کے لئے صرف کرتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نفلی نمازیں پڑھنے والے، نفلی روزے رکھنے والوں سے زیادہ اجر عطا کرے۔

ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے اور دین میں تَفَقُّہ اور مہارت نامہ پیدا کرنا، یہ امت پر فرض کفایہ ہے، بالکل اسی طرح دور حاضر کے ان تمام سائنسی و فنی علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جن کے بغیر قوموں کی مادی ترقی عملاً ناممکن ہے اور جن میں مہارت کے باعث کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ مسلمانوں پر غالب آچکے ہیں اور مسلمان اس وقت قعر مذلت میں گرے ہوئے ہیں، لہذا موجود میں اسباب ظاہری اور زمینی حقائق کی رو سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ادبار و تخرُّل کا یہ دور شاید کبھی ختم نہ ہو، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسباب اس کی مشیت کے تابع ہیں، وہ مافوق الاسباب آن واحد میں چاہے تو کایا پلٹ دے، لیکن عروج و زوال اُمم کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ مُسْتَمِرَّة بھی ہے۔ لہذا میری ناقص فہم کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کے لئے عصری علوم کا حاصل

کرنے والا علمی فضیلت کی تمام برکات و ثمرات کا حق دار ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا درجہ دینی علوم کے بعد ہے۔

مقررہ تعداد میں اور دو وظائف اور تسبیحات و اذکار کی حکمت

### سوال: 195

بعض مواقع پر لوگ ایک خاص تعداد میں تسبیحات اور وظائف پڑھتے ہیں، کھجور کی گٹھلیوں یا دانوں پر پڑھتے ہیں یا تسبیح کا استعمال کرتے ہیں، اس تعداد کے تعین اور اس طریقہ کار کی اصل کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، (محمد عتیق الرحمن شہدادپور، ضلع ساگھڑ)

### جواب:

پہلے چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

(1) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من قال: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرٍ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ مَحِيَّتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِالْفَضْلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ متفق علیہ۔

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک دن میں سو بار "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" پڑھا تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر

ثواب ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں سونکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سوگناہ معاف ہوں گے اور وہ اس دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور کسی کا عمل اس سے افضل نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ عمل خیر کرے، (مشکوٰۃ: 201)۔

(2) عن ابی ہریرۃ قال جاء ت فاطمة الى النبی ﷺ تسأله خادمًا فقال الا ادلك على ما هو خیر من خادم تسبحین الله ثلاثاً و ثلاثین و تحمدین الله ثلاثاً و ثلاثین و تکبرین الله اربعاً و ثلاثین عند کل صلوة و عند منامک۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادم کا سوال کیا، آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے: ہر (فرض) نماز کے بعد اور سوتے وقت تینتیس بار ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ تینتیس بار ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اور چونتیس بار ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھا کرو۔“

(مشکوٰۃ: 209)

(3) عن ابی سعید قال قال رسول الله ﷺ من قال حين يماوى الى فراشه: ”اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوْبُ إِلَيْهِ“ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَان كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدِ مِلِّ عَالِجٍ أَوْ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا۔

ترجمہ: ”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے



فرمایا:

جو شخص (رات کو) بستر پر سوتے وقت تین بار یہ دعا پڑھے: ”اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا  
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوْبُ إِلَيْهِ“، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا،  
خواہ وہ سمندر کی جھاگ یا کسی ریت والی وادی کی ریت یا درخت کے پتوں یا دنیا کے  
ایام کے برابر ہوں“، (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی: 211)۔

(4) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ من سبح اللہ فی دہر کل صلوة  
ثلثا و ثلاثین و حمد اللہ ثلثا و ثلاثین و کبر اللہ ثلثا و ثلاثین فتلك  
تسعتو تسعون وقال تمام المائة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله  
الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياہ وان كانت مثل زبد البحر۔  
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
جس نے ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیس بار ”سُبْحَانَ اللّٰهِ“، تینتیس بار ”  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ اور تینتیس بار ”اللّٰهُ اَكْبَرُ“ پڑھا اور یہ (تسبیحات کی کل) تعداد  
99 ہو جائے گی، اور فرمایا (ایک بار) ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  
الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پڑھنے سے (یہ تعداد) پوری  
100 ہو جائے گی، تو اس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی  
جھاگ کے برابر ہوں“، (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم: 89)۔

(5) وعن عثمان بن ابی العاص انه شكى الى رسول الله ﷺ وجعاً

يحدثه في جسده فقال له رسول الله ﷺ ضع يدك على الذی يالم من

جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: "أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأُحَاذِرُ" قال ففعلت فاذهب الله ما كان بهي۔

ترجمہ: "حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے بدن میں درد کی شکایت کی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: تمہارے جسم میں جہاں پر درد ہے، وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو اور (پھر) تین بار "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" پڑھو (اور اس کے بعد) سات بار یہ دعا پڑھو: "أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ وَأُحَاذِرُ" (اس دعا کا ترجمہ یہ ہے:)" میں ہر اس چیز کے شر سے، جو مجھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا مجھے اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت (وجلال) اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں"، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے درد سے نجات عطا فرمادی، (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح مسلم: 134)۔

(6) وعن ابان بن عثمان قال سمعت ابي يقول قال رسول الله ﷺ ما من عبد يقول في صباح كل يوم و مساء كل ليلة باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء فكان ابان قد اصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر اليه فقال له ابان ما تنظر الي اما ان المحدث كما حدثك ولكني لم اقله يومئذ ليمضى الله على قدره رواه الترمذى وابن ماجه وابو داؤد وفي رواية لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجاءة بلاء

حتیٰ یحسی۔

ترجمہ: ”حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر روز صبح کے وقت اور ہر رات شام کو تین بار یہ دعا پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، (وہ دعا یہ ہے) ”بِسْمِ اللّٰهِ الْمَدِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“، اس کے بعد (ایک موقع پر) حضرت ابان کو (جسم کے کسی حصے میں) فالج ہو گیا، تو ایک شخص (جس نے ان سے یہ حدیث سنی تھی، حیرت سے) انہیں (سوالیہ انداز میں) دیکھنے لگا، کہ کو یا پوچھ رہا ہو کہ آپ نے تو یہ دعا پڑھ لی ہوگی، تو پھر آپ پر فالج کا یہ حملہ کیسے ہو گیا، تو حضرت ابان نے (اس کی آنکھوں میں سوال کی چمک محسوس کر کے) اس سے فرمایا کہ تم میری جانب (سوالیہ انداز میں) کیوں دیکھ رہے ہو؟ حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی تقدیر میں اس خاص موقع پر اس بیماری نے مجھے لاحق ہونا تھا، اس لئے میں اس روز (بھول گیا اور) یہ دعا پڑھ نہ سکا۔“

(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی، ابن ماجہ و ابو داؤد: 209)

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: ”اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے، کہ جس کے اسم مقدس (کی برکات) شامل حال ہوں تو زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔“

(7) وعن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ ما من عبد مسلم يقول اذا امسى

وإذا أصبح ثلثا رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً الا كان حقاً  
على الله ان يرضيه يوم القيمة -

ترجمہ: ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو  
مسلمان بندہ (ہر روز) صبح و شام کے وقت تین بار یہ دعا پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ  
کرم پر ہے کہ روز قیامت (اپنے) اس بندے کو راضی کر دے (یعنی اسے اتنے عظیم  
اجر سے نواز

دے گا کہ وہ سرور و شادمانی میں ڈوب جائے گا)، (وہ دعا یہ ہے): ”رَضِيتُ بِاللهِ  
رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا“۔ (مشکوٰۃ بحوالہ مسند احمد و ترمذی: 210)۔

دعا کا ترجمہ یہ ہے: ”میں نے اللہ جل شانہ کو رب کی حیثیت سے، اسلام کو بطور  
دین کے اور حضرت محمد ﷺ کو بحیثیت نبی پسند کر لیا ہے۔“

(8) عن الحارث بن مسلم التميمي عن ابيه عن رسول الله ﷺ انه اسراليه  
فقال اذا انصرفت من صلوة المغرب فقل قبل ان تكلم احدا اللهم اجرني  
من النار سبع مرات فانك اذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك  
جواز منها واذا صليت الصبح فقل كذلك فانك اذا مت في يومك كتب  
لك جواز منها۔

ترجمہ: ”حضرت حارث بن مسلم تمیمی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ  
رسول اللہ ﷺ نے ان سے سرکوشی کرتے ہوئے فرمایا: جب تم مغرب اور صبح کی  
نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے سات بار یہ دعا پڑھ لیا کرو

تو جب تم نے یہ دعا پڑھ لی ہو اور پھر اس رات یا اس دن کو قضاء الہی سے تمہاری موت واقع ہو جائے تو (اس دعا کی برکت سے) تمہارے لئے (نارِ جہنم سے) نجات مقدر کر دی جائے گی، (وہ دعا یہ ہے): "اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ" یعنی اے اللہ! مجھے نارِ جہنم سے پناہ عطا فرما۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ابو داؤد: 210)

الغرض مندرجہ بالا اور ان جیسی متعدد احادیث مبارکہ میں بعض اوقات اور مواقع کیلئے تعداد کے تعین کے ساتھ کلمات دعا اور تسبیحات کا ذکر موجود ہے۔ چونکہ علم نبوت کا منبع و ماخذ ذات باری تعالیٰ اور وحی ربانی ہے، اس لئے تو یہ تو قینی امور ہیں، یعنی رسول اللہ ﷺ سے نقل اور سماع پر موقوف ہیں، جیسے قرآن مجید کی سورتوں کے اسماء مبارکہ، ترتیبِ مصحفِ مقدس وغیرہ، کلمات اذان کا تعین، تعداد اور ترتیب وغیرہ ہیں، اگر ان امور کی حکمت ہماری سمجھ میں خدا نخواستہ نہ آئے تو یہ ہماری عقل کا نقص اور ہماری فہم کی نارسائی ہے، ہمیں پھر بھی ان کے حق و صواب اور صحیح ہونے پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ تاہم غور و فکر کے نتیجے میں جو حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے: جس طرح جسمانی امراض انسان کو لاحق ہوتے ہیں اور طبیب جسمانی یعنی ڈاکٹر اور طبیب اپنے تجربے اور علمی مہارت سے ان امراض کے علاج کیلئے پریہیز، ورزش اور دوائیں ایک خاص مقدار کے ساتھ تجویز کرتے ہیں اور ان کے استعمال کے اوقات، طریقہ، مقدار اور مدت بتاتے ہیں اور مریض ان کے علم، تجربے اور مہارت پر اعتماد کر کے ان پر عمل کرتا ہے۔ حالانکہ مریض کی تو خواہش ہوتی ہے کہ کسی درد یا بیماری کے ازالہ کے لیے سات یا دس دن کا نسخہ جو تجویز کیا گیا ہے، کاش ایسا ہوتا کہ ایک ہی وقت میں وہ ساری

دوا استعمال کر لیتا اور فوری شفاء پالیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ بہت ممکن ہے ایسا کرنے سے مرض اور بڑھ جائے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے۔

اسی طرح رسول اکرم ﷺ طبیبِ روحانی و ایمانی ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی روحانی مریض (خواہ وہ مرض اعتقادی ہو یا اخلاقی) کون سی روحانی غذا، کتنی مقدار میں اور کن اوقات میں دی جائے۔ فرق یہ ہے کہ جسمانی طبیب، ڈاکٹر و معالج کی تشخیص و تجویز میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے، مگر طبیبِ کامل سید المرسلین ﷺ کی تشخیص، تجویز اور علاج میں خطا کا ہرگز کوئی احتمال نہیں ہے، بلکہ اس کا وہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کلماتِ ربانی، تسبیحاتِ مُقَدَّسہ، اور اد مبارکہ اور درودِ پاک کی روحانی تاثیر اور دنیوی و اخروی برکات اور وسیلہٴ نجات ہونا مسلم امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے“۔ (بنی اسرائیل: 83)۔

لہذا ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جن دنیوی و اخروی مقاصدِ خیر کے لیے، برکات کے لیے، دفعِ بلیات کے لیے، ازالہٴ امراض کے لیے، مکرِ شیطان و شر و نفس سے بچنے کے لیے، نارِ جہنم سے پناہ اور حصولِ جنت کے لیے خاص مواقع پر، خاص اوقات میں، ایک مقررہ تعداد میں جو اوراد و وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں، ان پر پورے ایمان و یقین کے ساتھ جو عمل کرے گا، وہ ان شاء اللہ العزیز ضرور اس اجر و ثواب سے بہرہ ور ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے یا جس کی آپ نے بشارت دی ہے۔

اسی طرح کھجور کی گٹھلیوں، کسی اور پاک چیز کے دانوں یا تسبیح پر تعداد کا حساب کرنے کیلئے گنتی کرنا جائز ہے۔ مشکوٰۃ ”باب ثواب التسبیح“ میں ترمذی وابوداؤد کے حوالے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے ہاں گئے، تو اس خاتون کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، آگے حدیث طویل ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ملا علی القاری، ”مرقاۃ المفاتیح“ میں لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کا اس خاتون کے اس عمل پر نکیر نہ فرمانا یعنی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا، اس کے جواز کی دلیل ہے، اصطلاح محدثین میں اسے ”حدیث تقریری“ کہتے ہیں۔

حفظ کے بچوں کیلئے سجدہ تلاوت کا مسئلہ اور تلاوت کا ایصال ثواب برائے کرم مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عنایت فرما کر راہنمائی فرمائیں۔

### سوال: 196

سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ اور سجدہ تلاوت جو واجب ہے، حفظ کرنے والے بچوں اور اساتذہ کے لیے کیا حکم ہے، سارا دن بچے بہت ساری آیات سجدہ پڑھتے اور استاد سنتے ہیں، مدارس میں سجدہ تلاوت نہیں کیا جاتا استاد شاگرد برابر ہیں۔ طلباء قرآن خوانیوں پہ جاتے ہیں سجدہ تلاوت نہیں کرتے اس کا کیا حکم ہے، (محمد محبوب رضا، معرفت مولانا قاری محمد صدیق، خطیب جامع مسجد خلفاء راشدین، گلشن

اقبال، کراچی)۔

**جواب:**

سجدہ تلاوت واجب ہے اس شخص پر جس پر نماز واجب ہے۔

جیسے فتاویٰ خانہ میں ہے: سجدة التلاوة تجب علی من تجب علیہ

الصلوة اذا كره اية السجدة او سمعها۔

ترجمہ: ”سجدہ تلاوت اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر نماز واجب ہے جبکہ اس نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی ہو“، (فتاویٰ رضویہ ج ۸ ص ۲۲۲ جدید مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

اور فتاویٰ درمختار میں ہے:

(علی من كان) متعلق بمتجب (اهل الوجوب الصلوة) لانها من اجزائها۔  
ترجمہ: ”یعنی سجدہ تلاوت اس پر واجب ہے، جو وجوب صلوة کا اہل ہے، کیونکہ یہ بھی نماز کا ایک جز ہے“، اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں کہ وجوب صلوة کی اہلیت کیلئے اسلام، عقل، بلوغ اور حیض و نفاس سے طہارت شرط ہے۔

اسی طرح علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(وهی سجدة بین تکبیرتین) مسنونتین جہراً و بین کبیرتین مستحبین (بلا رفع ید و تشهد و سلام، وفيها تسبیح السجود) فی الاصح۔

ترجمہ: ”اور یہ (سجدہ تلاوت) دو تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ ہے، ان دو تکبیروں کا بلند آواز سے کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور واپس کھڑا ہونا مستحب



ہے، اس میں نہ تو رُفِعَ یَدَیْنِ ہے اور نہ تَشْهَدُہِی ہے اور نہ سَلَامٌ، اور اس میں صحیح ترین روایت کے مطابق سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی۔

اس کے تحت علامہ ابن عابدین شامی ”فتح القدر“ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فرض نماز میں تو ”مُصَبِّحَانَ رَبِّیْ اَللّٰہِ عَلٰی“ ہی پڑھنا چاہئے، البتہ نوافل میں اور مسنون تسبیحات اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر جو سجدہ تلاوت ہے، اس میں بھی دیگر تسبیحات اور منقول دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اسی بات کو ”الحلیۃ“، ”البحر“ اور ”النہر“ میں قائم رکھا ہے، (رد المحتار علی الدر المختار، جلد 2، ص: 507 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)۔

اس سے معلوم ہوا کہ خارج نماز سجدہ تلاوت کیلئے مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ”اللہ اکبر“ کہہ کر سجدہ میں جائے اور تسبیحات سجدہ و مسنون دعائیں حسبِ توفیق پڑھ لے اور ”اللہ اکبر“ کہہ کر کھڑا ہو جائے، اس میں کوئی لفظی نیت، رُفِعَ یَدَیْنِ اور سلام وغیرہ نہیں ہیں، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔

مندرجہ بالا تفصیلات کی روشنی میں نابالغ بچوں پر آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اساتذہ کو چاہیے کہ اس کی تاکید کرتے رہیں اور طلبہ کو اس کا طریقہ بھی بتائیں، تاکہ تربیت ہو اور عادت بنے۔

سائل کی یہ بات کہ مدارس میں سجدہ تلاوت نہیں کیا جاتا، ایسی عمومی رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض اساتذہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، البتہ جو نہیں

کرتے انہیں ضرور اس جانب توجہ کرنی چاہئے۔ ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ جتنی بار بھی پڑھی جائے اس سے صرف ایک بار سجدہ واجب ہوگا، جب مجلس تبدیل ہوگی جیسے کھڑا تھا بیٹھ گیا تو مجلس بدل گئی اور اسی طرح اس کا عکس، تو دوسرا سجدہ واجب ہوگا۔ اور یہ اس صورت میں ہے، جب ایک ہی آیت سجدہ ایک مجلس میں بار بار پڑھے یا سنے، لیکن مختلف آیات سجدہ اگر ایک ہی مجلس میں سنے تو ہر آیت پر سجدہ واجب ہوگا، یعنی ایک مجلس میں چودہ مختلف آیات سجدہ سنیں تو چودہ سجدے واجب ہوں گے۔

اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور طلباء کو بھی اس کی تاکید کریں تا کہ اس میں کوتاہی نہ ہو، اور آیت سے مراد پوری آیت سجدہ ہے جیسا کہ شرح نقایہ میں ہے: المراد بالآية تامة حتى لو قرأ آية السجدة كلها الا الحرف الذي في آخرها لا يسجد الخ۔

ترجمہ: ”آیت سے مراد پوری آیت ہے حتیٰ کہ کسی نے آیت سجدہ پڑھی مگر آخری حرف نہ پڑھا تو سجدہ لازم نہیں“، (بحوالہ فتاویٰ رضویہ ج ۸ ص ۲۲۳ جدید مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

لیکن محض سجدہ تلاوت سے بچنے کیلئے ایسا کرنا بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ سائل کی یہ بات بھی صحیح نہیں کہ طلباء قرآن خوانیوں میں جاتے ہیں اور سجدہ تلاوت نہیں کرتے، ایسا عمومی حکم لگانا صحیح نہیں، کیونکہ بعض طلباء اس کا اہتمام کرتے ہیں اور دیگر طلباء کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ گھر جا کر یہ لوگ سجدہ تلاوت کر لیتے ہوں، بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہئے۔

صحیح بخاری میں حدیث ہے: ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث۔

ترجمہ: ”بدگمانی سے بچو! کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔“

اور سنن ابن ماجہ میں ہے: ان الظن یخطئ و یصیب۔

ترجمہ: ”بے شک گمان کبھی غلط ثابت ہوتا ہے اور کبھی درست بھی ہوتا ہے“۔ یعنی بدگمانی سے احتیاط لازم ہے اور طلباء و اساتذہ کو تعلیم دینا اور اتباع واجب کی تاکید کرنا امر مستحب ہے اور اس پر اجر ملے گا۔ عام طور پر قرآن خوانی میں (صاحب خانہ یا کوئی اور) خود ہی چودہ سجدے کر لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں کہ اس سے ان کا (پڑھنے والوں یا سننے والوں) کا واجب ادا نہ ہوگا۔

### سوال: 197

مدارس میں دوران تعلیم دن بھر جو طلباء تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، استاد کو سناتے ہیں وہی تلاوت کیے ہوئے پارے ایصالِ ثواب کے لیے جمع کر کے تمیں پاروں کا قرآن بنا کر دے دیئے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ایصالِ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، جب کہ طلباء پڑھتے ہوئے صرف اپنے فائدے اور ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں ایصالِ ثواب کی نیت نہیں ہوتی، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ برائے کرم تفصیل سے وضاحت فرمادیں، (محمد محبوب رضا، معرفت مولانا قاری محمد صدیق، خطیب جامع مسجد خلفاء راشدین، گلشن اقبال، کراچی)۔

### جواب:

ایصالِ ثواب کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس نے عمل ایصالِ ثواب ہی کی نیت

سے کیا ہو۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایصالِ ثواب کے لیے تین امور لازم ہیں ورنہ ایصالِ ثواب نہ ہوگا (1) عمل کرنے والا مسلمان ہو (2) جسے ایصالِ ثواب کیا جائے وہ مسلمان ہو (3) جس عمل کا ثواب پہنچا رہا ہے وہ نیک و جائز کام ہو اگر صدقہ و خیرات ہو تو حلال مال سے ہو، اگر ان امور سے کوئی چیز مفقود ہو تو ایصالِ ثواب نہیں ہو سکتا۔ سائل نے لکھا کہ طلباء اپنے فائدے کے لیے پڑھتے اور سناتے ہیں حالانکہ اس میں طلباء کی کیا تخصیص ہر شخص جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔

اگر خالص ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھا جائے یا ایصالِ ثواب (سائل والی صورت میں) کیا جائے اس سے خود کو بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے کہ تمام مرحومین کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، اور پڑھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! جو شخص قبرستان سے گزرے اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے اسے مردوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اسے دار قطنی، دیلمی اور سلفی نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا، (فتاویٰ رضویہ جلد 9 ص: 637، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)۔

علامہ شامی لکھتے ہیں: ہمارے علماء نے ”حج بدل“ کے باب میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ انسان کیلئے یہ امر جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے شخص کو ہدیہ کرے، جیسے نماز، روزہ یا صدقہ وغیرہ، ”ہدایہ“ میں اسی طرح

ہے۔ بلکہ فتاویٰ ”التاثر خانیہ“ میں ”المحیط“ کے حوالے سے ہے: نفلی صدقہ کرنے والے کیلئے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے، کیونکہ اس طرح اس کا ثواب ان سب کو بھی پہنچے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، یہ اہلسنت و جماعت کا مذہب ہے۔“ آگے چل کر علامہ شامی لکھتے ہیں:

”اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ نفلی عبادت کرنے والا عبادت کرتے وقت ہی دوسرے کو ثواب پہنچانے کی نیت کرے یا ابتداء تو اپنی ذات کیلئے کرے، مگر بعد میں اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا دے، کیونکہ ایصالِ ثواب کے بارے میں فقہاء کا کلام مطلق ہے۔“

(رد المحتار علی الدر المختار، جلد 3، ص: 142 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بلالِ رمضان، یوم النحر و عاشورہ کی تعیین کیلئے

قیاسات و تخمینہ ضابطوں کی شرعی حیثیت

## سوال: 198

اکثر عوام الناس کا یہ نظریہ ہے کہ جس دن عید الفطر پڑے اسی دن یومِ عاشورہ ہوگا اور کئی سالوں سے یہ دیکھنے میں بھی آرہا ہے کہ جس دن عید الفطر ہوئی ہے اسی دن یومِ عاشورہ ہوا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ یہ نظریہ قرآن و حدیث کی رو سے کہاں تک درست ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اس مرتبہ عید الفطر بدھ کو ہوئی تھی اور یومِ عاشورہ منگل کو ہوا تو لوگوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے

چاند میں مولویوں نے گڑبڑ کر دی ہے کہ عید منگل کو پڑنی تھی مگر بدھ کو ہوئی کیونکہ عاشورہ منگل کو ہوا عید بھی منگل کو ہوئی چاہیے تھی۔ برائے کرم وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں، (محمد آصف قادری، جوڑیا بازار، کراچی)۔

### جواب:

قمری مہینہ شروع ہونے میں شرعاً رویتِ ہلال (چاند دیکھنے) کا اعتبار ہے، قیاسات و قرآن پر اس کا مدعا نہیں ہے، اسی طرح سائر کے اعتبار سے نہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار ہے نہ اس امر کا اعتبار ہے کہ چاند مطلع پر کتنی دیر رہا۔ اسی طرح اس بات کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ جس دن شوال المکرم کا چاند نظر آئے اسی دن محرم الحرام کی دس تاریخ ہوگی اور اگر اعلانِ رویت اس کے برعکس ہوا ہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ ثابت ہوا کہ وہ اعلان غلط تھا۔

مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی پاکستان میں تمام مسالک کے ثقہ و مستند علماء ہوتے ہیں اور وہ قیاسات، تخمینوں اور لوگوں کے تجربات پر نہیں بلکہ اصول شرع کی پاس داری کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا پھر فرمایا: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْبِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْبِرُوا لَهُ۔

ترجمہ: ”چاند دیکھے بغیر روزہ مت رکھو اور نہ چاند دیکھے بغیر عید کرو، اور اگر مطلع

ابراؤدہ ہوتو (روزوں کی) مدت پوری کرو، (صحیح مسلم رقم الحدیث: 2459)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الشَّهْرُ سِتْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا وَإِنِ انْجَمَ عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ۔

ترجمہ: ”مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو عید کرو اور جب مطلع ابراؤدہ ہو تو مدت پوری کرو، (صحیح مسلم رقم الحدیث: 2464)۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابوالبختری بیان کرتے ہیں:

”خَرَجْنَا لِعُمْرَةٍ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهَيْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: ”هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ۔“ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: ”هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ۔“ قَالَ: ”فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقُلْنَا: ”إِنَّا رَأَيْنَا الْهَيْلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ۔“ فَقَالَ: ”أَيُّ لَيْلَةٍ أَيْتُمُوهُ؟“ قَالَ: ”فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَنَّا وَكَنَّا۔“ فَقَالَ: ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِنَّ اللَّهَ قَدَّمَ امَّةً لِرُؤْيَيْهِ۔“ ابوالبختری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ”فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔“

ترجمہ: ”ہم عمرہ کیلئے گئے جب ہم وادی نخلہ میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنا شروع کیا، بعض لوگوں نے کہا: ”یہ تیسری رات

کا چاند ہے۔“ اور بعض لوگوں نے کہا: ”یہ دوسری رات کا چاند ہے۔“ راوی کہتے ہیں: ”پھر ہماری حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے ملاقات ہوئی اور ان سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، بعض نے کہا یہ تیسری رات کا چاند ہے اور بعض نے کہا دوسری رات کا چاند ہے، انہوں نے کہا: ”تم نے کس رات کو چاند دیکھا؟“ ہم نے کہا: ”فلاں فلاں رات کو۔“ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کیلئے اسے بڑھا دیا، وہ حقیقت میں اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے دیکھا ہے۔“ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ”اگر مطلع ابر آلود ہو تو گنتی (تمیں دن) پوری کرو،“ (صحیح مسلم رقم الحدیث: 2488)۔

المعجم الكبير للطبرانی میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

”مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاحُ الْاَهْلِةِ“

ترجمہ: ”قرب قیامت کی علامات سے ہے کہ ہلال پھولے ہوئے نکلیں گے،“ (رقم الحدیث: 10451)

دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْ يُرَى الْهَيْلَالُ قُبْلًا وَيُقَالُ هُوَ الْاَيْلَتَيْنِ“

ترجمہ: ”علامت قیامت سے ہے کہ چاند بے تکلف نظر آئے گا اور کہا جائے گا کہ دو رات کا ہے،“ (کنز العمال، بحوالہ طبرانی اوسط، رقم الحدیث: 38470)۔

مشہور فقیہ و امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس



سرہ العزیز ان قیاسات اور تخمینوں کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ششم، قیاسات و قرائن مثلاً چاند بڑا تھا، روشن تھا، دیر تک رہا تو ضرور کل کا تھا، آج بیٹھ کر نکلا تو ضرور پندرہویں کا ہے، اٹھائیسویں کو نظر آیا تھا مہینہ تیس کا ہوگا، اٹھائیسویں کو بہت دیکھا نظر نہ آیا مہینہ انتیس کا ہوگا، یہ قیاسات تو حسابات کی وقعت بھی نہیں رکھتے، پھر ان پر عمل محض جہل و زلل“۔

مزید لکھتے ہیں:

”ہفتم، کچھ استقرائی کچھ اختراعی قاعدے، مثلاً رجب کی چوتھی رمضان کی پہلی ہوگی رمضان کی پہلی ذی الحجہ کی دسویں ہوگی۔ اگلے رمضان کی پانچویں اس رمضان کی پہلی ہوگی۔ چار مہینے برابر تیس کے ہو چکے ہیں یہ ضرور انتیس کا۔ تین پے در پے انتیس کے ہوئے ہیں یہ ضرور تیس کا ہوگا۔ ان کا جواب اسی قدر میں ہے، ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَآمِينٍ سُلْطَانٌ“ حق سبحانہ نے ان باتوں پر کوئی دلیل نہ اتاری۔

وجیز امام کروری میں ہے:

”شهر رمضان جاء يوم الخميس لا يضحى أيضا في يوم الخميس مالم يتحقق أنه يوم النحر، وما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه: أن يوم اول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كسلي بل إخبار عن اتفاق في هذه السنة وكذا هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرق رمضان بل قد يتفق۔“

ترجمہ: ”رمضان کا مہینہ جمعرات کو شروع ہوا تو یوم خمیس کو قربانی جائز نہ ہوگی جب تک

اس بات کا ثبوت نہ ہو جائے کہ یہ قربانی کا دن ہے، اور یہ جو حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ روزے کا پہلا دن عید کا دن ہوتا ہے، یہ شریعت کا قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اس سال اتفاقاً ایسا ہو جانے کا بیان ہے۔ اسی طرح جو جب کا چوتھا دن ہے لازم نہیں وہ رمضان کا پہلا دن ہو، ہاں کبھی ایسا اتفاقاً ہو جاتا ہے۔“

خزانة المفتیین میں فتاویٰ کبریٰ سے ہے:

”مما یروی ان یوم نسحر کم یوم صومکم کان وقع ذلك العام بعینه دون الأبدلان من اول یوم رمضان الی غرة ذی الحجة ثلاثة أشهر فلا یوافق یوم التحریوم الصوم إلا أن یتم شهران من الثلثة ینقص الواحد إذا تمت الشهرور الثلاثة أو شهران تقدم علیه فلا یصح الإعتماد علی هذا۔“

ترجمہ: ”یہ جو مروی ہے کہ تمہاری عید کا دن تمہارے روزے کا دن ہے، یہ ہمیشہ کیلئے نہیں بلکہ معین سال میں ایسا واقعہ ہوا تھا کیونکہ رمضان کے پہلے دن سے لے کر ذوالحجہ کے پہلے دن تک تین ماہ ہوتے تو یوم نحر اور یوم صوم میں موافقت نہیں ہو سکتی مگر اس صورت میں کہ جب ان تین ماہ میں دو کامل ہوں اور ایک ناقص، اب اگر تینوں ماہ کامل ہوتے ہیں تو اس سے تاخر ہوگا اور اگر تین یا دو ناقص ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر تقدم ہوگا لہذا اس پر اعتماد درست نہیں،“ (فتاویٰ رضویہ مع تخریج وترجمہ عربی عبارات، ج: 10، ص: 428 تا 430)۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: سیدنا امام جعفرؓ سے منقول ہے کہ ”خامس رمضان

الماضی اول رمضان الاثنی“ گزشتہ رمضان کی پانچویں آئندہ رمضان کی پہلی

ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا پچاس برس تک تجربہ ہوا، ٹھیک اترا۔ بعض معاصرین نے لکھا، ۱۲ برس سے میں بھی تجربہ کرنا اور درست پاتا ہوں۔ (اقول) میں کہتا ہوں، مگر فقیر نے ۱۲۹۷ھ سے اب تک کے ۹ رمضانوں میں خیال کیا چند ہی سال میں صاف فرق پڑ گیا۔ پانچ برس تک تو حساب ٹھیک تھا اور اس قاعدے کے مطابق رمضان ۱۳۰۱ھ کی پنجم روز یک شنبہ آئی، مگر ۱۳۰۲ھ بحساب تقویم کیم اسی دن مظنون تھی، مگر فقیر ۲۹ شعبان روز پنج شنبہ کو دیہات میں تھا، کشادہ جنگل، صاف مطلع، امیر، غبار، دخان کسی علت کا نام نہ نشان۔ میں اور میرے ساتھ اور مسلمان ہر چند غور کرتے رہے رویت نہ ہوئی، شب جمعہ کی خبر بھی نہ آئی، شنبہ کی عید قرار پائی۔

اب ۱۳۰۲ھ کا حساب تقویم اگر غلط بھی ماننے کہ مطلع صاف نہ تھا اور بحکم ہیأت کیم یک شنبہ بھی ممکن تھی، تو تصحیح قاعدہ کو اسی دن کیم رکھے تو پنجم پنج شنبہ کی ٹھہرے گی۔ ۱۳۰۳ھ میں کیم بھی جمعرات کو ہونی چاہئے حالانکہ وہ شہادت عین بھی غلط، اور بحکم ہیأت بھی ناممکن۔ لاجرم ماننا پڑے گا کہ ۱۳۰۳ھ میں ٹوٹ گیا۔ با این ہمہ اگر دائمہ بھی تو صرف ایک تجربہ ہے، نہ حکم شرعی جس پر احکام شرعیہ کی بنا ہو سکے، (ایضاً صفحہ نمبر: 473, 474)۔

الغرض اس طرح کے تجربات، قیاسات اور تخمینوں کا قمری سال کی تعیین و تھقیق شرعی اور رویت کا فیصلہ و اعلان کرنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ کتاب و سنت اور کتب فقہ میں ایسا کوئی ضابطہ مذکور نہیں ہے۔

کھانے کے آداب اور مسنون طریقہ

سوال: 199

اسلام میں کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کریں، (عابدہ پروین، ہر کو دھا)۔

جواب:

ہاتھ دھونا:

کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھولیں اور کلی کریں، اسے حدیث میں وضو سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں ہے:

(I) "عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ: إِنَّ بَرَكَاتِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِسْنِي بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: بَرَكَاتِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ"۔

ترجمہ: "حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت، کھانے سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کا ذکر میں نے نبی ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا: کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا ہے، (یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے)"، (سنن ابی داؤد، جلد: 4، ص: 284، رقم الحدیث: 3755)۔

(II) "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْتَبِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا

حَضَرَ غَدَاءَهُ، وَإِذَا رُفِعَ“۔

ترجمہ: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت فرمائے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا چنا جائے (تو اس وقت بھی) اور جب کھانا اٹھالیا جائے تو (بھی) وضو کرے (یعنی ہاتھ دھو لے اور کھلی کرے)۔“

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3260)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کھلی کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت میں اضافے کا باعث ہے اور طبی لحاظ سے صفائی کا ذریعہ ہے اور اس شخص کی طبعی اور فطری نفاست اور پاکیزگی کی دلیل ہے۔

(2) کھانے سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنا:

حدیث پاک میں ہے:

”عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ الشَّيْطَانُ يَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“۔

ترجمہ: ”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کھانے پر (شروع کرتے وقت) ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہ پڑھی جائے تو شیطان اُسے اپنے لئے حلال سمجھ لیتا ہے“، (مشکوٰۃ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الاطعمہ ص: 363)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے ”بسم اللہ“ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت نہیں رہتی، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ عزوجل کا نام لے لے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے: (اب اس گھر میں) نہ تمہارا رات کا ٹھکانا ہے اور نہ ہی کھانا، لیکن جب کوئی شخص (رات کو) اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ عزوجل کا نام نہ لے، تو شیطان (اپنے چیلوں سے) کہتا ہے: تم نے رات کا کھانا اور ٹھکانا پالیا،“ (مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابوداؤد، رقم الحدیث: 3759)۔

ہاں اگر کوئی کھانا کھاتے وقت (شروع میں) ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آجائے، پڑھ لے، برکت دوبارہ لوٹ آتی ہے۔  
حدیث پاک میں ہے:

”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيُقَلِّ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَاجْرَهُ“۔  
ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور شروع میں ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول جائے تو جوں ہی اُسے یاد آئے (فوراً) ”بسم اللہ“ پڑھ لے اور یوں کہے: ”بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ“

وَآخِرَهُ“۔ (ترمذی ہنسائی، ابوداؤد، رقم الحدیث: 3761)

ابن عساکر نے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو ’بسم اللہ‘ پڑھ کر کچھ کھالے اور دسترخوان اٹھالیا گیا ہو تو ’بسم اللہ‘ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔

علامہ امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ’’بہار شریعت‘‘ جلد: 16 صفحہ: 597 پر دیلمی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

’’جب کوئی کھائے یا پیے تو یہ پڑھے: ’بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاوٰتِ، یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ‘‘، پھر اس کھانے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی اور اگر اس میں زہر بھی ہے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔

(3) دائیں ہاتھ سے کھانا:

حدیث پاک میں ہے:

’’عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ: اِذَا اَکَلَ اَحَدُکُمْ فَلِیْنَا کُلِّ بِیَمِیْنِہٖ وَاِذَا شَرِبَ فَلِیْ شَرِبَ بِیَمِیْنِہٖ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ یَا کُلُّ بِشِمَالِہٖ وَیَشْرَبُ بِشِمَالِہٖ۔‘‘

ترجمہ: ’’حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے

اور جب پانی پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے

کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، (مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، رقم الحدیث: 3770)۔

علماء نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہو کوئی مرض یا زخم ہو تو پھر بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج: 6 ص: 246)

(4) تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چاٹنا:

حدیث پاک میں ہے: ابن التجار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تین انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ اعراب (گنواروں) کا طریقہ ہے، (بہار شریعت جلد: 16 ص: 597)۔

عن كعب بن مالك قال قال رسول الله ﷺ يا كل بثلاثة اصابع ويلعق يده قبل ان يمسحها۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تین انگلیوں سے کھاتے اور ہاتھ پونچھنے (دھونے) سے پہلے ہاتھ چاٹ لیتے، (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم: 363)۔

عن جابر ان النبي ﷺ امر بلعق الاصابع والصحفة وقال لكم لا تدرون في ايها البركة۔



حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انگلیاں اور پیالہ (پلیٹ) چاٹنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ کس میں برکت ہے۔  
(مشکوٰۃ بحوالہ مسلم ص: 363)۔

یعنی ممکن ہے جو انگلیوں پر لگا ہے یا جو پلیٹ میں رہ گیا ہے اسی میں برکت ہو اور تم اس سے محروم رہ جاؤ، لہذا برکت کی محرومی سے بچنے کے لیے انگلیوں اور برتن کو چاٹنا بہتر ہے اور اطباء کے نزدیک یہ ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے۔  
(5) اکٹھے ہو کر کھانے میں برکت ہے:

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ :  
فَلَسَعَلَكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَيَّ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا  
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ۔

ترجمہ: ”حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ ہم کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا، ارشاد فرمایا: شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، انہوں نے عرض کیا: جی ہاں (ایسا ہی ہے)!، فرمایا: اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ اور ”بسم اللہ“ پڑھو تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی“، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3286)۔

حدیث پاک میں ہے:

كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَاتَ مَعَ الْجَمَاعَةِ۔

ترجمہ: ”تم اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ، الگ الگ ہو کر نہ کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ

ہے، (سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث 3287)۔

(6) رزق کا احترام:

اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا پھر کھالیا، اور فرمایا: عائشہ! اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز (روٹی) جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، (یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کوئی رزق کی کشادگی سے محروم ہو جائے تو پھر آسانی سے یہ نعمت واپس نہیں آتی)، (ابن ماجہ بحوالہ بہار شریعت حصہ: 16 ص: 598)۔

حضرت عبداللہ بن اُم حرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان پر گرمی ہوئی روٹی کو کھالے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، (طبرانی بحوالہ بہار شریعت حصہ: 16 ص: 598)۔

(7) کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے:

حاکم نے حضرت جابر سے اور ابو داؤد نے حضرت اسماء سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے، (بہار شریعت حصہ: 16 ص: 598)۔

اس سے مراد یہ ہے کہ کھانا اتنا گرم نہ ہو کہ زبان یا منہ جلے اور آدمی لذت اور سکون سے نہ کھا سکے یا ٹھنڈا کرنے کیلئے کھانے میں پھونک مارتا رہے جو طبی

لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، ذوقِ سلیم اور نفاستِ طبع کے بھی منافی ہے اور از روئے حدیث بھی منع ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھانے کی تازگی ختم ہو جائے اور اسے باسی کر کے کھایا جائے۔

(8) کھانے میں پھونک مارنے کی ممانعت:

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے اور کھانے اور پینے کے برتن میں سانس بھی نہیں لیتے تھے“، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3288)۔

”دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھانے پینے کے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے“، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3428)۔

جدید طب بھی اس حدیث کی تائید کرتی ہے کہ سانس لینے سے نقصان دہ جراثیم باہر آتے ہیں اور وہ دوبارہ کھانے پینے کی اشیاء میں شامل ہو کر معدے میں جا کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

(9) اپنے سامنے سے کھانا چاہیے:

اگر چند افراد کسی ایک تھال، بڑے، طباق یا برتن میں اکٹھے بیٹھ کر کھا رہے ہوں تو ان کیلئے رسول اللہ ﷺ کی ہدایت یہ ہے:

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور نبی اکرم ﷺ کی پرورش میں تھا اور کھانے کے دوران میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر گھومتا تھا، تو آپ نے فرمایا: بیٹے! ”بسم اللہ“ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (ابن

ہاں اگر کسی بڑی ٹرے میں کئی طرح کے کھانے رکھے ہوں تو مختلف جگہ سے اپنی پسند کی چیزیں لے سکتا ہے۔

(10) ٹیک لگا کر کھانے کی ممانعت:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے نہیں دیکھا۔ (ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ)۔ یہ وضع اختیار کر کے کھانا اس لئے منع ہے کہ یہ کاہلی بھی ہے اور تکبر کی بھی علامت ہے۔

(11) کھانے میں عیب نکالنا منع ہے اگر کھانا پسند ہو تو کھالے، ورنہ چھوڑ دے:

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر کھانا پسند ہوتا کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے“، (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری مسلم)۔

کھانے میں عیب نکالنا، ایک طرح سے رزق کی بے توقیری ہے اور جس نے کھانا تیار کیا ہے، اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔

(12) کھانے میں توازن و اعتدال کا حکم:

”ایک شخص بہت زیادہ کھاتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو کم کھانے لگا اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے سامنے کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنت سے کھاتا ہے“، (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری)۔

”حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں، اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو (معدے کے تین حصے کر لے)، ایک تہائی خوراک کیلئے، ایک تہائی پانی کیلئے اور ایک تہائی ہوا اور سانس کیلئے (خالی رکھے)؛ (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3379)۔ (13) کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا طریقہ:

احادیث مبارکہ میں کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے:

(I) انسان سرین کے بل پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے، اسے عربی میں "إقعاء" کہتے ہیں۔

(II) ایک طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں بچھا دے اور داہنے پاؤں کھڑا رکھے۔

(بہار شریعت ج: 16 ص: 605)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم بطریق "إقعاء" بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے۔

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کیلئے بطریق "إقعاء" (سرین کے بل

بیٹھ کر گھٹنوں کو کھڑا کرنا) بیٹھنا سنت ہے، بعض احادیث میں ٹیک لگا کر بیٹھ کے کھانے

سے منع کیا، بعض علماء نے اس حدیث کو آلتی پالتی (چارزانو) بیٹھ کر کھانے پر محمول کیا

ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوزانو بیٹھ کر یا اکڑوں بیٹھ کر کھانا صحیح طریقہ ہے، (شرح

صحیح مسلم ج 6 ص 302)۔

کھانے کے وقت بائیں پاؤں بچھا دے اور داہنے پاؤں کھڑا رکھے یا سرین پر بیٹھے اور

دونوں گھٹنے کھڑے رکھے۔

(14) کھڑے ہو کر کھانے اور چل پھر کر کھانے کے متعلق تفصیل:

کھڑے ہو کر کھانا پینا حرام نہیں البتہ مکروہ ہے، چنانچہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں: مستحب یہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا پینا چاہئے کیوں کہ کسی حدیث میں نبی ﷺ نے کھڑے ہو کر کھانے پینے کا حکم نہیں دیا، کھڑے ہو کر کھانے پینے کے متعلق جس قدر احادیث ہیں سب میں نبی ﷺ کے فعل کا ذکر ہے اور جب آپ کے قول و فعل میں تعارض ہو تو ترجیح قول کو دی جاتی ہے اور کھڑے ہو کر کھانے پینے کی حدیث کو کراہتِ تنزیہی پر محمول کیا کہ نبی ﷺ نے اس ممانعت پر کوئی وعید نہیں بیان کی۔

باقی رہا یہ سوال کہ جب بیٹھ کر کھانا سنت و مستحب ہے تو رسول اللہ ﷺ نے بعض مواقع پر کھڑے ہو کر کیوں کھایا؟ تو جواباً گزارش یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ شارع تھے اور آپ بعض اوقات ”خلافِ اولیٰ“ کام بیانِ جواز کیلئے کرتے تھے اور یہ بحیثیت شارع آپ کے منصب کا تقاضا تھا اور اس پر آپ کو واجب کا اجر ملتا تھا، کیونکہ اگر آپ کے عمل سے اس کا جواز نہ ملتا تو عذر کے باوجود صحابہ کرام اور صلحائے امت کو اس کے کرنے میں تردد ہوتا، (شرح صحیح مسلم ج 6 ص 279)۔

(15) جوتے پہن کر اور میز کرسی پر کھانے پینے کا حکم:

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں: کھانا کھاتے وقت جوتا اتار لینا سنت ہے، داری، طبرانی، ابویعلیٰ و حاکم با فادہ تصحیح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اُتار لو، اس میں تمہارے پاؤں کیلئے راحت زیادہ ہے اور اچھی سنت ہے، شرعہ الاسلام میں ہے کھاتے وقت جوتے اتارے، جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر بیٹھا کھا رہا ہے اور فرش نہیں جب تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے، اس کے لئے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتارے اور اگر میز پر کھانا ہے اور یہ کرسی پر جوتا پہنے تو یہ وضع خاص نصاریٰ کی ہے، اس سے دور بھاگے اور رسول اللہ ﷺ کا وہ ارشاد یاد کرے من تشبہ بقوم فہو منهم، یعنی جو کسی خاص مذہبی شعار میں کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ انہیں میں سے ہے۔ رواہ احمد و ابو یعلیٰ والطبرانی فی الکبیر عن عمرو فی الاوسط عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن۔ (فتاویٰ افریقہ ص: 53-52 بحوالہ شرح صحیح مسلم)۔

نوٹ: آج کل کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا عام رواج ہو گیا ہے اور یہ نصاریٰ کا خاص مذہبی شعار نہیں ہے، لیکن کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا اگرچہ خلاف سنت و مستحب ہے اور بلاشبہ نا پسندیدہ امر ہے، لیکن اسے ”تشبہ بالنصاری“ کی وعید کا مصداق قرار دینا دین میں بُسر کا تقاضا نہیں ہے، تاہم بعض اکابر کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ تمسک و تعامل بالسنة پر لوگوں کو جمائے رکھنے کیلئے شدت فرماتے ہیں تا کہ سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں قائم رہے۔

(16) کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونا اور ایسے ہی سو جانا منع ہے:

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: ” اذ انام احدکم وفی یدہ ریح غمر فلم

يغسل يده فا صابه شئى فلا يلومن الا نفسه“

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوئے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی یا کوئی اور چیز ہو اس نے ہاتھ بھی نہ دھویا ہو تو اس سے کوئی نقصان ہو تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔“

(17) اگر کوئی شخص کھانے کی دعوت دے اور بھوک ہو تو نفی نہ کرے:

عن اسماء بنت يزيد قالت اتى النبى بطعام فعرض علينا فقلنا لا تشتھيه فقال لا تجمعن جوعا و كذا۔

ترجمہ: ”حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی ﷺ کے پاس کھانا لایا گیا تو آپ نے ہمیں دیا، ہم نے عرض کیا: ہمیں کھانے کی خواہش نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا: تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی بعض لوگ کھانے کی خواہش اور بھوک کے باوجود اس کی نفی کر دیتے ہیں، یہ دہرا نقصان ہے، ایک تو بھوک کے رہے اور دوسرا جھوٹ بولا۔“

(18) کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا:

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ تعالیٰ لیرضی عن العبد یمآکل الاکلة فیحمدہ علیہا او یشرب شربة فیحمدہ علیہا۔

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کوئی لقمہ کھائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے



اور پانی کا گھونٹ پیئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔  
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ رکھ کر صبر کرے،“ (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)۔

کھانا کھانے کے بعد کی جو دعائیں احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، وہ یہ ہیں:

(I) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3283)

(II) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔

(سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث: 3284)

(III) الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُكْفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى

عَنْ رَبَّنَا۔ (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 5458)

حدیث ف

سوال: 200

کیا فرماتے ہیں کہ علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ دو عورتوں نے ایک مرد اور عورت پر یہ تہمت لگائی کہ فلاں لڑکی کے ساتھ ان کے غلط تعلقات ہیں، زنا کی بھی تہمت لگائی اور ماسوائے ان دو عورتوں کے اور کوئی گواہ نہیں۔ جبکہ جن پر تہمت لگائی گئی، دونوں قسمیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں کیا۔ لہذا یہ بتایا جائے کہ ان

دونوں (تہمت زدگان) کیلئے کیا شرعی سزا ہے۔ اور ان تہمت لگانے والوں کے ثبوت نہ دینے پر ان کیلئے کیا سزا ہے، وضاحت فرمائیں، (خان بہادر، گاؤں کیارہ تحصیل اوگی ضلع ماہرہ)۔

**جواب:**

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

1. وَالْمُذْنِبِينَ يَمُوتُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِإَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝  
ترجمہ: ”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں، پھر نہ لائیں چار گواہ تو انہیں اسی کوڑے مارو۔ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہی نافرمان ہیں“، (النور: 4)۔

2. إِنَّ الْمُذْنِبِينَ يَمُوتُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں کو (زنا کی) تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے“، (النور: 23)۔

حدیث مبارک میں ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال النبي ﷺ: ”البينة أو حلفي ظهرك“

فسقال: يا رسول الله، اذ رأيت احدا على امراته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟  
فجعل يقول: "البينة والا حد في ظهرك"۔ فذكر حديث اللعان۔

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے نبی ﷺ کے پاس اپنی بیوی پر شریک بن سحما کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی، تو نبی ﷺ نے فرمایا: تم کواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف کے کوڑے لگائے جائیں گے، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ کواہوں کو تلاش کرنے جائے گا؟، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ تم کواہوں کو پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگائی جائے گی، پھر انہوں نے لعان کا واقعہ بیان کیا“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 2671، مطبوعہ مکتبہ عصریہ، بیروت)۔

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں: ”مسلمان کو زنا کی تہمت بے ثبوت شرعی لگانے والا فاسق، مردود الشہادت، اسی کوڑوں کا شرعاً سزاوار ہے، مزید لکھتے ہیں، خاص معائنہ کے چار کواہ مرد، ثقہ، متقی اور پرہیزگار درکار ہیں، بغیر اس کے جو اسے متہم بالزنا کرے گا، شرعاً اسی کوڑوں کا مستحق ہوگا“، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 23، ص: 326, 329، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)۔

شریعت مطہرہ میں زنا کی تہمت لگانے والے پر لازم ہے کہ وہ چار کواہ مرد، ثقہ، متقی اور پرہیزگار پیش کرے، اسلامی حدود میں عورتوں کی کواہی معتبر نہیں ہے:

عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده  
لا تجوز شهادة النساء في الحدود۔

ترجمہ: ”زهري کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت  
عمر کی یہ سنت جاری رہی کہ حدود میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں تھی، (المصنف  
جلد 10، ص: 58 مطبوعہ دار القرآن، کراچی)۔

اگر وہ ایسا نہ کرے (یعنی شرعی شہادت پیش نہ کرے)، تو شرعاً اسٹی کوڑوں کا  
سزاوار ہے، لیکن یہ سزا صرف سلطان اسلام ہی جاری کر سکتا ہے، غیر سلطان کو  
اس کا اختیار نہیں، اور ہمیشہ کے لئے اس کی کواہی مردود ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تہمت لگانے والوں کیلئے حکم فرمایا کہ:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ مَّ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ: ”مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، اور اپنی اصلاح کریں تو بے شک اللہ بہت  
بخشنے والا ہے، اور رحم فرمانے والا ہے،“ (النور: 5)۔

امام احمد رضا قدس سرہ العزیز مزید لکھتے ہیں: ”کہ صرف چارہ کار یہ ہے کہ اسے  
برادری سے خارج کریں، مسلمان اس سے میل جول چھوڑ دیں، جب تک توبہ کریں،  
اگر توبہ کرے تو اللہ عزوجل قبول فرمانے والا ہے، خود آیہ کریمہ مذکورہ میں إِلَّا الَّذِينَ  
تَابُوا کا استثناء ہے، مگر اس کی توبہ صرف یہی نہ ہوگی کہ اللہ عزوجل کے حضور تائب ہو  
بلکہ لازم ہوگا کہ عروس سے اپنے قصور کی معافی مانگے کہ وہ نہ صرف حق اللہ بلکہ حق العبد  
میں بھی گرفتار ہے اور تنہائی میں توبہ کافی نہ ہوگی، اس نے مجمع میں گناہ کیا ہے، مجمع ہی

میں توبہ کرے، حدیث میں ہے، نبی ﷺ فرماتے ہیں: اذا علمت سيئة فاحدث عندھا توبة السر والسرو العلانية بالعلانية، ”جب تو کوئی گناہ کرے تو چھپے گناہ کی خفیہ اور بر ملا گناہ کی علانیہ توبہ کرو“، (فتاویٰ رضویہ، جلد: 23، ص: 324، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن)۔

حدیث میں ہے: عن عقبه بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: ”إياكم والدخول على النساء“ فقال رجل من الانصار: يا رسول الله افرأيت الحموقال الحموموت۔

” (اجنبی) عورتوں کے پاس جانے سے اجتناب کرو، انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! دیور کا کیا حکم ہے؟، فرمایا کہ دیور موت ہے،“ (صحیح مسلم، رقم الحدیث 5570، جلد 9، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتہ المکرمہ)۔

ایک اور حدیث میں ہے:

لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان۔

”کوئی مرد جب کسی (اجنبی) عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، تو ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے“، (رواہ الترمذی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم الحدیث: 1171)۔

اور فرمایا: عن جماہر، عن النبی ﷺ قال: لا تلحقوا علی المغیبات فان الشيطان یجری من احدکم معجری الدم۔

ان عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے شوہر موجود نہ ہوں کیونکہ شیطان تمہارے وجود میں اسی طرح سرایت کرتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون تیرتا

ہے، (ترمذی، رقم الحدیث 1172 جلد 2 دارالکتب علمیہ بیروت)۔  
 مسلمان کو چاہئے کہ وہ مواضع تہمت اور مواقع تہمت سے ہمیشہ اجتناب کرے،  
 اپنی عزت و آبرو کا تحفظ مومن کی شرعی ذمہ داری ہے، لہذا اجنبی مردوزن ایسی تنہا  
 جگہ میں جمع ہونے سے گریز کریں کہ جہاں اغواء شیطان اور شرور نفس کی بنا  
 پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یا دوسرے لوگ بدگمانی کی بنا پر ہدف تہمت بنا  
 سکتے ہوں۔

ایک روایت میں ہے:

من سلك مسالك الظن اتهم، ورواه الخرائطي في مكارم الاخلاق مرفوعاً  
 بلفظ: من اقام نفسه مقام التهم فلا يلزم من من اساء الظن به۔

ترجمہ: جو بدگمانیوں کی راہوں پر چلے گا، وہ ہدف تہمت بنے گا، اور مکارم اخلاق میں  
 خرائطی نے ان الفاظ کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا کہ ”جو مقام تہمت پر ٹھہرا، تو پھر اسے  
 چاہئے کہ بدگمانی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے (بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ  
 اس نے خود انہیں موقع فراہم کیا)۔

علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی نے مندرجہ بالا روایات کا حوالہ دے کر یہ لکھا ہے  
 کہ: اگرچہ ”التقوا مواضع التهمة“، ترجمہ: (مقامات تہمت سے بچو!) کی روایت لفظاً  
 ثابت نہیں ہے، لیکن مندرجہ بالا روایات کی بنا پر معنی ثابت ہے، (کشف الخفاء  
 ومزيل الالباس، جزء الاول صفحہ 44، مطبوعہ مکتبۃ الغزالی، دمشق)۔

مذکورہ بالا احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرد و عورت کا کسی مقام پر تنہا جمع ہونا

باعثِ فساد اور خلافِ شرع ہے لہذا ایسے مواقع اور مقامات سے بچنا ضروری ہے۔  
خود کو غیر مسلم ظاہر کرنے کا حکم

## سوال: 201

علماء کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون جو گزشتہ 20 سال سے امریکہ میں مقیم ہیں چار بچے ہیں اور نماز پڑھتی ہیں قرآن پڑھا ہوا ہے، دیگر مذاہب کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بظاہر مسلمان نظر نہیں آتے، لباس، حلیہ، کردار، دھوکہ دہی، جھوٹ، وعدہ خلافی وغیرہ ہمارے کردار کا حصہ ہیں، لہذا جب میں کسی مسلم یا غیر مسلم سے ملتی ہوں تو یہ کہتی ہوں کہ ”میں ہندو ہوں“۔

- (1) ان خاتون کا اس طرح کہنا کیا انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔
- (2) کیا ان کو مسلمان ہونے کے لئے کلمہ پڑھنا ہوگا اور تجدیدِ نکاح کرنا ہوگا۔
- (3) اس کا کفارہ کیا ہے، (محمد جمشید ہاشمی، تحصیل کوٹ ادو، ضلع مظفر گڑھ)۔

## جواب:

ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل کی سچائی سے ضروریاتِ دین جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضرت محمد ﷺ کی نبوت و رسالت، کتبِ الہی، آخرت اور دیگر تمام ضروریاتِ دین پر، جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں، کامل یقین رکھنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا۔ باقی اعمالِ حسنہ ایمان کی فرع اور ثمرہ ہیں، ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔ جو شخص دل سے ضروریاتِ دین کا قائل ہو وہ مسلمان اور مؤمن ہے۔ اور جس کا دل تصدیق سے خالی ہو وہ کافر ہے۔ اعمالِ صالحہ مثلاً نماز، روزہ وغیرہ

کا تارک اور محرّمات کا مرتکب فاسق اور گنہگار ہے مگر دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والا شخص اور شراب پینے والا اور دوسری برائیوں کا مرتکب شخص گنہگار کہلائے گا۔ موصوفہ کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ دھوکہ بازی، جھوٹ اور وعدہ خلافی اور ان جیسی اور برائیوں کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں رہتے لہذا نتیجتاً میں خود کو ہندو سمجھتی ہوں، ہاں! اگر وہ یہ کہتیں کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں یا ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے، تو درست بات ہوتی۔

موصوفہ کو چاہیے کہ غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بجائے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرے اپنے مذہب کو سمجھے اور علماء سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنا دین و ایمان محفوظ کرے۔ بد عمل مسلمان کو یا اپنی بد عملی کی وجہ سے خود کو کافر کہنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اصلاح کی طرف راغب کرنا چاہیے، اپنے کفر کا اقرار کفر ہے، لہذا جو شخص خود کو کسی غیر مسلم فرقے سے ظاہر کرے، وہ کافر ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ مَّ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مَنۡ اُكْرِهٖۙ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِمِ الْاِيْمَانِ وَلٰكِنۡ مَّنۡ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَرَۙ فَاَعْلَيْهِمْۙ غَضَبٌۢ مِّنَ اللّٰهِ ج وَ لَهُمْۙ عَذَابٌۢ عَظِيْمٌۙ O

ترجمہ: ”جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوا اس کے جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے“،



(النحل: 106)۔

لَا تَعْتَبِرُوا قَدَّ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔

ترجمہ: ”اب عذر نہ پیش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو۔“ (التوبہ: 66)

شرح فقہ اکبر میں ہے: نوفی المحيط من قال فانا كافرا وفاكفر ..... قال ابوا لقاسم هو كافر من ساعته۔

ترجمہ: ”اور محیط میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں کافر ہوں یا میں کفر کروں گا، ابوالقاسم نے کہا: وہ اسی وقت کافر ہو گیا،“ (شرح فقہ اکبر ص: 183)۔

علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

ومن يرضى بكفر نفسه فقد كفر۔

ترجمہ: اور جو شخص اپنے کفر پر راضی ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، (فتاویٰ عالمگیری جلد دوم ص: 257، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

(ويكفر فيهما) لرضاه بالكفر۔

ترجمہ: ”کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے،“ (رد المحتار علی الدر المختار جلد 5 ص: 393 دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تعظیم کرنا کفر ہے، موصوفہ کا خود کو ہندو کہلوانا

اقرار کفر ہے مذکورہ بالا حوالہ جات کی رو سے اقرار کفر، بھی کفر ہے، لہذا موصوفہ

پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح فرض ہے، واللہ ورسولہ اعلم۔  
امانت رکھنے اور واپس کرنے کا حکم

## سوال: 202

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ زید نے عمر کو تین چیزیں دیں اور کہا دو چیزیں تم لے لو مگر ایک چیز میں تم سے ضرور لوں گا جب مجھے اس کی ضرورت پڑی، عمر نے کہا تم اس چیز کے بارے میں بے پرواہ رہو کہ میں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا کیونکہ حدیث میں ہے دھوکہ دینے والا منافق ہے۔

لیکن جب زید کو اس چیز کی ضرورت پڑی جو کہ عمر کے پاس رکھوائی تھی تو عمر نے یہ کیا کہ اس چیز کے تین حصے کئے اور ایک حصہ زید کو دینے لگا، اس پر زید اور عمر کا جھگڑا ہو گیا عمر نے کہا کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا ہے جبکہ زید نے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بتائیے کہ حق بات کیا ہے اور ثواب دارین حاصل کیجئے، (زاہد اللہ عادل، بلند کوٹ، بنگرام)۔

## جواب:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امانت کی حفاظت اور ادائیگی کا صراحتہ کئی

مقامات پر حکم دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمَلَّةَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا لَا إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو

اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، (النساء: 58)۔  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔  
 ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی چیزوں میں خیانت مت کرو اور خیانت  
 کرتے ہو تم اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں میں حالانکہ تم سب کچھ جانتے  
 ہو،“ (الانفال: 27)۔

اس آیت سے ثابت ہوا امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے، دوسری آیت  
 میں ارشاد فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو دوست نہیں  
 رکھتا،“ (الانفال: 58)۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی بھی امانت میں خیانت کرنے والا بدترین انسان  
 ہے، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ج

ترجمہ: ”جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا (اپنے ہمراہ) خیانت کی ہوئی چیز کو  
 قیامت کے دن،“ (ال عمران: 161)۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

فَإِنْ آمَنَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ط

ترجمہ: ”پس اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے، اسے  
 چاہئے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے، جو اس کا رب

ہے“ (البقرہ: 283)۔

ان آیات میں امانت ادا کرنے کا حکم عام ہے، خواہ مذہب میں ہو، عقائد میں ہو، معاملات میں ہو یا عبادات میں ہو۔

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: "أد الامانة الی من ائتمنک، ولا تخن من خانک"۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھے، اس کی امانت ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو“، (سنن ابی داؤد، رقم الحدیث: 3529)۔  
عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: "ایة المنافق ثلاث اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان"۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے“، (صحیح البخاری، رقم الحدیث: 33)۔

عن عبد اللہ بن عمرو: ان النبی ﷺ قال: "اربع من کن فیہ کان منافقاً خالصاً، ومن کانت فیہ خصلة منهن کانت فیہ خصلة من النفاق حتی یدعها: اذا اؤتمن خان، واذا حدث کذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم

فحجر"۔

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: چار باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ جب اسے امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑے تو بیہودہ کہے“، (صحیح بخاری، رقم الحدیث: 34)۔

صورتِ مسئلہ میں عمر پر لازم ہے کہ جو چیز اس کے پاس امانت رکھوائی گئی، اسے بعینہ زید کو واپس کر دے، کیونکہ بر تقدیر صدق سائل معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز بعینہ عمر کے پاس موجود ہے، مگر وہ اسے پورا پورا واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، انہیں امانت پوری کی پوری واپس کرنی چاہئے۔

بوسیدہ اور ناقص قرآنی نسخہ جات اور اوراقِ قرآنی کا مسئلہ

### سوال: 203

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل کثیر تعداد میں بڑے بڑے بوروں اور ڈبوں میں قرآن پاک کے بوسیدہ اور ناقص مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں اور ممکنہ حد تک احتیاط کے باوجود بے حرمتی کا باعث بنتے ہیں، یہ مسئلہ خاصی حد تک اضطراری نوعیت اختیار کرنا جا رہا ہے، جا بجا مقامات پر اوراقِ مقدسہ کی بے حرمتی ہوتی نظر آتی ہے، اسی طرح مختلف اخبارات و جرائد

، کیلنڈروں، دعوت ناموں پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ یا آیات درج ہوتی ہیں، اور یہ ایک عام ابتلاء کی صورت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان اوراق کے درست طور پر محفوظ کرنے کا طریقہ بیان فرمائیں۔ (مولانا محمد نصیر اللہ نقشبندی، ناظم دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)۔

### جواب:

بوسیدہ اوراق قرآنی و مصاحف جو کہ اس قابل نہ رہیں کہ ان سے تلاوت کی جاسکے اور ان کے ضائع ہونے یا بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسے مصاحف کو کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے کہ جہاں نہ کسی کا پاؤں پڑتا ہو اور وہ جگہ نجاست و غلاظت کے پہنچنے سے بھی محفوظ ہو، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں:

المصحف اذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في خرقه طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع عليه النجاسة أو نحو ذلك ويلحله لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى اهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا كذا في الغرائب۔

ترجمہ: ”جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور اسے پڑھا نہ جاسکے اور یہ اندیشہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائے گا (اور بے ادبی ہونے لگے گی)، تو اسے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ دفن کر دیا جائے اور اسے دفن کرنا زیادہ بہتر ہے بہ نسبت کسی ایسی جگہ

رکھ دینے کے، جہاں اس پر گندگی پڑے اور آلودہ ہو جائے اور لاعلمی میں پاؤں کے نیچے روندنا جانے لگے، نیز اس کی تدفین کے لئے صندوقی قبر کے بجائے بغلی قبر بنائی جائے، اس لئے کہ اگر صندوق نما قبر بنائی گئی تو دفن کرنے کے لئے اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی اور یہ عمل بھی ایک لحاظ سے بے ادبی والا ہے، ہاں اگر مصحف شریف کو (صندوق نما) قبر میں رکھ کر اوپر چھت بنا دی جائے تاکہ اس تک مٹی نہ پہنچے تو پھر یہ صورت بھی بہتر ہے، اسی طرح فتاویٰ الغرائب میں مذکور ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 5 ص: 323 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

مزید لکھتے ہیں المصحف اذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار  
أشار الشيباني الى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة۔

ترجمہ: ”جب مصحف پرانا اور بوسیدہ ہو جائے اور وہ پڑھے جانے کے لائق نہ رہے، تب بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے، چنانچہ امام محمد شیبانی نے ”سیر کبیر“ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لہذا اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، کتاب ذخیرہ میں اسی طرح مذکور ہے، (فتاویٰ عالمگیری جلد 5 ص: 323 مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

علامہ علاؤ الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

الکتاب التي لا ينتفع بها يمحي عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق  
الباقى، ولا بأس بان تلقى في ماء جار كما هي أو تلغى وهو احسن كما  
في الانبياء۔

ترجمہ: ”وہ کتابیں اور کاغذات جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، ان سے اللہ تعالیٰ،

اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کے مقدس نام مٹا کر باقی حصہ جلا دیا جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ انہیں بہتے پانی میں ڈال دیا جائے یا دفن کر دیا جائے اور یہ (دفن کرنا) زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء کے بارے میں ہے، (رد المحتار علی الدر المختار جلد 9 ص: 518، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

(کافی الانبیاء) کی تشریح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

کذا فی غالب النسخ وفی بعضہما کما فی "الاشباہ"، لکن عبارة "المحتجبی": والمفن احسن کما فی الانبیاء والاولیاء اذا ماتوا، وكذا جمیع الكتب اذا بلیت وخرجت عن الانتفاع بها اه: یعنی أن الدفن لیس فیہ اخلال بالتعظیم، لأن افضل الناس یدفنون۔ وفی "الذخیرة": المصحف اذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا یسحق بالنار، الیه اشار محمد دوسہ نماخذ، ولا یکره دفنه، وینبغی أن یلف بحرقه طاهرة، ویحلله، لأنه لو شق ودفن یحتاج الی اهالة التراب علیہ وفی ذالک نوع تحقیر، الا اذا جعل فوقه سقف، وان شاء غسله بالماء أو وضعه فی موضع طاهر لاتصل الیه ید محدث ولا غبار ولا قدر تعظیما لكلام الله عز وجل اه۔

ترجمہ: "کافی الانبیاء" (یعنی جیسا کہ انبیاء کرام کے اجساد مبارکہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ انہیں دفن کر دیا جاتا ہے) اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے اور بعض میں اس طرح ہے، جیسا کہ "الاشباہ" میں ہے، لیکن "المحتجبی" کی عبارت یوں ہے: اور (بوسیدہ اور ارقی



قرآن کو) دفن کرنا بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء کرام و اولیاء عظام کے وصال کے بعد ان کے اجساد مبارکہ کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح سب (دینی) کتب کا معاملہ ہے کہ جب وہ پرانی ہو جائیں اور فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہیں، یعنی یہ کہ دفن کرنے سے تعظیم میں خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ عالم انسانیت کے افضل نفوس (انبیاء کرام و اولیاء عظام، جن کی تعظیم واجب ہے) کو دفن کیا جاتا ہے، اور ”الذخیرہ“ میں ہے: مصحف جب پرانا ہو جائے اور اس سے پڑھنا دشوار ہو جائے، تو اسے آگ میں جلایا نہ جائے، اسی کی جانب امام محمد نے اشارہ کیا ہے اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کا دفن کرنا مکروہ نہیں ہے، اور چاہئے کہ پاک کپڑے میں لپیٹ کر (دفن کیا جائے) اور اس کیلئے بغلی قبر (لحد) بنائی جائے، کیونکہ اگر زمین کو شق کر کے (یعنی اس میں گڑھا کھود کر) اس میں دفن کیا جائے تو اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی اور اس میں (یعنی براہ راست اس پر مٹی ڈالنے میں) ایک طرح کی تحقیر ہے، الا یہ کہ اس پر (باقاعدہ) چھت بنا کر پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے (تو پھر کوئی حرج نہیں)، اور اگر چاہیں تو ان بوسیدہ اوراق کی روشنائی کو پانی سے دھو ڈالیں (اور اس غسالے کو کسی پاک جگہ بہالیں تاکہ وہ پاک زمین میں جذب ہو جائے)، یا اللہ عزوجل کے کلام کی تعظیم کی خاطر اسے کسی پاک جگہ پر اس طرح رکھ لیں کہ نہ تو کسی ناپاک شخص کے ہاتھ اس تک پہنچیں اور نہ ہی غبار اور گندگی پہنچے، (ردالمحار علی الدر المنثور جلد 9 ص: 519-518، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

ولا یحوز لہ شیء فی کاغذ فیہ مکتوب من الفقہ وفی الکلام الاولی أن

لا يفعل وفي كتب الطب يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي  
 ﷺ يجوز مسحوه ليلف فيه شيء كذا في القنية۔ ولو محالو حكا كتب فيه  
 القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى  
 بالبزاق كذا في الغرائب۔

ترجمہ: ”کوئی ایسا کاغذ جس میں مسائلِ فقہ لکھے ہوں، تو اس میں کسی چیز کا پلینا جائز  
 نہیں ہے اور اگر کلامِ الہی لکھا ہو تو بہ طریقِ اولیٰ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں! طب کی  
 کتابوں میں ایسا کرنا جائز ہے۔ اور اگر کسی کاغذ میں اللہ تعالیٰ کا نام یا نبی ﷺ کا  
 نام لکھا ہو تو اس مقصد کے تحت اس تحریر کو مٹانا جائز ہے کہ اس میں کوئی چیز لپیٹی جائے،  
 ”قنیہ“ میں اسی طرح ہے۔ اور اگر ایسی تختی (یا بلیک بورڈ) جس میں قرآن لکھا ہو اسے  
 مٹا دیا جائے اور اسے دنیاوی کاموں میں استعمال کیا جائے تو جائز ہے اور اللہ تعالیٰ  
 کے نام کو تھوک کے ساتھ مٹانے کی ممانعت ہے، غرائب میں اسی طرح ہے،“ (فتاویٰ  
 عالمگیری جلد 5 ص: 322، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر آسانی کے ساتھ یا کسی پاک کیمیکل کے ذریعے بوسیدہ اوراق  
 قرآنی یا مصحفِ مقدس یا ایسے کاغذات جن پر اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ اور فرشتوں  
 کے مقدس نام لکھے ہوں، کو دھو دیا جائے (Wash out) اور اس مائع یعنی غسلہ کو  
 دریا میں بہا دیا جائے یا پاک زمین میں جذب کر دیا جائے یا مائع کو بھاپ بنا کر اڑا دیا  
 جائے اور سفوف کو پاک زمین میں دفن کر دیا جائے، تو اب اس سادہ کاغذ کو استعمال  
 میں لاسکتے ہیں، اسے کودا (Pulp) بنا کر اور اس میں مزید ضروری اجزاء ملا کر دوبارہ

کاغذ بنانے میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، جسے Recycling یعنی کسی چیز کو دوبارہ کارآمد بنانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی ہیئت و ماہیت کے بدل جانے سے اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔

حال ہی میں حکومت پنجاب نے قرآن بورڈ بنایا، جس میں یہ سارے مسائل زیر بحث آئے ہیں، علماء و سائنسی ماہرین اور صدر انجمن ناشرین قرآن پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے، جو اس کام کے قابل عمل ہونے (Feasibility) کی رپورٹ دے گی، اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ خود قرآن مجید کی پرنٹنگ اور جلد سازی کے موقع پر بہت سے Double prints، Misprints اور جلد سازی کے موقع پر ناقص مطبوعہ اور ارقی قرآنی بھاری تعداد میں ہوتے ہیں، جن کا مسئلہ درپیش ہے کہ کیا کیا جائے؟۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ وفاقی سطح پر بھی اس طرح کا ”قرآن بورڈ“ بنایا جائے اور اس کی متابعت میں چاروں صوبوں میں ایسے بورڈ بنائے جائیں، لیکن قبل اس کے حکومت کی سطح پر کوئی ایسا قابل قبول حتمی شرعی و انتظامی حل منظوری کے مراحل طے کر کے عملی شکل اختیار کرے۔ بڑے بڑے صنعتکاروں اور اہل ثروت کو چاہئے کہ وہ بڑے شہروں سے بہت باہر غیر آباد علاقے میں چار دیواری کے اندر ایسی محفوظ اور پاک جگہیں بنائیں، جہاں ناقص اور بوسیدہ اور ارقی قرآنی کو محفوظ رکھا جاسکے، کیونکہ نہ اب ایسے بڑے کنوئیں کھودے جاسکتے ہیں، جہاں انہیں جمع کر کے رکھا جائے، نہ دریاؤں میں اتنا پانی ہے کہ ان میں بہا دیا جائے، اور کراچی میں سمندر میں بھی نیٹی

جیٹی کے پل سے جہاں بوسیدہ قرآنی نسخوں اور اوراق کو سمندر برد کر دیا جاتا تھا، اب آبی آلودگی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔

بیچ اور برطانیہ کا قانون

سوال: 204

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ برطانیہ میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے مکان خریدا اور اس کی پے منٹ بھی کر دی، برطانوی قانون کے مطابق مکان خریدنے کے تین سال تک وہ مکان خریدار نہ اپنے نام کرا سکتا ہے اور نہ کسی کو بیچ سکتا ہے۔ تین سال بعد اس کو مکان اپنے نام کرانے اور کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ابھی مکان خریدے دو سال کا عرصہ گزرا تھا کہ حکومت برطانیہ نے اس علاقے کے مکانات گرا کر، مکینوں کو ڈگنی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے، چونکہ مکان پہلے شخص کے نام ہے لہذا حکومت کی طرف سے ملنے والی رقم اسی شخص کو ملے گی، اب وہ شخص جس نے مکان فروخت کیا تھا کہتا ہے کہ وہ قیمت میں رکھوں گا کیونکہ مکان ابھی میرے نام ہے جب کہ وہ مکان فروخت کر چکا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اس رقم کا حق دار کون ہے؟، (عبداللطیف، لندن، یو۔ کے۔)

جواب:

شرعاً بیع کی تعریف یہ ہے کہ ”مبادلة المال بالمال بالتراضي“ یعنی باہمی رضامندی سے مال کا مال کے بدلے میں لین دین کرنا، جن میں سے ایک بیع

(Sold Item) اور ایک ثمن (Price) کہلاتا ہے تو جب باہمی رضامندی سے سودا طے پائے اور بائع ثمن پر اور مشتری بیع پر قبضہ کر لے تو شرعاً بیع مکمل ہو جاتی ہے۔ بیع کی دستاویز (Sale deed) کا تیار کرنا، اس کا حکومت کے متعلقہ ادارے میں اندراج (رجسٹریشن) کرانا یہ قانونی ضروریات ہیں، شرعی ضرورت نہیں، شرعاً تو یہ بیع مکمل ہے۔ ایک فقہی اصول یہ ہے کہ اگر بیع میں کوئی شرط فاسد شامل کر لی جائے جس کی بیع متقاضی نہیں ہے تو وہ شرط فاسد باطل ہو جاتی ہے اور بیع اپنی اصل پر قائم رہتی ہے۔ لیکن جب کسی غیر مسلم ملک میں مسلمان کوئی عقد کریں تو ملکی قانون (Law of the land) کی تعمیل قانوناً لازم ہوتی ہے اور خواستہ و نحواً مستحضر ہوتی ہے اور فریقین معاہدہ کے لئے یہ ایک امر معہود فی الذہن و فی الخارج (Understood) کا دہرہ رکھتا ہے تو جب دو مسلمان آپس میں کوئی عقد کریں تو انہیں پیشگی طور پر یہ طے کر لینا چاہئے کہ ہم ملکی قانون کے مقابل قانون شرعی کی پاسداری کریں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ شریعت کے مسلمہ اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (یعنی نہ ضرر اٹھائیں گے اور نہ دوسرے کو ضرر پہنچائیں گے)، اور یہ اصول رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ سے براہ راست مستفاد ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا:

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنْ "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"۔

ترجمہ: "حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (دوپڑوسیوں کے تنازعے میں) فیصلہ فرمایا: (اسلام میں) نہ نقصان اٹھایا

جانا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے“، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2340)۔  
 عن ابی صِدْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ضَارَّ اضْرَأَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ۔

ترجمہ: ”حضرت ابو صرّمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو نقصان پہنچایا، (اس کی سزا کے طور پر) اللہ تعالیٰ اسے ضرر پہنچائے گا اور جس نے کسی پر سختی کی، اللہ تعالیٰ اس پر شدت فرمائے گا“، (ابن ماجہ، رقم الحدیث: 2342)۔

اگر پہلے سے یہ طے نہیں ہے تب بھی اگر وہ شریعت کی پاسداری کریں تو ان کے لئے سعادت کی بات ہے، لہذا بائع کو چاہئے کہ ”وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيْتِسَىٰ تَمَمْنَا قَلِيلًا“ کے مصداق عارضی دنیوی نفع کی خاطر اپنے عہد اور شرعاً طے شدہ و نافذ شدہ معاہدے کو نہ توڑیں، حکومت سے مروجہ قیمت وصول کر کے مشتری کو دے دیں، اگر حکومت کی جانب سے مکان کے انہدام (Demolishing) سے قبل مشتری کے نام مکان کے مالکانہ حقوق قانونی طور پر منتقل کرنے کی گنجائش ہو تو اسے اس کے نام منتقل کر دیں۔ یہ ان کے لئے سعادت کی بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین کامل رکھنا چاہئے کہ وہ دنیا میں اسے اپنے کرم سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔

قرآن و سنت کی روشنی میں ”تحفظِ خواتین بل“ کی شرعی حیثیت

سوال: 205

پاکستانی پارلیمنٹ نے حقوق نسواں بل کے نام سے ایک بل منظور کیا ہے

، جو صدر پاکستان کے دستخط کے بعد رائج الوقت قانون بن جائے گا۔ علماء کرام اس قانون کو خلاف شرع قرار دیتے ہوئے اس پر سراپا احتجاج ہیں، جبکہ حکومت کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ قانون نہ صرف قرآن و سنت کے خلاف ہے بلکہ اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا۔

ازراہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کیا علماء کا موقف صحیح ہے یا ذمہ داران حکومت پاکستان کا؟، (محمد نصیر اللہ نقشبندی، نیریاں شریف، آزاد کشمیر)۔

### جواب:

پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو تحفظ خواتین بل 2006ء منظور کیا ہے، وہ اپنے مقاصد، بالبعد مرتب ہونے والے اثرات و نتائج اور متن کے اعتبار سے قرآن و سنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہے۔ چونکہ آئین پارلیمنٹ کو اس بات کا پابند بنانا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہو، لہذا یہ اصولی طور پر آئین کے بھی منافی ہے اور قرار داد مقاصد کے بھی منافی ہے، جسے آئین کا موثر حصہ قرار دیا جا چکا ہے۔

ہماری رائے میں جو امور قرآن و سنت اور مقاصد شریعت کے منافی ہیں، وہ یہ ہیں۔

### زنا بالجبر کا حد شرعی سے اخراج:

(1) قرآن و سنت کی رو سے زنا: ایک سنگین جرم ہے، اس کا مفہوم ہر شخص کے ذہن میں واضح ہے، لیکن قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسکی باقاعدہ قانونی اور شرعی تعریف کر دی گئی ہے اور یہ جرم اگر شرعی معیار (یعنی چار عینی کوہ یا مجرم کا اقرار واعتراف جرم) کے مطابق ثابت ہو جائے، تو ”موجب حد“ ہے اور اس پر حد شرعی نافذ ہوگی، جو غیر شادی شدہ کے لیے سو کوڑے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ: ”زانیہ عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر (حقیقت میں) ایمان لاتے ہو، تو تمہیں اللہ کے دین کی خاطر ان دونوں پر

(حد شرعی نافذ کرنے میں) کسی نرمی (ورعایت) کا برتاؤ نہیں کرنا چاہئے“، (سورۃ النور: آیت 2)۔

اور شادی شدہ کے لیے اس فعلِ خبیث کی سزا رجم (سنگسار کرنا) ہے۔ رجم کی سزا سورۃ المائدہ: 43 سے اشارۃً النص کے طور پر اور احادیث مبارکہ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ رجم 53 احادیث مرفوعہ، 14 احادیث مرسلہ، 14 آثار تابعین اور 5 فتاوائے تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، جو حد تو اتر کو پہنچ جاتا ہے، چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک مسلمان شادی شدہ شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر اس نے اعترافی بیان دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر اس نے چار بار اپنے اوپر اقرار جرم کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ اسے رجم (سنگسار) کر دیا جائے“، (صحیح بخاری، کتاب الحدود جلد : 4 ص: 253 مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

ہم اختصار کے پیش نظر تمام احادیث مبارکہ درج نہیں کر رہے۔  
موجب حد ہونے کے اعتبار سے زنا کی تقسیم خلاف شرع ہے:

اور اس حد کے بارے میں قرآن و سنت میں زنا بالرضا اور زنا بالجبر (RAPE) کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ فرق صرف یہ ہوگا کہ زنا بالرضا میں فریقین پر حد جاری ہوگی، اور زنا بالجبر کی صورت میں، وہ فریق جس کا مجبور کر دیا جانا یا یہ ثبوت کو پہنچ جائے، اُسے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ لہذا جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ، مزنیہ بالجبر (RAPED VICTIM) کو بھی حدود آرڈیننس کے تحت زنا کا مجرم گردانا جانا تھا، یہ صریح بہتان اور کذب و افتراء ہے، حدود آرڈیننس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ جبر کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ خود رسول اللہ ﷺ کے سامنے جب زنا بالجبر کا مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے ”مزنیہ بالجبر“ (RAPED VICTIM) کو



باعزت بری کر دیا، ہم اختصار کی بنا پر حدیث درج نہیں کر رہے۔

زنا بالجبر کی تعزیری سزا کی تخفیف کر کے اس میں صوبائی حکومت کو معافی کا اختیار بھی

دیا گیا ہے:

جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ ”تحفظِ خواتین بل“ میں زنا بالجبر کو حد سے نکال کر تعزیراتِ پاکستان کے تحت محض ایک تعزیری جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ امر پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل میں ایکٹ نمبر 45، بابت 1860ء میں نئی دفعہ کی شمولیت کے تحت دفعہ نمبر 376، بعنوان ”زنا بالجبر کے لئے سزا“ میں موجود ہے، جو یہ ہے:

”جو کوئی زنا بالجبر کا ارتکاب کرتا ہے، اسے سزائے موت یا کسی ایک قسم کی سزائے قید، جو کم سے کم پانچ سال یا زیادہ سے زیادہ پچیس سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا کا بھی مستوجب ہوگا“، (بحوالہ: روزنامہ جنگ، جمعرات 16 نومبر 2006ء)۔

مذکورہ بالا سزا، قرآن و سنت کے صریح منافی ہے، کیونکہ اس میں زنا بالجبر کی سزا، سزائے موت یا پانچ سے پچیس سال کی قید بمع جرمانہ رکھی گئی ہے، جبکہ قرآن و سنت میں ”زنا بالجبر“ اگر شرعی معیار کے مطابق ثابت ہو جائے، تو اس کی سزا شادی شدہ کے لئے متعین طور پر رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کے لئے سو کوڑے ہیں، (ملاحظہ ہو، سورۃ النور: 2)۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم اپنے موقف کو شروع میں ثابت کر چکے ہیں۔ زنا بالجبر کو مطلقاً حد سے نکال دینا، قرآن و سنت کا صریح انکار ہے۔

جو لوگ یہ پروپیگنڈہ کر رہے تھے کہ زنا بالجبر شدید ترین جرم ہے، لہذا اسکی سزا بھی شدید ترین اور عبرت ناک ہونی چاہئے۔ انہوں نے اس موجودہ پاس کردہ بل میں یہ سزا، سزائے موت یا پانچ تا پچیس سال قید بمع جرمانہ رکھ کر اسے منج کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے، یعنی اگر منج چاہے تو زنا بالجبر کے سنگین جرم کے مرتکب شخص کو صرف پانچ

سال قید اور جرمانہ کی سزا دیکر بری کر دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے کھلی بغاوت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ: ”اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے (یعنی مخالفت کرے) تو وہی لوگ ظالم ہیں“، (سورۃ البقرۃ: آیت نمبر 229)۔

جب قانون میں زنا بالجبر کی سزا میں لچک رکھ دی گئی ہے، اور اسے جج کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو دراصل یہ بااثر لوگوں کے لئے ایک رعایت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ صوبائی حکومتوں کو اس کی معافی کا بھی اختیار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے ایسے اختیارات صرف اور صرف بااثر لوگوں کے حق میں استعمال ہوتے ہیں، سزا صرف غریبوں کے لئے رہ جاتی ہے۔

پارلیمنٹ کے منظور کردہ اس بل میں زنا بالجبر کے سنگین جرم کے مرتکب شخص سے جرمانہ وصول کرنے کا ذکر بھی سطور بالا میں درج ہے، جو کہ قرآن و سنت کی صریح مخالفت ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت خالد الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں:

”ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مابین کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں، اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور یہ شخص، پہلے شخص سے زیادہ سمجھ دار تھا، کہنے لگا کہ اس نے سچ کہا، ہمارے مابین کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں اور مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”کہو“، تو فریق ثانی نے کہا کہ میرا بیٹا اسکے اہل خانہ میں مزدوری کرتا تھا اور اس نے اسکی بیوی سے زنا کر لیا، تو میں نے اسکے فدیہ کے طور پر ان کو سو بکریاں اور ایک غلام دیا، پھر میں نے اہل علم سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑوں کی سزا اور ایک سال کے لئے جلا وطنی ہے، اور اسکی بیوی پر سنگسار کرنے کی سزا ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے قسم ہے اس

ذاتِ اقدس کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی ہی میں فیصلہ کروں گا، سو) بکریاں اور غلام تھے واپس کر دیئے جائیں گے اور تیرے بیٹے پر سو کوڑوں کی سزا اور جلا وطنی لازم ہے، (پھر آپ نے ایک قریب بیٹھے صحابی سے فرمایا) اے اُمّیس! صبح کو اس عورت کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو، اگر وہ اعترافِ جرم کرے تو اسے رجم کر دو، (راوی کہتا ہے کہ) اس عورت نے اعترافِ جرم کر لیا، اور اسے رجم کر دیا گیا، (صحیح بخاری شریف، کتاب الحدود، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 264 رقم الحدیث: 6859، 6860، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

اس حدیث مبارک سے ثابت ہوا کہ زنا ”موجب حد“ میں جسمانی سزا ہے، مالی جرما نہیں۔

(2) قرآن و سنت کی روشنی میں حدِ زنا کے قیام کے لئے چار عینی گواہوں یا اقرار و اعتراف کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ خواتین بل میں زنا بالجبر کی سزا میں عینی گواہی کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس امر کو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کی دفعہ 376 کے متعلق ٹیبل نمبر 4 میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، یہ قرآن و سنت اور اسلام سے کھلی بغاوت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ: ”اور جس نے غیر اسلامی قانون چاہا، تو (وہ) اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، (سورۃ آل عمران، آیت نمبر 85)۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(1) ترجمہ: ”اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ کافر ہیں،“ (سورۃ المائدہ: 44)۔“

(2) ترجمہ: ”اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے موافق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ ظالم ہیں،“ (سورۃ المائدہ: 45)۔“

(3) ترجمہ: ”اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں، (سورۃ المائدہ: 47)۔“

ان آیات کریمہ کے مخاطب حکمران ہیں، کیوں کہ احکام الہی کو نافذ کرنا ہر فرد کی نہیں، اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ میں اُن حکمرانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بالترتیب کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو حکمران تباہی کی وجہ سے اللہ کے احکام کو نافذ نہ کریں، وہ فاسق ہیں اور جو تمہارا داور سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہ کریں، وہ ظالم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا سرے سے انکار کر دیں، وہ کافر ہیں۔

رحم کی حد کو ختم کر دیا گیا ہے:

(3) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظِ خواتین بل کی ترمیم نمبر 14 میں آرڈیننس نمبر 7 مجریہ 1979ء کی دفعہ 6 اور 7 کو حذف کیا گیا ہے، چنانچہ منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 14 میں واضح طور پر موجود ہے کہ ”زنا کا جرم (نفاذِ حدود) آرڈیننس 1979ء آرڈیننس نمبر 7، مجریہ 1979ء کی دفعات 6 اور 7 کو حذف کر دیا جائیگا۔ (بحوالہ: روزنامہ جنگ، ہفتہ 18 نومبر 2006ء)

اس ترمیم کے مطابق آرڈیننس نمبر 7، 1979ء کی دفعہ 6 کو کُلّی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے، حالانکہ حدودِ آرڈیننس 1979ء کی دفعہ 6 میں زنا بالجبر کے لئے درج ذیل سزائیں مقرر کی گئی تھیں۔

(الف) اگر مرد یا عورت مہسن (یعنی شادی شدہ) ہے تو اسکو کسی جائے عام پر رحم (سنگسار) کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔

(ب) اگر مرد یا عورت مہسن نہیں ہے (یعنی غیر شادی شدہ ہے) تو جائے عام پر کوڑوں کی سزا، جسکی تعداد سو 100 کوڑے ہوگی، دی جائے گی۔ اور کوئی دیگر سزا، جسمیں سزائے موت بھی شامل ہے، دی جائے گی، جو کہ عدالت، حالاتِ مقدمہ کے

مد نظر مناسب سمجھے، (نیو اسلامک لاز 1979، ص: 61؛ منصور بک ہاؤس، لاہور)۔  
 حدود آرڈیننس کی دفعہ 6 میں موجود ان سزاؤں (یعنی الف اور ب) کو پڑھنے کے  
 بعد ایک باشعور انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس دفعہ کو کلی طور پر منسوخ کرنے کا  
 مقصد اس دفعہ میں موجود حدود الہی کو ختم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

(4) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظِ خواتین بل میں زنا با لرضاً ”موجب حد“ کو قابل  
 دست اندازی پولیس جرم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس امر کو پارلیمنٹ کے منظور کردہ  
 بل کے ٹیبل نمبر 8 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ زنا با لرضاً کو قابل دست اندازی پولیس جرم  
 سے خارج کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ملزم کو پکڑ کر عدالت میں لانا، گواہوں کو پکڑ کر  
 عدالت میں پیش کرنا اور موقع پر موجود قرائن و شواہد کو جمع کرنے کی ذمہ داری سے  
 حکومت دست بردار ہوگئی ہے اور مستغیث پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ یہ امر اظہر  
 من الشمس ہے کہ وہ مقدمات جو براہ راست جج کی عدالت میں دائر ہوتے ہیں،  
 ہفتوں اور مہینوں ان کی سماعت کی نوبت نہیں آتی اور اس دوران میں قرائن و واقعات  
 کی شہادت (CIRCUMTANCIAL EVIDENCE) تلف ہو جائے  
 گی اور کسی بھی درجے میں ثبوتِ جرم کے لئے کچھ نہیں بچے گا۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زنا با لرضاء میں پولیس کی کارکردگی کو ناقابل اعتبار  
 گردانتے ہوئے مذکورہ بل میں اس جرم کو ناقابل دست اندازی پولیس جرائم  
 NON-COGNIZABLE CRIMES میں شامل کیا گیا ہے، جب کہ اسی  
 بل کے تحت زنا بالجبر کو قابل دست اندازی پولیس جرائم COGNIZABLE  
 CRIMES میں داخل کیا گیا ہے، یہ امر انتہائی مستحکمہ خیز ہے کہ زنا با لرضاء جیسے جرم  
 میں جس پولیس کو ناقابل اعتبار گردانہ گیا ہے، زنا بالجبر کی صورت میں اسی پولیس پر مکمل  
 اعتماد کیا گیا ہے۔

جج کو حد میں تخفیف کا صوابدیدی اختیار دے کر حد کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے:

(5) پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل میں زنا بالرضا کی سزا، مہسن (یعنی شادی شدہ) ہونے کی صورت میں موت تک سنگسار کرنا اور اگر مہسن نہ ہو تو ایک سو کوڑوں تک کی سزا رکھی گئی ہے۔ اس امر کو قومی اسمبلی میں منظور کردہ بل کے ٹیبیل نمبر 8 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن و سنت کی رو سے غیر شادی شدہ زانی کے لئے متعین سزا، سو کوڑے ہے، جبکہ بل میں موجود غیر شادی شدہ کی سزا، سو کوڑے نہیں، بلکہ سو کوڑے تک بیان کی گئی ہے، جس سے یہ بات واضح ہے کہ جج سو کوڑوں سے کم کی سزا بھی دے سکتا ہے، مثلاً؛ پچاس کوڑے مار کر باعزت بری کر دیا جائے، یہ قرآنی حکم میں صریح تحریف ہے۔

(6) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظِ خواتین بل میں آرڈیننس نمبر 7 مجریہ 1979ء کی دفعہ 3 کو حذف کیا گیا ہے، اس امر کو قومی اسمبلی کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 12 میں دیکھا جاسکتا ہے، جو یہ ہے؛ ”زنا کے جرم (نفاذِ حدود) آرڈیننس 1979ء (آرڈیننس نمبر 7 مجریہ 1979ء) کی دفعہ 3 کو حذف کر دیا جائیگا“، (روزنامہ جنگ، 18 نومبر، 2006ء)۔

قوانینِ حدود کی تعبیر و تشریح میں قرآن و سنت کی بالادستی کی دفعہ کو ختم کر کے اسے عام تعزیری جرائم کا درجہ دے دیا گیا ہے:

مذکورہ آرڈیننس کی دفعہ 3، کہ جس کو کلی طور پر حذف کیا گیا ہے وہ یہ ہے؛ ”آرڈیننس دیگر قوانین پر غالب ہوگا، یعنی آرڈیننس ہذا کے احکام کسی دیگر نافذ الوقت میں درج کسی امر کے باوصف مؤثر ہونگے، (نیو اسلامک لاز، 1979ء ص: 55، منصور بک ہاؤس، لاہور)۔

یہ دفعہ 3، کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے، اسکے سبب حدودِ آرڈیننس کو ان جرائم سے متعلق دوسرے کسی بھی قانون پر بالادستی (OVER RIDING EFFECT) دی گئی تھی، اسکو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں حدودِ الہی کی

قانونی حیثیت (LEGAL STATUS) عام تعزیری قوانین کے برابر ہو جائیگی۔ علماء کمیٹی نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ مجوزہ بل میں مندرجہ ذیل دفعہ شامل کر دی جائے:

”اس قانون کی تعبیر و تشریح سے متعلق کسی بھی دوسرے قانون کے مقابلے میں قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہوگی“، اسے شامل نہیں کیا گیا۔

”جائز نکاح“ کی شرط ختم کر کے فحاشی اور قانون کے غلط استعمال کا راستہ کھول دیا گیا ہے:

(7) پارلیمنٹ کے منظور کردہ تحفظِ خواتین بل میں آرڈیننس نمبر 7 مجریہ 1979ء کی دفعہ 4 میں لفظ ”جائز“ کو حذف کیا گیا ہے، اس امر کو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کی ترمیم نمبر 13 میں دیکھا جاسکتا ہے، جو یہ ہے؛ ”زنا کا جرم (نفاذِ حدود) آرڈیننس 1979ء (آرڈیننس نمبر 7 مجریہ 1979ء) میں دفعہ 4 میں لفظ ”جائز طور پر“ اور مذکورہ دفعہ کے آخر میں تشریح کو حذف کر دیا جائیگا، (روزنامہ جنگ، بروز ہفتہ، 18 نومبر 2006ء)۔

حدود آرڈیننس کی مذکورہ دفعہ 4، جس سے لفظ ”جائز“ کو ختم کیا گیا ہے، وہ یہ ہے؛ ”ایک مرد اور ایک عورت زنا کے مرتکب کہلائیں گے۔ اگر وہ باہمی جائز شادی کے بغیر بالارادہ مباشرت کریں، (نیو اسلامک لاز 1979ء، ص: 55، منصور بک ہاؤس، لاہور)۔

مذکورہ بالا دفعہ میں لفظ شادی کے ساتھ لفظ جائز ہے اور اس مقام پر جائز شادی سے مراد وہ نکاح ہے جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ جب اس سے لفظ جائز کو ختم کر دیا جائے گا تو مطلق دعوائے نکاح ہی سزا سے بچنے کے لئے کافی ہوگا، چاہے وہ دعوائے نکاح شریعت کے معیار کے مطابق جائز ثابت نہ ہو، زبانی دعویٰ یا جعلی کاغذی کارروائی کی بنا پر بھی مجرم چھوٹ جائے گا۔

عاقلہ بالغہ کثوث یا اقرار جرم کے باوجود تعزیر سے نکال دیا گیا ہے:

(8) پارلیمنٹ کے منظور کردہ خواتین بل میں موجود ایکٹ 45، بابت 1860ء میں نئی دفعہ کی شمولیت کے تحت دفعہ 375، بعنوان زنا بالجبر کی شق پنجم میں یہ درج ہے کہ ”اسکی رضامندی سے یا اسکے بغیر، جبکہ وہ سولہ 16 سال سے کم عمر کی ہو، (بحوالہ: روزنامہ جنگ، بروز جمعرات، 16 نومبر، 2006ء)۔

مذکورہ دفعہ کے تحت سولہ 16 برس سے کم عمر (مثلاً؛ پندرہ 15 سال، 11 ماہ، 29 دن) کی عاقلہ بالغہ خاتون کے ساتھ اسکی رضامندی سے زنا کیا گیا ہو، تو مرد تو زنا بالجبر (RAPE) کا مرتکب قرار دے کر سزا دی جائے گی اور اپنی مرضی سے زنا کرنے والی عاقلہ بالغہ عورت کو ارتکاب و ثبوت جرم کے باوجود باعزت بری کر دیا جائے گا اور وہ سزا سے مکمل طور پر محفوظ رہے گی، یہ قرآن و سنت اور شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا، یہ وہی قانونی پوزیشن ہے جو اس وقت امریکہ اور یورپ میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ:

ترجمہ: ”اور جو اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی کرے اور اسکی (قائم کردہ) حدود سے تجاوز کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے (جہنم کی) آگ میں داخل کرے گا، جس میں (وہ) ہمیشہ رہے گا اور اسکے لیے ذلت کا عذاب ہے“، (سورۃ النساء آیت نمبر 14)۔

(9) حدود آرڈیننس کے تحت اگر کسی شخص کے خلاف زنا ”موجب حد“ کا الزام ہو اور مقدمے میں حد کی شرائط پوری نہ ہوں، لیکن فی الجملہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے دفعہ 10 (3) کے تحت تعزیری سزا دی جاسکتی تھی، لیکن منظور کردہ بل کی رو سے ضابطہ نو جداری میں دفعہ 203 سی کا جو اضافہ کیا گیا ہے، اس کی شق نمبر 6 میں یہ لکھ دیا گیا ہے، کہ جو زنا ”موجب حد“ کے الزام سے بری ہو گیا ہو، اس کے خلاف فحاشی کا کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا جاسکتا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ کسی شخص کے خلاف عورت نے زنا بالجبر کا الزام عائد کیا ہو اور جبر کے ثبوت میں کوئی شک رہ جائے تو ملزم بری



ہو جائے گا اور اس کے خلاف کسی فحاشی کی دفعہ کے تحت بھی کوئی کارروائی نہیں کی جاسکے گی۔

”اب یہاں یہ بات تو ثابت ہے کہ جرم ہوا ہے، اور مستغیثہ نے پولیس کے پاس زنا بالجبر (RAPE) کے مقدمے کا اندارج کرایا ہے، لیکن جبر ثابت نہیں ہو سکا، اس کی وجہ وہ ہو سکتی ہیں:

(1) مجرم با اثر تھا اور اس نے موقع اور قرائن کی شہادتوں کو اپنی طاقت و اثر سے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، پولیس نے با اثر شخص کے خوف سے حقائق کو تلف کر دیا یا چھپا دیا یا مجرم اتنا جاہل اور طاقت ور ہے کہ اس کے خوف سے کوئی گواہ عدالت میں گواہی دینے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، لہذا مندرجہ بالا شق کی رو سے وہ زنا بالجبر کے الزام سے تو باعزت بری ہو جائے گا اور پھر اس کے خلاف فحاشی کا مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکے گا تا کہ اسے قطعاً کوئی سزا نہ مل سکے، ہماری پارلیمنٹ کے فاضل ممبران کی اس دانش مندی سے عورت کو ”مثالی تحفظ“ ملے گا، کسی نے سچ کہا ہے سچ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

(2) ابتداء جرم تو باہمی رضا مندی سے ہوا تھا، لیکن عزت بچانے کے لئے RAPE کا دعویٰ کر دیا، اب چونکہ عورت کو ہر قسم کی سزا سے بچانا مقصود ہے، لہذا اس کی خاطر مرد کو بھی باعزت بری کر دیا گیا اور فحاشی (LEWDNESS) کے الزام میں جو کم تر سزائیں مقرر ہو سکتی تھی، اس قانون نے اس کے امکانات کو ختم کر دیا۔ اب اس سے فحاشی کو فروغ ملے گا۔

حدود آرڈیننس پر عمومی اعتراض اور اس کا جواب:

حدود آرڈیننس (1997ء) پر عام طور پر جو سب سے بڑا اعتراض ناقدین کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس میں عورتوں پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب وہ زنا بالجبر کا استغاثہ لے کر تھانے جاتی ہے اور چار عینی شرعی گواہ پیش کرنے میں

نا کام رہتی ہے، جس کا پیش کرنا اکثر تقریباً محال ہے، تو پولیس بجائے اس کی دادری کرنے کے اسے حد قذف کے تحت گرفتار کر کے قید میں ڈال دیتی ہے۔ جس کے باعث نہ صرف وہ حق اور انصاف سے محروم رہ جاتی ہے بلکہ پولیس اور قانون کے مزید ظلم کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہر ایک جو حدود آڈیننس کی اصل دفعات سے واقف نہیں ہے وہ اسے سچ سمجھنے لگا ہے اور اس امر کو عورتوں پر صریح ظلم قرار دیتا ہے۔

اگر حقیقت حال معلوم نہ ہو تو بظاہر یہ اعتراض بہت معقول نظر آتا ہے جب کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، شریعت کورٹ کی تاریخ میں کوئی بھی ایک کیس ایسا موجود نہیں ہے جس میں مزنیہ بالجبر (Rape Victim) کو صرف اس وجہ سے کوئی سزا دی گئی ہو، کہ وہ زنا بالجبر کے چار عینی گواہ پیش کرنے میں نا کام رہی ہے، اصل میں حدود آڈیننس کے تحت ایسی کوئی سزا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدود آڈیننس میں چار عینی گواہوں کی ضرورت شرعی حد کے نفاذ کے لئے پڑتی ہے، جبکہ حدود آڈیننس کی دفعہ (3) 10 کے تحت چار عینی گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں ملزم کو تعزیری سزا دی جاسکتی ہے، اگر جرم کا ہونا ثابت ہو چکا ہے ایک گواہی سے یا میڈیکل اور طبی رپورٹوں کی روشنی میں، یہی وجہ ہے کہ شریعت کورٹ میں اکثر زنا بالجبر کے ملزمان کو اسی دفعہ کے تحت تعزیری سزائیں دی گئیں ہیں۔

اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں عورت کو زنا موجب حد کے تحت نہیں بلکہ حد قذف کے تحت سزائیں دی گئیں ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ حدود آڈیننس میں حد قذف کی دفعہ 3 کی استثناء 2 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا بالجبر کے اسغاثہ کے ساتھ کسی قانونی ادارے سے رجوع کرتی ہے، اسے ہرگز سزا نہیں دی جاسکتی اگر وہ چار عینی گواہ پیش کرنے میں نا کام رہتی ہے، اب یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جانی چاہئے کہ حدود آڈیننس میں عورتوں پر اس طرح کے ظلم کی کوئی گنجائش موجود

نہیں ہے، اگر کسی عورت پر اس طرح کا ظلم ہوا ہے تو یہ صرف اور صرف ہماری پولیس اور قانونی اداروں کے نظام میں موجود خرابیوں کے باعث ہے، اسکی اصلاح کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ علمائے کرام کی۔

**”لعان“ میں عورت کو معلق چھوڑ دیا گیا ہے:**

(10) قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 میں قرآن کریم کے بیان کئے ہوئے لعان، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو عورت کے مطالبے پر اسے لعان کی کاروائی میں قسمیں کھانی ہوں گی اور میاں بیوی کی قسموں کے بعد ان کے درمیان نکاح فسخ کر دیا جائیگا۔ قذف آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اگر شوہر لعان کی کاروائی سے انکار کرے تو اسے اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا، جب تک وہ لعان پر آمادہ نہ ہو، منظور کردہ بل میں یہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر لعان پر آمادہ نہ ہو تو عورت بے بسی سے لٹکی رہے گی۔ نہ ہی اپنی بے گناہی لعان کے ذریعے ثابت کر سکے گی، اور نہ نکاح فسخ کر سکے گی۔

یہ دفعہ اس لئے شامل کی گئی کہ سیکولر فلسفہ قانون میں کسی شخص کو کسی جرم کے اقرار یا انکار پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، وہ عدالت کو کسی سوال کے جواب میں نہ ”ہاں“ اور نہ ہی ”نہ“، بلکہ کہہ دے کہ NO COMMENTS، تو عدالت اسے کچھ نہیں کہے گی، اس سیکولر فلسفہ قانون کو اسلام کے قانون لعان پر بالادستی (OVER RIDING EFFECT) عطا کر دی گئی ہے۔

**اعترافِ زنا کے باوجود زنا کو ساقط کر دیا گیا ہے:**

نیز قذف آرڈیننس کی دفعہ 14 کی ذیلی دفعہ چار میں کہا گیا تھا کہ ”وہ بیوی جو شوہر کے الزام کو سچا تسلیم کر چکی ہو، نفاذِ حدود کے جرمِ زنا آرڈیننس 1979ء کے تحت جرمِ زنا مستوجب حد کی سزا دی جائے گی، (نیو اسلامک لاز، 1979ء ص: 161 مطبوعہ منصور بک ہاؤس، لاہور)۔“

جب کہ موجودہ تحفظ خواتین بل میں اس دفعہ کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کا اثر یہ مرتب ہوگا کہ جو عورت زنا کا اعتراف کر لے اس پر حد زنا جاری نہیں ہوگی اور یہ قرآن و سنت کی صریح مخالفت ہے۔

### تحفظ خواتین بل کے اثرات و نتائج

1۔ اگر یہ بل تمام مراحل طے کر کے خدا نخواستہ قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو اسے ”قانون تحفظ خواتین“ کے بجائے ”قانون برائے فروغ فحاشی“ کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا۔

2۔ عملاً پاکستان قرآن و سنت کے صریح احکام اور پاکیزہ سماجی اقدار کے ماحول سے نکل کر مغرب کے بے غیرتی اور بے ہمتی اور فروغ فحاشی کے ماحول میں چلا جائے گا۔  
3۔ جب قانون، زنا اور فحاشی کو روکنے میں ناکام رہے گا، بلکہ قانون کا علامتی خوف بھی اٹھ جائے گا، تو پاکستان میں ”کاروکاری“، ”غیرت کے نام پر قتل“ اور ماوراء عدالت انتقامی کاروائیوں کو فروغ ملے گا، کیونکہ پاکستانی معاشرہ بالعموم اور مسلمان بالخصوص اس بے غیرتی کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔

4۔ غیر شادی شدہ جوڑے، مغرب کی طرح اکٹھے رہنا چاہیں یا ہوٹل میں کمرہ بک کر کے سیاہ کاری کرنا چاہیں، تو انہیں قانون کا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔

5۔ صدر امریکا جارج واکر بش اور وزیراعظم برطانیہ ٹونی بلیئر نے بر ملا اس قانون کی تحسین کی ہے، اسے روشن خیالی، آزاد روی اور جدت پسندی کا مظہر قرار دیا ہے۔

ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جس قانون کی تعریف و تحسین یہ دو نصاریٰ کریں، امت مسلمہ پر ہر سو آگ برسانے والے بش اور ٹونی بلیئر کریں، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو سکتا ہے؟، ان کی تحسین اس امر کی دلیل ہے کہ یہ مقاصد کفر کو پورا کر رہا ہے، اور اس کے برعکس دین کا درد رکھنے والے تمام مسلمان اور علماء غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔

ہماری رائے میں پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو ”تحفظ خواتین بل“ کا نام دینا، صریح مندرجہ ذیل ہے، اس میں خواتین کو غیر محفوظ نظر کر دیا گیا ہے، ان کو تحفظ عطا نہیں کیا گیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کالے جھٹی کا نام ”شمس الزمان“ یا ”نور الزمان“ رکھ دیں۔

ایک ٹیکنیکل اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ 1973ء کا دستور اسلامی ہے، اس پر علماء نے دستخط کئے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کیا، جب کہ حدود آرڈیننس 1979ء میں آیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1973ء کے آئین میں دو واضح تحدیدات (BINDINGS) تھیں:

- (1) یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔
- (2) یہ کہ تمام موجودہ قوانین کو دس سال کے اندر اسلام کے مطابق ڈھال لیا جائے گا۔

تو اگر 1973ء کے آئین پر لفظاً اور معنی عمل کیا گیا ہوتا، تو بھی 1983ء سے پہلے پہلے قوانین حدود اور قوانین قصاص کا نفاذ کرنا لازمی، قانونی تقاضہ تھا۔

### علماء کی تجاویز

تحفظ خواتین بل کے لئے ہم نے حکومت کو جو تجاویز پیش کی تھیں، وہ یہ ہیں: یہ کہ

- 1- خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے، جاگیر دار معاشرے میں اگر کسی خاتون کے لئے خاندان کے اندر متوازی رشتہ موجود نہ ہو تو اس کی ”قرآن سے شادی“ کر دی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لئے اسے غیر شادی شدہ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے وراثت خاندان سے باہر نہ جائے۔

- 2- یہ کہ عاقلہ بالغہ عورت کی، اس کی مرضی کے خلاف جبراً شادی کرانے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے۔

- 3- یہ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح ”نکاح شغار“، جسے آج کل ”وٹہ سٹہ“ کہا جاتا ہے، اگر اس میں کسی بھی جانب سے عورت کی رضامندی نہ ہو یا ان کا مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ

ایک شخص اپنی بہن کا نکاح اپنی بیوی کے بدل مہر میں کر دے، اسے تعزیری جرم قرار دیا جائے۔

4۔ یہ کہ ایک وقت میں تین طلاق (طلاق مغلظہ) دینے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور اس سلسلے میں شوہر کے ساتھ وثیقہ نویس، اوتھ کمشنر، نوٹری پبلک اور گواہوں کو بھی شریک جرم سمجھا جائے۔

5۔ یہ کہ وئی کی رسم کو تعزیری جرم قرار دیا جائے، جس میں قصاص کے مالی بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کی چھوٹی بچیوں کا نکاح مقتول کے خاندان کے مردوں سے کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عموں میں بے انتہا تفاوت ہوتا ہے، اس سے اسلام اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔

6۔ کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل اور مارا مارے عدالت قتل و دیگر جرائم کا خاتمہ مقصود ہے، تو قانون میں متاثرین جرائم اور مظلومین کو تحفظ دیا جائے، عدل کو یقینی بنایا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، ورنہ محض وعظ و تذکیر یا اسمبلیوں میں تقاریر سے ان جرائم کو روکا نہیں جاسکے گا اور موجودہ قانون نے ان جرائم کے امکانات میں اضافہ کر دیا ہے۔

نوٹ: پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے بارے میں ہماری یہ رائے خالص دینی اصولوں پر مبنی ہے، اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہماری کسی جماعت سے سیاسی وابستگی ہے اور نہ ہی حال یا مستقبل میں کوئی سیاسی مقاصد ہیں۔ کوئی دلائل کی بنیاد پر ہماری کسی رائے سے اختلاف کرے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن جس طرح ہر شعبہ زندگی میں اس شعبے کے ماہرین رائے دینے کا حق رکھتے ہیں اور انہی کی رائے کو قابل توجہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح دین کو اتنا مظلوم نہ بنا دیا جائے کہ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کے ماہرانہ علم کے بغیر ہر شخص اسلام پر اتھارٹی بننے کا دعویٰ کرے اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے۔

نوٹ: اس فتوے کے منظر عام پر آنے کے بعد مؤرخہ 26 نومبر 2006ء کو پریس کلب، کراچی میں الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کی موجودگی میں 1400 اکابر علمائے اہلسنت نے اس فتوے پر دستخط کئے اور اس کی مکمل ناسید کا اعلان کیا۔ اس فتوے کو جو بھی شائع کرے (اصل یا اس کا انگریزی ترجمہ)، اس کی اخلاقی و شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کا مکمل متن شائع کرے، کیونکہ نامکمل عبارت سے غلط مطلب بھی اخذ کیا جاسکتا ہے، اور اسے پروپیگنڈے یا دیگر مذموم مقاصد کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے، جبکہ ہم نے یہ کام اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیا ہے۔

نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM